



**B SĒN TŪS BŪMB NINGQI
NĀBIYQĀMĀ HQDIIS-RĀMBĀ
ĀNSUKLOPEDIĒ WĀ**

Moore | مورى

المبني من مؤسسه الاحبار النبويه



ح) جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ، ١٤٤٦ هـ

جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات
المنتقى من موسوعة الأحاديث النبوية - موري. / جمعية خدمة
المحتوى الإسلامي باللغات - ط١. - الرياض ، ١٤٤٦ هـ
٣٥٣ ص ؛ ..سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١١٦٥٤
ردمك: ٦-٨٤-٨٤٧٤-٦٠٣-٩٧٨

Partners in Implementation



This publication may be printed and disseminated by any means provided that the source is mentioned and no change is made to the text.

- Tel: +966 50 244 7000
- info@islamiccontent.org
- Riyadh 13245- 2836
- www.islamhouse.com

المستقى

من

موسوعة الأحاديث النبوية

إعداد القسم العلمي

لغة موري

Moore

B sēn tūus būmb ninga Nabiyaamā
Hadiis-rāmbā ānsiklopediē wā

جمعية خدمة المحتوى
الإسلامي باللغات



جمعية الدعوة
وتوعية الجاليات بالربوة



**Ne Wënd yvvrã bark sën yaa dūni gvbg-n-yols
Naabã, n yaa Yaoolem raar welg-n-yols Naabã la
d sing d tvumdã.**

Tvovsgã

Pëgr be ne Wënd sën yaa bõn-naands Naabã la Wënd puvsg la A tulgr be tõnd Nabiyaamã zugu, a Mvhammad ne a zak rãmba la a Şahaabs gilli, la ned ning sën tũ-ba ne manegre, n tug n tãag dīinã rolb raare, rē poorē: Ad bmb ning sën yaa zısg n yud ti yaa tılae ti lıslaam ning a toaag ne-a, karengē, la tagsgo, la tags-n-gesga, la a bãngre, la a tvumde, -Wënd Gafã loogr poorē-, yaa Wënd Tën-tvum Sūnnah (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga), Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) yeelame:«Mam basa bũmb yãmb pugē, yãmb a nebã, yãmb sã n gãd-a y kõn n menem lae: yaa Wënd Gafã la A Nabiyaamã Sūnnah» limaam Maalik n togs-a,La Wënd yeelame, A Naam zëk yã:{La bũmb ning Wënd Tën-tvum sën wa ne yãmb nengē fãa, bı y reeg-y-yã-a; la a sën gidg yãmb n yi bũmb ning fãa, bı y base}[Al-ħaşrv: 7],Wãnde n kit ti sull ning sën get Lislaangã bãngr sõgneg ne buud-rãmbã goamã, la sull ning sën get Da'awa wã la sãambã wilgrã yellã, sën be Rabwa wã, b maana nonglem, n na n seglg ãnsiklopedi ne Nabiyaamã Hadiis-rãmbã la b lebgre ne buud goam saare.

La ad Wënd yolsame A naam yt wagelle n zêke ti b tûus sulli sên yi ânsiklopedi-kângã pugê, lıslaam sên tar tvlsew ne-a a diina yelê la a dũni wã, n lagem ne a vênegre sên yaa koεεga, la a maanã-rãmbã welsgo la b raabã, la b yõodã sãnda, la b yiis-a seb-kângã pugê sên pud ti:«B sên tûus bũmb ninga Nabiyaamã Hadiis-rãmbã ânsiklopediê wã», la tvvmdã yaa sên yãse n na n lebg-a n tvğ dũni wã buud goam nins sên tar gomdbã fãa, sên na yl t'a nafã wã gũbgi, n leb n yaa Wënd Tën-tvum Sũnnã taasgo, (Wënd pvvsg la A tlggr be a yĩnga) nebã nengê ne b buud-rãmbã goama.

La d kota Wënd t'A reeg tvvum-kângã, la A maan-a ti yaa Albark tvvumde, n walg toor zall ti yaa Yê yĩnga, la A yao ned fãa sên sõng a seglgã la a lebgrã la a sêegrã.La Wënd na pvvsg la A tlgg tõnd Nabiyaamã a Mvhammad.

(1) – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِيَ جَرَّتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِيَ جَرَّتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

وفي لفظ للبخاري: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى».

[صحيح] - [متفق عليه]

(1) – Yii a Umar [bn Al-hattaab nengē - Wēnd yard be a yīnga-: a yeelame: Wēnd Tēn-tvvmā, (Wēnd pvvsg la A tılgr be a yīnga) yeeleme: «Ad tvvmā tūuda ne Anniya-rāmbā, la ad ned fāa sēn dık Anniy ningā n be ne-a, rēnd ned ning sēn maana Hıgra (yik Mak n kēng Madiinā) tu yaa Wēnd la A Tēn-tvvmā yīnga, rēnd yē soab Yıkrā yuta Wēnd la A Tēn-tvvmā yīnga, la ned ning Yıkrā sēn wa n yaa dūni yīnga n rat n na n paam-a, maa yaa paga la a rat n furi, rēnd yē yıkrā yaa a sēn yik n kēng būmb ning yīngā». La gom-bila a yembr n be Albuhaary puga: «Ad tvvmā yaa ne Anniy-rāmbā, la ninsaal fāa yaa a sēn maan Anniy ningā n be ne-a». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsā taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pvvsg la A tılgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, tu tvvmā fāa yaa b sēn get Anniy

wã, la bu-kãngã yaa bũmb sãn gũbg tuumã fãa gill pugẽ, sãn yaa tũudum yela la tumd-n-taare, rënd ned ning sãn wa n rika a tuumã ti yaa nafa la a rata, a ka na n paame rẽnda nafã-kãngã bala, a ka tar yel-sõmde, la ned ning sãn wa n rika a tuumdã ti yaa Wënd la a rat n na n pẽnege, a paamda yel-sõmd a tuumdẽ wã la rolbo, baa ti mikame ti yaa tum zaala, wala yũub la rubo.

Rẽ poorẽ ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tũlgr be a yĩnga) rik bilgri, n na n wilg Anniy wã vũun sãn ta to-to ningã tuumẽ wã, n lagem ne fãa zemsa taab yĩngr-yĩngrã, rẽnda a wilga ned ning sãn wa n rika Anniy ne Yikrã la tẽngã basgo ti yaa Wënd yardã baoobo, rënd yẽ soab yikrã yaa yikr sari wã sãn rate, ti yaa b sãn reege, t'a na n paam yel-sõmdã a Anniyã sũdgrã yĩngã, la ned ning sãn wa n rika a yikrã ti yaa dũni nafa raab la arzeka la lohorem maa tolbo maa paga, rënd a ka na n paam a yikrã pugẽ sã n ka nafã-kãngã bala, a sãn maana Anniy wã ne bũmb ningã, la a ka na n paam yel-sõma la rolbã ye.

Sãn be Hadiisã yõod-rãmbẽ:

1. Hadiisã kengdame ti b yals ne Wënd yembgo, bala Wënd ka reegd tuumde, sã n ka tuum ninga b sãn bao a pugẽ Wënd yardã ye.
2. Tuum nins sãn tar n pẽnegd ne Wëndã, A Naam yũ wagell n zẽke, ninsaal sã n tum-a ti yaa wala

yel-minimdsā a ka tar nafa a zug ye, halı t'a wa tug n maan a Anniy wā ti yaa yel-sōmd la a rata.

(4560)

(2) – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه. ولمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». [صحيح] - [متفق عليه]

(2) – Yii a ‘Aaša nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tën-tvumā yeelame (Wënd pvvsg la A tıgr be a yīnga): «**Ned ning sēn wa n tvvvs būmb tōnd yel-kānga pvğē, sēn pa be a pvğē, tvvum-kānga pa reegd ye**» A Bvhaart la a Muslim n reeg-a. La a Muslim welg n yeelame: "ned ning sēn maana tvvumde, ti ka tōnd sagelle, ad rēnda lebsd n kō a soabā». [Sahuhvñ (A manegame)] [A Al-Bvḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wënd pvvsg la A tıgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, ti ned ning sēn tvğ n wa ne būmb dīinā pvğē, maa a tvğ n maana tvvumd ti daliil ka be a zugu, sēn yi Alkvraanē wā maa Sūnnah pvğē, b na n lebs-a-la a soaba, ka na n reeg Wënd nengē ye.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Tūud-rāmbā tikr yta ne būmb ning sën wa Alkurāanā la Sūnah pugē, rënd ned ka sōmb n tū Wēnde, (A Naam zēkame), rëndame tu yaa ne būmb ning Wënd sën kō sorā, ka sōmb n tū-A ne yel-sungdsā la yel-paalā ye.
2. Wilgdame tu dīinā ka ne yam maa f sën get būmb ning tu yaa sōma fo nengē ye, la ad dīinā yaa Wënd Tën-tuumā pugbo (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga).
3. Hadiis-kāngā wilgda dīinā sën pidā.
4. Bid'ah wā yē yaa būmb fāa b sën yēbg dīinā pugē, t'a rag n ka be Nabiyaamā, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) la a sahaabsā wakatē ye, sën yaa loεεga, maa gomde, maa tuumde.
5. Hadiis-kāngā yaa yēgr sën be lūslaamdā yēgē, a leb yaa wala zūslem-magdga ne tuumā, rënd sën mik tu tuumā fāa b sën ka rat-a ne Wënd yīnga, tuumdā soab pa tar yel-sōmd ye, yaa woto bala tuum fāa sën ka zems ne Wënd Tën-tuumā sën wa ne wā, (Wënd puusg la A tulgr

be a yīnga) yēnda yaa būmb b sēn lebsd-a a soabā nengē.

6. yel-paals nins b sēn gidgā, yaa dīinā yela, ka dūni yel ye.

(4792)

Lelaangā yaa f maan kaset tu soab sēn na n tū n tūg ka be rēnda Wēnde, la a Mhammad yaa Wēnd Tēn-twma

(3) – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «**أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ**» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «**أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ**» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «**مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ**» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: «**أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُمَّةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ**» قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ

مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَأِنَّهُ جَبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(3) – Yii a Umar [bn Al-hattaab nengē, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: Raar a yembr tōnd sēn da zī Wēnd Tēn-tvum nengē, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga), la raoa sēn puk tōnd nengē, t'a futā peelem yaa wvsgo, t'a zugā zoobd sablem yaa wvsgo, b ka ne sor vūun a zug ye, ned baa a yembr me ka mi-a tōnd pugē, hal t'a wa tvg n zīnd Nabiyaama nengē, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga), n tik a rūm a yiibā n teeg Nabiyaamā rūmā, n rik a nus tal a yiibā n rogl a ge a yiibā zugu, n yeele: «**Muhammade, wilg maam luslaang sēn yaa a soaba, t'a yeele: « tu Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) yeele: «luslaangā yaa f maan kaset tu soab sēn na n tū n tvlg ka be rēnda Wēnde, la a Muhammad yaa Wēnd Tēn-tvuma, la f yals ne Puvsgo la f yāk Zaka n kō, la f loe Ramadaane, la f kaag Roogā tu f sā n paam sor n na n tvg beenē».** La a yeele: «**f togs sīda**». T'a Umar yeele: «**tu tōnd maan yel-solemd ne-a, a sēn sokd Nabiyaamā la a leb n sudgd-a wā**». La raoā yeele: «**bi f kō maam kibare sud-kūun sēn yaa a soaba**», Tu Nabiyaamā yeele: «**yaa f kō sud ne Wēnde, la A malegsā la A Gaf-rāmbā la A Tēn-tvumbā la Yaoolem Raarā, la f kō sud ne Pvlengā, a wēnga la a sōma**». La a yeele: «**f togsa**

sida». T'a yeele: « **bi f togs maam manegre**». La a yeele: «**yaa fo tū Wēnde, tu yaa wala fo ne-A lame, bala fo sā n yi n ka ne-A, ad A ne-f lame**». T'a yeele: «**bi f togs maam dūni yikr wakato**», la a yeele: «**ad fo pa mi-a ma me ka mi-a**», t'a yeele: « **bi f togs maam a tagms-rāmbā**». T'a yeele: «**yaa yemb-poaka sēn na n wa rog a zu-soaba, la fo sēn na n wa yā na-zaalā rāmba sēn yaa beela rāmba sēn yaa talsā n yaa rūm-gūudbā, tu b wogend meebā**». Rē poorē t'a looge tu mam zīnd woko, rē poorē tu Nabiyaama yeele: « **Umaru! Fo mii sokda bu?**» Tū mam yeele: «**Wēnd la A Tēn-tvuma n yud minim**». T'a yeele: « **ad yaa a Gibriila, a waame n wilgd yāmba y dīnā**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

A Umar kōta kibare (Wēnd yard be a yīnga) t'a Gibriila, a puka Sahaabsē wā -Wēnd yard be b yīnga-t'a yaa sēn rik rao naande, tu b ka mi-a ye, la a sifā yaa t'a fuugā yaa peell wvsgo, t'a zoobdā yaa sabell wvsgo, b ka ne sor tagmas a zug sēn yaa yaamse, la wubsgu, la zoobd zūndgri, la futā rēgd ye, ned baa a yembr ka mi - a zīidbā suk ye, tu bāmb zī Nabiyaamā nengē (Wēnd pvvsg la A tūlgr be a yīnga) t'a zīnd Nabiyaamā taoore, tu yaa karen-biig zīndgu, n sok-a lūslaangā yelle, tu Nabiyaamā leok-a ne zeng-raad-kāensā sēn kumde,

reeg-f-zugē ne sahd a yiiubā, la gūus wakat a nu wā, la kō Zakā b rāmbā, la Ramadaanā no-loeerā maanego, la hagiimdā farilā maaneg sā n yaa tōoda.

Tı soakdā yeele: «**f togs sıda**». Tı sahaabsā maan yel-solemde, a sēn sokd tı yaa a sēn ka mi sokre, rē poorē t'a yaool n sıgd-a wā.

Rē poorē t'a sok-a sıd-kūunā yelle, t'a leok-a ne zeng-raad-kāensā a yoobā, sēn kumbde, kō sıd ne Wēnde belmā, A Naam yı wagelle, la A sıf-rāmbā la f leb n welg n kō-A tıum ning sēn yaa Yē tıuma, wala naanegā, la f leb n welg n kō-A tūudumā, la f kō sıda tu malegsā b naan-b lame ne nuura, tı b yaa yembs b sēn waooge, b ka kUSD Wēnde, A Naam yı wagell n zēke, la yaa Wēnd sagellā la b tımda, la f kō sıda ne gaf-rāmb nins sēn sig tēn-tıumbā zugā, sēn yi Wēnd nengē wā, A Naam yı wagelle, wala Alkurāanā la Tawraatā la Lingiilā la sēn wōnd rē, la kō sıd ne tēn-tıumb nins sēn taasd dīinā Wēnd yīngā, sēn be b pıgē yaa a Nuuhu, la a lbraahuma, la a Muusa la a lısa la b baasdgā yaa a Mıhammade, (Wēnd pıvsg la A tılgr be a yīnga) la zēng sēn ka bāmba sēn yaa nabiyaam-rāmb la tēn-tıumbā, la kō sıd ne yaolem raarā la yel nins sēn be kūumā poorē wā, kēeda yēnda pıgē, sēn yaa kabr nango la vum ning sēn be yaadē wā, la f kō sıd tı ninsaalā b yıkd-a lame kūumā poorē, n geel a tıumā, t'a kēngr zıigē, yaa arzānā maa Bugmē. La kō sıd tı Wēnd

korda yelã n zems wala Wënd bãngrã sën dag n reng taoor ti na n yume wã, la A sën guls rëndã la A tulsmã, la a sën na yí wala A sën kord-a to-to ningã. Rẽ poorẽ t'a sok-a manegrã yelle, tí Nabiyaamã kô-a kibar tí ad manegre, yaa fo tũ Wënde, tí yaa wala fo ne-A lame, rënd f sã n ka paam sor n na n ta dargε-kãngã bí f tũ tí yaa wala Wënd geta foom, rënd rëenem yaa seedg la gesg dargε, ning f yamẽ tí yaa wala fo nee Wëndã, yënda la rëenem dargε, yë me n leb n zëk n yuda, yíib soaba yaa gũus Wëndã dargε sën ta zīg ningã.

Rẽ poorẽ t'a sok-a dũni wã yíkr yaa rabure? Tí Nabiyaamã (Wënd pũsg la A tulgr be a yĩnga) vëneg n wilg tí ad dũni wã yíkri yaa bũmb ning Wënd sën bas a bãngrã A nangẽ, rënd bõn-naandg baa a yembr ka mi-a ye, b sën sokd a soabã la soakdã meng me ka mi ye.

Rẽ poorẽ t'a sok-a dũni wã yíkr tagmas-rãmbã? Tí Nabiyaamã vëneg n wilgi (Wënd pũsg la A tulgr be a yĩnga) tí sën be a tagmes-rãmbã pugẽ yaa yem-pogs wũsgre, la b koambã. maa koambã sën namsd b ma-rãmbã sën na n wũsge, tí b tũmd ne b ma-rãmbã wala yem-pogse, tí la rũm-kumbã la talsã b na n wa lebga arzεgs rãmba zãmaan yaoog wakato, tí b pugd taaba ne rot nagsgo la b toambo (meebo).

Rẽ poorẽ Nabiyaamã (Wënd pũsg la A tulgr be a yĩnga) kô kibare tí ad sokdã yaa a Gibriila, a waame n na n wilg sahaabsã dīin-kãngã sën yaa tëeg turg dīinã.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgda Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) zug sōngã sën ta zīig ninga, n wilgdē t'a zīi ne Sahaabsã, tū b zī ne-a.
2. Wilgda sari wã sën kō sor tū b sōmb n maana bug-bug ne sokda la b pēneg-a t'a faseme, sën na yulē t'a tōog n leok sokrã tū rabeem ka be ye.
3. Hadiisã wilgda zugd maaneg ne karen-saamba, wala a Gibriil -Tulgr be a yīng- sën maan Nabiyaamã, bala a zīinda Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) taoore, zugd soab zīndig buudu, sën na yul n paam n reeg bāngre a nengē.
4. Yaa tū lūslaangã zeng-raad yaa a nu la sūd-kūunã yēga yaa a yoobe.
5. Sūd-kūunã la lūslaangã sã n wa tug n lagem taab būmb a yembr zugu, b welgda lūslaangã ne tuum nins sën be yunga, la b rik sūd-kūunã ne tuum nins sën be pugē wã.
6. Wilgdame tū dīinã a yaa darge-rāmb sën yōs taaba, rēnd darge rēengã: yaa lūslaango, la yiib soabã: yaa sūd-kūuni, tāab soabã: yaa manegre, yēnd n tug n zēk n yuda.

7. Yaa ti yēgrā soakda yta minim kaalgo, la zulmā me n ytt sabab ti b sokā, rē n kt ti sahaabsā maan yel-solemd ne a sēn sokd la a sūdgdē wā.
8. Hadiisā wilgdame ti b sōmb n sunga ne yell ning sēn pak n yuda n yaool n ges sēn pugde, bala a sunga ne sahd a yuibā lslaangā welgsg pugē, la a sung ne Wēnd yembgā ne sūd-kūunā welsg zīgē.
9. Wilgda b sēn na n sok bāngdā būmb ning soakda sēn ka zi, ti yaa sēn na n wilg a to sēn ka mi, t'a bānge.
- 10-Wilgdame ti dūni wā yikr yaa minim-rāmb nins A sēn welg ne A Mengā toor zalle.

(4563)

B mee lslaangā zeng raad a nu zugu

(4) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(4) – Yii a ‘Abdullaah [bn ‘Umar nengē, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: Wēnd Tēn-tvumā, (Wēnd pvsug la A tulgr be a yīnga) yeelame: «**B mee lslaangā zeng-raad a nu zugu, yaa kō sīda ti soab ka be sēn tūud n tilg ti pa Wēnd ye, a Muhammad me yaa Wēnd Tēn-tvuma, la Pvsugā yānesgo, la**

Zak kũuni, la Roogã kaagre, la Ramadaanã no-loeere». [A manegame] [A Al-Buħaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tɪlgr be a yĩnga) wõnesa lɪslaangã ne meoongo sẽn me n maneg ne a zeng-raad a nu wã, ti yaa bãmb n tvk-a; ti lɪslaangã yel sẽn kellã fãa, yaa sẽn na n pids n lok meoong-kãngã, La zeng-raad-kãensã rëenem: yaa sahd a yiybã; ti soab sẽn na n tũ n tɪlg ka be rëndã Wëndẽ, la a Muħammad me yaa Wënd Tën-tvuma, bãmbã yaa zeng-raoog a yembre, b yiybã ka welgd n bas taab ye; yamb yeta b yiybã n reeg a zugu ne Wënd yemblemã la Wënd sẽn sõmb ne tũudmã, A Yembr Tãa, pa zẽng sẽn ka Yẽ ye, la a tum ne b yiybã sẽn ratã, la a kõ sid ne a Muħammad tën-tvmdlemã, (Wënd puusg la A tɪlgr be a yĩnga). Zeng-raoog a yiybã: yaa Puusgã yalsgo, yẽ me la Puusg a nu wã sẽn yaa tilae wã, yvng la wĩndga, Fagiri, Zafare, Laansare, Magrib la Sãanfo, ne b sart-rãmbã la b zeng-raad nins sẽn yaa tilae wã. Zeng-raoog a tãab soaba: yaa Zakã yãkr sẽn yaa tilae wã, la yẽ yaa tũudum ne arzeka, lidg fãa sẽn ta alkadr b sẽn yãk toaaga, sãri wã pvge ti b miẽ, ti b yãkd n kõt neb nins sẽn sõmbã ne-a wã. Zeng-raoog a naas soaba: yaa hagiimdu, la yẽ yaa togl Makã, n tvg n maan tũudum

tuuma, Wënd tũudum yĩnga, (A Naam yi wagell n zēke). Zeng-raoog a nu soaba: yaa Ramadaanā no-loeere, yē me yaa: yōk-m-meng n yi rubo, la yũubu, la zēng sēn ka b yiibā sēn yaa yel nins sēn kaood noorā, n lagem ne Anniy rikre tu yaa Wënd tũudum, sēn na n sung Fagir pukri n tug n tãag wĩndgã lvuse.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Yaa sahd a yiibā sēn tũud taaba, rēnd b yiibā yembr ka manegde, rēndame tu lagma ne a to wā; rēnd n kit tu Wënd maan b yiibā tu yaa zeng-raoog a yembre.
2. Sahd a yiibā, bāmb la dīinā yēgre, rēnd goam ka reegde, tuum ka reegde, sã n ka ne b yiibā.

(65000)

Yaa b tũ Wēnde la b ra maan lagem-n-taar ne-A ye, la yembsã hake sēn zao Wēnde, yaa A ra wa tug n nams ned sēn ka maan lagem-n-taar ne-A baa fv ye

(5) – عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رِذْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عَفِيرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟»، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشِّرُهُمْ، فَيَتَّكِلُوا». [صحيح] - [متفق عليه]

(5) – Yii a Mu'aaz nengē, Wënd yard be a yĩnga, a yeelame: Mam rag n zao Nabiyaamã poorē, Wënd

puusg la A tilgr be a yīnga, bōang zug, b sēn boon tu Ufayr, ti Nabiyaamā yeele : « **Mu’aaze ! Rē yīnga fo mii Wēnd hake wā sēn zao A yembsā zugu, la yembsā hake sēn zao Wēnd zug bu** » ? Tı mam yeele : « **Wēnd la A Tēn-tvumā, n mi rēnda** ». t’a yeele : « **bu f bānge ti Wēnd hake wā, yaa b tū Wēnde la b ra maan lagem-n-taar ne-A ye, la yembsā hake sēn zao Wēnde, yaa A ra wa tug n nams ned sēn ka maan lagem-n-taar ne-A baa fvi ye** » Tı mam yeele : « **rē yīnga, m ka na n noog nebā sūur ne rē** » ? Tı Nabiyaamā yeele : « **ra noog-b sūur ne rē, ti b wat n teega rēnda n bas tvumā** ». [A manegame] [A AlBv̄haariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga, vēnegdame n wilgdē, Wēnd hake wā sēn be yembsā zugu, la yembsā hake sēn be Wēnd zugu, n wilgdē ti ad Wēnd hake wā sēn be yembsā zugu, yaa b tū-A A Yembr tāa, n ka maan lagem-n-taar ne-A Baa fvi ye, La ad yembsā hake sēn zao Wēnde, yaa A ra wa tug n sıbg neb nins sēn yaa Wēn-yembdbā, sēn ka maand-b lagem-n-taar ne-A wā. Rē poorē, a Mu’aaz yeelame : « **Wēnd Tēn-tvuma, rē yīnga, m ka na n kō nebā kiba-noogo, sēn na yilē ti b kudme la b noog b sūur ne Wēnd**

kūun-kānga » ? Tı Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) gıdge, a sēn yeesd tı b na n wa teeg rēndã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgda Wënd hake, A sēn maan tı yaa tulae n zao A Yembsã zugu, yē me yaa b tū-A A Yembre, n ka maan lagem-n-taar ne-A baa fuı ye.
2. Hadiisã wilgda yembsã hake sēn zao Wēnde, A Naam zēkame, Wënd Meng sēn maan tı yaa tulae n zaol A Mengã, tı yēnda yaa Wënd kūun sēn yi A Nengē, la neema A sēn maan n kō A yembsã, yaa A kēes-b arzāna, la A ra nams-b ye
3. Bee hadiisã pugē, kiba-noogo, sēn yaa bedre ne Wēn-yemdbbã, sēn ka maand-b lagem-n-taar ne Wēnde, A Naam zēkame, n wilgdē tı ad bāmbã baasg zīig yaa arzān kōom.
4. A Mu'aaz togsa hadiis-kānga, taoor t'a na n ka maan kaalem, a sēn yeesd t'a na n wa lu zunuub pugē, t'a sã n solg bāngrã.
5. Hadiisã nekdame n wilgdē tı hadiis-rāmb sānda, b ka sōmb n sēeg-b neb sānda nengē ye, tı rēnda yaa b sēn yeesde neb nins sēn ka na n bāng hadiisã vōorã, la rēnda yaa hadiis-rāmb

nins tuumd sēn ka be a pugē, leb n ka be a pugē
sēn yaa sāri wā buud-rāmba, maan-n-dolgā
wεεgē. (Sā n wa yaa boto, yaa tulae ti b taas-a)

6. Hadiisā wilgdame tu Wēnd yembdbā sā n kus
Wēnde, b bee Wēnd tulsem pugē, A sā n tulla t'A
subg-ba, la A sā n tulla t'A yaaf-ba, la b bāng ti b
baasgā yaa arzāna, ti b sā n yaa Wēnd yembdba.

(65007)

(6) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ»، قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثَلَاثًا، قَالَ: «مَا
مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا
حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟
قَالَ: «إِذَا يَتَكَلَّمُوا». وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِيًا. [صحيح] - [متفق عليه]

(6) – Yii a Anas [bn Maalik nengē (Wēnd yard be a
yīnga): Tı Nabıyaamā (Wēnd puvsug la A tilgr be a
yīnga) la a Mv' aaz rag n zao Nabıyaamā poorē, a
rūngā zugu, t'a bool-a n yeele: « **Yaa a Mv' aaz [bn
Gebale]** » t'a Mv' aaz yeele: (Labbayka yaa
rasvvlullaah wa sa' adayka= m sak-fo, m sak f yīnga
Wēnd Tēn-tvuma), noor a tāabo. Wēnd Tēn-tvum
yeele: «**Ned ka be, n maan kaset ti (laa ulaaha illal-**

Allaah, wa anna Mvhammadan rasvullaah) = (M maanda kaset ti soab hakuk pa be rēnda Wēnde, la m maand kaset t'a Mvhammad yaa Wēnd Tēntvuma) n kō sida a sūurē wā, rēndame ti Wēnd harm-a ne Bugmā». Rē poorē, a Mv' aaz yeelame : Wēnd Tēntvuma, rē yīnga, m ka na n kō nebā kibanoogo, sēn na ylē ti b kidme la b noog b sūur ne Wēnd kūun-kānga? Tı Nabiyamā yeele: «fo sã n maan woto, b na n wa teega rēndā». La a Mv' aaz togsa kibarã, a kūumã sasa, a sēn yeesd t'a na n wa paam zūnuub yīnga t'a sã n solge. [A manegame] [A AIBvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

A Mv' aaz [bn Gebal rag n yume, (Wēnd yard be a yīnga), n zao Nabiyamā poorē (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga), a rūngã zugu, t'a bool-a n yeele, yaa a Mv' aaze, la a ylma a boollã noor a tãabo, ti yaa sēn na n keng būmb ning a sēn na n yeelã sēn ta zīig ninga.

La rē fãa, a Mv' aaz (Wēnd yard be a yīnga), rag n sakdame, n yetē: «labbayka yaa rasvullaah wa sa' adayka», rat n yeele: m sak-fo, Wēnd Tēntvuma, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga), m sok f yīnga, ti yaa sakr sēn pugd taaba, m leb n baooda zu-noogo fo sakrã yīnga.

Tı Nabiyamā (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) kō- a kibare, ti ad ned ka be n na n maan kaseto ti (laa

ulaaha ullaal-Allaah= soab sēn na n tū n tulg ka be, rēnda Wēnde), la (Muhammadan rasuullaah= la a Muḥammad yaa Wēnd Tēn-tuumā) ti yaa sīda a sūurē wā, n ka zīri-beedo, a sã n maan kaalem halhaal-kāngā zugu, Wēnd haramda Bugmā a yīnga.

T'a Mu' aaz (Wēnd yard be a yīnga) sok Nabiyaaḡmā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) t'a na n togsa nebā ti b sūyā yī noogo la b kudem ne yel-sōmdā?

Ti Nabiyaaḡmā yeese (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) ti nebā na n wa teega rēndā ti b tuumā yī bilfu.

T'a Mu' aaz ka yēs ned baa a yembre, sã n ka a kūumā sēn wa n ta wā, a sēn yeesd ti yē na n wa tug n luu bāngr solgr zūnuub puḡē.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wilgda Nabiyaaḡmā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) gāneg-m-menga, ne a sēn ruk a Mu' aaz poorē wā, a rūngā zugā.
2. Yaa Nabiyaaḡmā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) wilgrā na-kēndrā, ne a sēn yulm a Mu' aaz boollā sēn na yī n nek-a t'a kelg neere, a sēn na n togs-a wā.
3. Sēn be sahdā ti (laa ulaaha ullaal-Allaah= soab sēn na n tū n tulg ka be, rēnda Wēnde), la (Muhammadan rasuullaah= la a Muḥammad

yaa Wënd Tën-tuumã), a yetã yı sïd soaba, n tar bãng-n-wãaka ne a sën yetã, ka zïri-beneda, ka sik maanda.

4. Wën-yembdbã ka na n duum Gehannem pugẽ ye, baa ti b sã n kē ne b zūnuub sababo, b na n yiis-b-la beenē, b sën yulg poorē, n ti kēes-b arzāna.
5. Yaa sahd a yiibã yudlem ning sën be a beenē, ne ned ning sën yeel-b ne sïda.

Yaa ti sakdame ti b bas hadiis sãnda togs-go, halhaal-rãmb sãnda pugē, ti sãang sã n na n zïnd a zugu.

(10098).

Ned ning sën yeel: Laa'laaha [lallaah= soab sën na n tū n tlg ka be rēnda Wēnde, la a kufg ne būmb fāa sën tūudi zēng ti ka Wēnde, a arzēkã la a zumã lebga haraam ne nebã, la a geelgã bee ne Wēnde, la a geelg saoo ne Wēnde

(7) – عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالَهُ وَدَمَهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(7) – Yii a Ƨoartk [bn Ušaym Al-ašgã'iy nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: m wuma Wënd Tën-tuumã (Wënd puvs-g la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: «Ned ning sën yeel: Laa'laaha [lallaah= soab sën na n tū n tlg ka be rēnda Wēnde, la a kufg ne būmb fāa sën tūudi zēng ti ka Wēnde, a arzēkã la a zumã lebga haraam ne nebã, la a geelgã bee ne Wēnde». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tɪlgr be a yĩnga) kōta kibare, ti ned ning sēn yeela la a maan kaset ne a zelemde, ti Laa'ulaaha [llallaah, rat n yeele: bũmb b sēn tũud sid-sid ka be rēnda Wēnde, la a kɪfl ne b sēn tũud zēng ti ka Wēnde, la a zāag a meng n yi dīin-rāmbã sã n ka lɪslaangã, wakat-kāngã a arzekã la a zumã lebga haraam ne lɪslaambã, rēnd bũmb ka be ne tōnd sã n ka nɪnsaal tʊmã sēn vēnegã, rēnd f ka tōe n reeg a arzekã, ka tōe n wɪdm a zum t'a ka lɪslaam ye, sã n ka wa n mikame t'a maana yel-beedo, maa a kvv neda, ti yaa tɪlae ti b maan-a woto, n zems ne lɪslaangã buvdã.

La Wënd n na n ges a geelgã dũni yikr raare, sã n mikame t'a yaa sid soaba, A rond-a lame, la sã n mik ti yaa munaafika A sɪbgd-a lame.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yeel ti Laa'ulaaha [llallaah wã la f kɪflg bũmb fãa sēn tũud ti ka Wēndã, a yaa sart sēn na paam n kē lɪslaanga.
2. (Laa'ulaaha [llallaah) wã vōore, yaa fo kɪflg ne bũmb fãa sēn tũudi, zēng ti ka Wēnde, sēn yaa rubse, la yaado la zēng sēn ka rē, la f welg Wēnde, -A Naam yɪlgame- ne tũudmã.

3. Ned ning sēn maana Wēn-yembgā la a tabl sāri-rāmbā, sēn vēnege, yaa tlae ti b yōk wēng n bas-a, halı t'a wa tug n vēneg zēng sēn ka rēnda.
4. Wilgda lıslaam arzekā la a zumā la a burkīndā sēn yaa haraam ti kāsge, rēnda ne hake.
5. Dūni pugē, buvd-rāmbā yaa sēn vēnegā, la yaoolem raarā, yaa Anniy-rāmba la togsā la b geta

(6765).

yaa ned ning sēn maan kaalem n ka maan lagem-n-taar ne Wēnd baa fu, yaa tlae t'a kē arzānā, la ned ninga sēn maan kaalem t'a yaa sēn maan lagem-n-taar ne Wēnde, ne būmbu, a kēda Bugumā

(8) – عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ

الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» [صحيح] - [رواه مسلم]

(8) – Yii a Gæbr nengē, Wēnd yard be a yīnga, a yeelame: Raoa n wa Nabiyaamā nengē, Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga, n yeele : Tēn-tvumā, waagib-rāmb a yiibā yaa bōe ? Tı Nabiyaam yeele : « **yaa ned ning sēn maan kaalem n ka maan lagem-n-taar ne Wēnd baa fu, yaa tlae t'a kē arzānā, la ned ninga sēn maan kaalem t'a yaa sēn maan lagem-n-taar ne Wēnde, ne būmbu, a kēda Bugumā**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Raoa n sok Nabiyaamã, Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga, yell sōmbs a yiibã, sēn maan tu ned kē arzānã, la sēn maan tu ned kē Bugmã ? T’a loek-a, Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga, tu yell ninga sēn kēesd a soaba arzānã tulae wã, yaa ninsaal sēn na n maan kaalem, t’a yaa sēn tūud Wēnde, A Yembre, n ka maan lagem-n-taar ne-A baa fu ye, la ad yell ninga sēn maan tulae n kēes a soab Bugmē wã, yaa ninsaal sēn na n ki t’a yaa sēn maan lagem-n-taar ne Wēnde, n maand gees-n-taaga la bils-n-taare ne Wēnde, A tūudmã wēngē, la A Wēndlmã wēngē, maa yaa A yuyã wēngē, maa yaa A suf-rãmbã wēngē.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiisã wilgda Wēn-yembgã yudlem, n wilgd tu ned ning sēn wa n maana kaalem t’a yaa Wënd yembda, n ka maan lagem-n-taar baa fu, a kēeda arzānã.
2. A wilgda lagm-n-taarã yellã bedrem sēn ta zīig ninga, la ad ned ning sēn maana kaalem, t’a yaa sēn maan lagem-n-taar ne Wēnde, a kēeda Bugmē.
3. Hadiisã wilgdame tu Wēn-yembdbã sã n kus Wēnde, b bee Wënd tulsem pugē, A sã n tulla t’A

subg-ba, la A sã n tulla t'A yaaf-ba,, la b bãng ti b
baasgã yaa arzãna ti b sã n yaa Wẽn-yembdba.

(65008)

Ned ning sën maana kaalem ti yë kota gees-n-taag zëng sën ka yı Wënde, a kēeda Bugmē

(9) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَاءَ دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدَاءً دَخَلَ الْجَنَّةَ. [صحيح] - [متفق عليه]

(9) – Yii a ‘Abdułlaah [bn Mas'ud nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) yeela gomde ti mam yeel gomd a to, Nabiyaamã yeelame, (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga):" Ned ning sën maana kaalem ti yë kota gees-n-taag zëng sën ka yı Wënde, a kēeda Bugmē, ti mam yeele: ned ning sën maana kaalem, ti yë soab ka kot gees-n-taaga zëng sën ka Wënde, a kēeda arzãna. [A manegame] [A AlBvħariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) kōta kibare, ti ned ning sën wa n rıka tūudum ning

sēn yaa tilae ne Wēndā, n rogl zēng sēn ka Wēnde, wala kos zēng tī ka Wēnde, maa bao fāagr ne zēng sēn ka Wēnde, n tvg n maan kaalem rē zugu, ad a yita Bugum koambā a yembre. La a [bn mas'ud paasame (Wēnd yard be a yīnga) n yeele, tī ned ning sēn maana kaalem t'a soabā ka maan lagem-n-taar ne Wēnde, baa fvi, a baasg zīig yita arzāna.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wilgdame tī doaaga yaa tūudum, b ka sōmb n wēnems-a n kō, rēnda Wēnde, (A Naam zēkame).
2. Wilgda Wēnd yembgā yell sēn ta zīig ninga, la ned ning sēn maana kaalem, Wēn-yembgā zugu, a kēeda arzāna, baa tī b sā n nams-a zūnuub-rāmb sānda yīnga.
3. Wilgda lagem-n-taarā yell sēn ta zīig ninga, la ned ning sēn ki lagem-n-taarā zugu a kēeda Bugmē.

(3419)

Ad fo rabda neb sēn yaa Gafa

(10) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ فَرُدُّهُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَآتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ». [صحيح] - [متفق عليه]

(10) – Yii a [bn Abbaas nengē, Wēnd yard be b yiibā yīnga, a yeelame: Wēnd Tēn-tvumā (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) a yeela a Mu'aaz [bn Gēbal, a sēn wa n tvum-a Yamana: «Ad fo rabda neb sēn yaa Gaf rāmb nengē, la fo sā n ta b nengē, bi f bool-ba n tvg kaset maanego, ti soab sēn na n tū n tulg ka be rēnda Wēnde, la a Mvhammad yaa Wēnd Tēn-tvuma, ti b sā n sak n tū rē, bi f kō-b kibar ti Wēnd maana wakat a nu ti yaa tulae n rog-ba, yvng la wīndg fāa, ti b sā n sak n tū rē, bi f kō-b kibar ti Wēnd maana doaag ti yaa tulae n rog bāmb zugu, ti b reegd rakāagbē wā n kōt b talsā, ti b sā n sak n tū rēnda, bi f gūus b arzēg yilmā reegre, la f zoe b sēn wēg a soab kāabgo, ti ad lill ka be a kosgā ne

Wënd suk ye». [A manegame] [A Al-Bvħaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Wakat ning Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tilgr be a yĩnga) sēn wa n tvm a Mv'aaz ibn Gebal -Wënd yard be a yĩnga- t'a kēng Yaman zāmaana, n tvg n bool-b n tvg Wënd dīina, la a yī b karen-saamba, Nabiyaamã vēnegrade n wilg-a t'a na n yeka neb sēn yaa Nasaar-dāmba; sēn na yul t'a soglg b yĩnga, rē poorē masa bī a sung a sēn na n bool-ba būmb ning sēn pak n to yudã, n yaool n ges sēn pugdã, Rēnd a boond-b lame n tvg Loεεgã manegre nananda; tī b maan kaset tī soab sēn na n tū n tilg ka be rēnda Wēnde, la a Mvhammad yaa Wënd Tēn-tvuma; bala b kēeda Lislaoongã ne Gom-bi-kāngã, tī b sã n sak n tū rē a yet-b lame tī b pvvse; bala Pvvsgã n yud waagib-rāmba fāa Wënd-yembgã poorē, tī b sã n maan rē, a sagenda b rakāagbã tī b yiis b arzekã zak n kō b talsã, rē poorē a bugs-a lame t'a ra reeg b arzekã sēn tvg n yaa sōma n yuda ye; bala sēn zao b zugã yaa tēng-n-svgrã, Rē poorē t'a sagl-a t'a zāag wēgbã; sēn na yul tī b sēn wēg a soabã ra kāab-a ye, bala a kosgã reegdame

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Sahdã maana yaa yeem Wënd tūudumē wã, la bas zēng sën pa Yē tūudum.
2. Maan kaset t'a Muhammad yaa Wënd tēn-tuumā, a maana, yaa kō-sid ne-a la a sën wa ne būmb ningã, la a sidgre, la a yaa Wënd tēn-tuumbã baasdga n tug bōn-nandsē wã.
3. Wilgdame ti f sã n na n gom ne bāngda ne ned ning sën tara gēdem-gēdem a fasengē wã, a pa wala fo sën gomd ne zit ye; rē n kit ti Nabiyaamã nek a Mu'aaz n yeel-a: " Ad fo rabda neb sën yaa Gaf a to wã rāmbē".
4. Lislaam sōmb n tara kibar a dīina wεengē; sën na yul t'a ra lu gēdgdbã gēdg pugē ye, la rē yaa a bao bāngre.
5. Wilgda Yahvud-rāmba la Nasaar-rāmba dīina sën yaa zaalmã, Tēn-tuumā -puusg la tigr be a yīnga- tumsgã poorē, la b pa neb sën na n pōse Dūni yikr raarã halı ti b wa kē Lislaangã dīin pugē, la b kō sid ne Nabiyaamã, Wënd puusg la A tilgr be a yīnga.

(11) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبِيلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ» . [صحيح] - [رواه البخاري]

(11) – Yii a Abu Hurayrat nengẽ Wënd yard be a yĩnga t'a yeelame: Tı b yeela Wënd Tën-tvuma ãnd n yud zu-noog ne fo sugsgã dũni wã yikr raare? Tı Wënd Tën-tvuma pvvsg la tulgr be a yĩng yeele: «**Mam ra tēedame a Abv Hvrayrata ti ned ra reng foo n sok maam Hadiis-kāngā ye, mam sēn ne ti fo tara yā-beed ne Hadiisā bāngrā, ad nebā sēn yud zu-noog ne mam sugsgã Dũni yikr raarā, yaa ned ning sēn yeela ti laa ulaaha illal-Allah, n yilg-a a sũurẽ wã maa a mengẽ wã**».[A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã(Wënd pvvsg la A tulgr be a yĩnga) kōta kibar ti nebã sên yud ne zunoogo n na n paam yẽ sugsgã dũni yikr raarã yaa ned ning sên yeela: " soab kae rēnda Wēnde t'a yaa sēn maan pv-peelem ne gomdã a sũurẽ wã" rat n yeel ti soaba b sên tũud

ne sid ka be rēnda Wēnde, la a leb n tulg n yi lagm-n-taare la maan-ti-b-yā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Nabiyaamā tara sugsg Dūni yikr raarā tablgo, la a pa na n yi rēnda ne Wēnd-yembdbā.
2. Nabiyaamā sugsgā(Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) yaa a sēn na n yōk Wēnd sεεgā -A naam yi wagelle n zēke- t'A ra kēes Wēnd-yembdb nins sēn sōmb ne bugmā bugmē wā ye, la sēn kē-a bī A yiis-a be.
3. wilgda Tawhudā (Wēnd yembgā) gomd sēn ylg ne Wēnd A Yembrā yudlem, la a vūunā bedrem sēn ta to-to.
4. wilgdame ti Wēnd yembgā gomdā sūdgr ytame ti fo sã n bāng a vōorā la f tum ne a sēn tullā.
5. wilgda a Abuu Hurayrat yudlemā (Wēnd yard be a yīnga) la a yā-beedā maaneg ne bāngrā baoobo.

(3414)

(12) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

[صحيح] - [متفق عليه]

(12) – Yii a Abu Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tvuma (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) yeelame: «**Lumaang yaa kōbg pis-yopoe la zaka, maa pis-yoob la zaka, sēn tvg n zēk n yude yaa Laa'ulaaha [lallaah]**» yeelgo, la sēn tvg n paood n yude, yaa fo sēn na n rik būmb sēn namsd nebā n yiis sorā zugu, la ad yān-zoεεgā, yē me yaa kōbg sēn be lumaangā pugē». [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) kōta kibare, ti lumaoongā a yaa kōbg wusgo, a gūbga tvumā la loese la goama.

Ti lumaoongā yel-weendi wā sēn tvg n zēk n yuda, la a sēn tvg n yud ne yel-sōmde, yaa «**Laa'ulaaha [lallaah]**» yeelgo, n mi a maanā wā, n tvum wala a sēn ratā, ti Wēnde, Yē la Soaba, n yaa Yembr taa, sēn sōmb ne tūudum, zēng sēn ka Yēndā fāa ka sōmb ne-a.

La ti sud-kūunã tuum sēn tug n paood n yuda, yaa fo rik būmb ninga sēn namsd nebã n yi b soy wã.

Rē poorē ti Nabiyaaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) kō kibare, ti ad yān-zoεεgã, a bee lumaoongã yel-welds pugē, ti ad yān-zoεεga yaa zvgd sēn kit t'a soaba maan tuum sōmbse la a bas tuum wēnse.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Lumaoongã yaa darge-rāmba, sānda yuda sānda.
2. Lumaoongã a yaa gomde, la tuumde, la loεεga.
3. Zoe yānd ne Wēnde, (A Naam zēk yā) a maandame: ti Wënd ra yā foom A sēn gıdg foom zīig ningã ye, la A ra kong foom A sēn sagl foom zīig ningã.
4. Sēn togs sōorã ka rat n na n yeel ti yaa woto tek bal ye, la ad a wilgda lumaoongã tuum sēn yaa wusgo, bala Laarab-rāmbã b tōe n togsa būmb sōore, la b ka rat n na n yeel t'a zēng ka kēed ye.

(6468)

(13) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ» قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «وَأَنْ تُقْتَلَ وَلَدَكَ؛ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(13) – Yii a ‘Abdullaah [bn Mas'vud nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: M soka Nabiyaamā, (Wënd pvsg la A tilgr be a yīnga) yaa zūnuub pvgo zislem n yud Wënd nengē? T'a yeele: «**yaa fo sēn na n maan mak-n-taag ne Wēnde, ti Yē n yaool n naan foom**», ti mam yeele: ad rē sid yaa yel-bedre, la m soke: rē poorē yaa bōe? T'a yeele: «**yaa fo sēn na n kv f biiga, fo sēn yeəsd t'a na n wa naag foom n ru ti ka seke**». Tı mam yeele: rē poorē yaa bōe? T'a yeele: «**yaa fo sēn na n yo ne f yak paga**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

B soka Nabiyaamā, (Wënd pvsg la A tilgr be a yīnga) zūnuub bəd sēn yude, t'a yeele: a sēn tvg n yud yaa lagem-n-taare, la yē yaa fo sēn na n maan wōnes-n-taaga maa gees-n-taaga ne Wēnde, A sobendlemē wā maa A wëndlemē wā maa A vuyē wā la a sifē wā, la zūnuub-kāngā Wënd ka yaafd-a rēndame ti yaa ne tuubg n bas-a, la a soabā sã n ki a zugu, yēnda paada

Bugmē wā, n ka yit ye. Rē poorē yaa ned sēn na n kv a biiga, n yeēsd t'a na n lagem-a n rī, yōor kvub yaa haraam, la zūnuub sēn yaa zısg n tvg n yud ti sã n mik t'a sēn kv ned ningã, yaa kvvdã roagda, a zūnuubã leb n zısgdame n yuda ti sã n mikame ti kvvdã tagsgã yaa a sēn yeēside, ti yē sēn kv a soabã ra wa lagem yē n rī Wēnd ritlã ye Rē poorē yaa raa sēn na n yood ne a yak paga, rē yaa a sēn na n modg n belg-a halt n tvg n yo ne-a, t'a sak n pvug-a, yoob yaa haraam, la a zūnuubã zısgdame n yuda, ti sã n mik ti b sēn yo ne wã yaa yak paga, yak ning sãri wã sēn sagl ti b maneg n tvg-a la b tall tūud-n-ta-sōng ne-a wã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgda zūnuub-rāmbã sēn yōs taab bedremē wã, ti yaa wala tuum sōmã wã me sēn leb n yōs taaba yel-sōmdē wã.
2. Zūnuub-rāmbã sēn yud bedrem: yaa lagem-n-taar ne Wēnde, (A Naam zēk yã) rē poorē yaa biig kvubo n yeēsd t'a na n wa naag foom n rī, rē poorē yaa f sēn na n yo ne f yak paga.
3. Ritlã bee Wēnd Nugē, Yēndã, (A Naam yulg yã), n reeg bōn-naandsã rulgre A zugē.

4. Wilgda yak hake zislem sēn ta to-to la a namsgā zūnuubā a yuda sēn na n ka yak namsg zūnuubu.
5. Naandā yaa Yē A Wēnde, Yē n sōmb tı b tū-A, Yē A Yembre, lagem-n-taag ka be ne-A ye.

(5359)

Mam seka M menga n yi lagm-n-taara rāmb lagm-n-taarā, ned ning sēn tuma tvmdē n lagm būmb zēng ne maam a tvmdā pvġē, m basd-a lame ne a lagm-n-taarā

(14) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(14) – Yi a Abvv Hvrayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tvumā (Wēnd pvvsg la A tilgr be a yīnga) yeelame:- «**Wēnd yeelame A naam zēkame: Mam seka M menga n yi lagm-n-taara rāmb lagm-n-taarā, ned ning sēn tuma tvmdē n lagm būmb zēng ne maam a tvmdā pvġē, m basd-a lame ne a lagm-n-taarā**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaama (Wēnd pvvsg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare tı Wēnde, A naam yı wagell n zēke: Yē n yud lagm-n-taasā ne sek-m-menga n yi lagm-n-taarā, bala Yē la sek-m-meng Soaba n yi būmbā fāa, la ninsaal sā n tvum tvmdē sēn yaa tūudum n maan-

a ti yaa Wënd yīnga la zēng sēn pa Wēnde; Wënd basd-a lame, n pa reeg-a ye, n lebs a soaba a tvvuma; Rēnd yaa tīlae ti b yulg tvvumdā Wënd A yembr yīnga, bala Wēnde A naam yilgame, A pa reegd sã n pa sēn yaa yileng ti yaa A yīng bala.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. A bugsdame n yi lagm-n-taarã a kōbga fāa; a leb n gidgdame ti b pa reegd tvvumã ye.
2. Wilgda Wënd sek-m-mengã la A zıslmã, rē sōngda pu-peelmã maanego tvvumã pugē

(3342)

Mam poorē rāmbã fāa kēeda arzāna, sã n pa sēn tōdga

(15) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَا أَبِي؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي». [صحيح] - [رواه البخاري]

(15) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wënd yard be a yīnga), ti Wënd Tēn-tvuma, (Wënd pvvsg la A tılgır be a yīnga) yeelame: «**Mam poorē rāmbã fāa kēeda arzāna, sã n pa sēn tōdga**», ti b yeele: yaa foom Wënd Tēn-tvumã! La ãnd n na n tōdge? T'a yeele: «**sēn tū a maam kēeda arzāna, la sēn kusa maam, a soab tōdgame**». [A manegame] [A Al-buhaarıy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) kōta kibare t'a poorē rāmbã fāa kēeda arzāna, sã n ka sēn gidga a menga!

Tı sahaabsã, -Wënd yard be b yĩnga- yeele: la ānd n na n tōdge, Wënd Tēn-tuvmã?!

T'a leok-ba, (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) tı ned ning sēn sak n puqe la a tũ Tēn-tuvmã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) sagellã, a kēeda arzāna, la sã n yaa sēn kusa la a zags sari wã tũubu, yē soab tōdgame t'a ka na kē arzān ye ne a tuvm wēnsã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Tēn-tuvmã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) tũubã, a yaa Wënd tũubu, a kusgã me yaa Wënd kusgo.
2. Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) tũubã kēesda ned arzāna la a kusgã kēesda ned Bugum.
3. Wānde yaa sũ-noogr n kōt neb nins sēn yaa tũudbã zāmã-kāngã pugē wã la kōt kibar tı b fāa gill kēeda arzāna, sã n ka ned ning sēn kusa Wënd la A Tēn-tuvmã.
4. Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) nimbāan zoεega ne a poorē rāmbã la a nonglem kegengã ne b kāndgrã.

(4947)

(16) – عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُظْرُونِي كَمَا أَظَرَّتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(16) – Yii a Umar [bn Hataab nengē -Wënd yard be a yīnga- a yeelame: Mam wma Nabiyaamā Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga t'a yetē:

«Ra kils-y maam wala nasaar-rāmbā sēn kils a Maryam biig a lisa wā ye, ad mam yaa A yamba, bi y yeel-y ti Wënd yamba la A Tēn-tvma». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyamā Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga a gidgdame ti b ra maan n zuvsg toaga, la b ra zuvsg sārū wā sēn kō sorā tekā a pēgrē wā, la b ra sif-a ne Wënd Sif-rāmbā, la A tvum nins sēn welg ti yaa Yē balā, maa b yeel t'a mii sēn solge, maa b kot-a n lagm ne Wēnde, wala Nasaar-rāmbā sēn maan ne a lisa a Maryam biigā, tilgr be a yīnga. Rē poorē t'a vēneg ti yē yaa yamba sēn yi Wënd yembsē wā, la a saglame ti d yeel-a: t'a yaa Wënd yamba la A Tēn-tvma.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1-Gıdgame ti b ra maan n zuug sārı wã sën kō sor a waoogrã la a pēgbã wεengē; bala rēnda yaa bũmb sën talld n tugd lagm-n-taarē.

2-Bũmb ning Nabbiyaam(Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) sën bugs ti b ra maana, a yu zāma-kānga pugē, rēnd sull n maan n zuug ne Tën-tuumã -puusg la tulgr be a yīnga- ti sānda maan n zuug a zakā rāmb wεengē, ti sānda maan n zuug waliimbē wã, ti yı sabab ti b luı lagm-n-taar pugē.

3-Wënd Tën-tuum sifa a menga ti yē yaa Wënd Tën-tuuma; n na n wilg t'a yaa yamba sën tūud Wēnde, pa sakd ti b wēnemes yela sën welg toor ne Soabã n kō-a ye.

4-Tën-tuumã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) a sifa a mengã t'a yaa Wënd Tën-tuuma; n na n vēneg t'a yaa Tën-tuuma sën yi Wënd nengē ti yaa tilae ti b sıdg-a la b pug-a

(3406)

(17) – عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالثَّائِبِ أَجْمَعِينَ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(17) – Yii a Anas nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Nabiyaamā yeelame (Wënd puvsg la A tıgr be a yīnga): «**Yāmb yembr fāa ka kōt sīda, halı tı mam wa tvğ n yı a noanga n yud a roagdā, la a koambā, la nebā fāa gilli**». [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tıgr be a yīnga) kōta tōnd kibare, tı lıslaama, a lumaoongā ka piti halı t'a wa yı Wënd Tēn-tuum nonglem (Wënd puvsg la A tıgr be a yīnga) n yud a ma wā la ba wā, la a biiga la a bi-pugla, la a nebā fāa gilli, la nonglem-kāngā a tūnugda Nabiyaamā tūudum la a sōngre, la a kusg basgo.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa tılae tı b yı Wënd Tēn-tuumā, (Wënd puvsg la A tıgr be a yīnga) nonglem, la b lıus a nonglemā bōn-naandg fāa gill nonglem taore.
2. Sēn be nonglem pidb tagmas pugē: yaa Wënd Tēn-tuumā sōngre la kēes yōore la arzek rē poorē.

3. Wënd Tën-tuumã, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) nonglemã, yaa ti f tū a sēn sagl būmb ningã, la f sudg-a a sēn kō kibar ningã, la f zāag būmb ninga a sēn gidge la a bugs n yi wã, la f pug-a la f bas Bid'‘a (yel-sungdsã).
4. Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) hake wã, yē zislemã la a kengr n yud nebã fãa gilli, bala a yu sabab ti tōnd paam kãndgr n yi menengo, la tōnd paam pōsgr n yi Bugum, la d paam puur ne arzãnã.

(5953).

Taas-y mam yīnga, baa ti sã n yaa Aayar a yembre, la y yēs [sraaul koambã kibayã, ti taal ka be ye, la ned ning sēn yaga n rogl maam pu-toogo bi a bao a zīndg zīg Bugmē wã

(18) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(18) – Yii a Abdullaah [bn Ambr nengē- Wënd yard be b yiiba yīnga, a yeelame: Nabiyaamã -Wënd puusg la A tulgr be a yīnga- yeelame: « **Taas-y mam yīnga, baa ti sã n yaa Aayar a yembre, la y yēs [sraaul koambã kibayã, ti taal ka be ye, la ned ning sēn yaga n rogl maam pu-toogo bi a bao a zīndg zīg Bugmē wã**». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã(Wënd puusg la A tilgr be a yĩnga) a sagendame ti b taas bãngrã sën yi Alkurãanë wã maa Sũnnah, baa ti bũmbã yaa bilfu, sën yi Alkurãanë wã maa Hadiisë, la yaa sart t'a bãng bũmb ning a sën boond n tugdë wã. Rë poorë t'a vënegdë(Wënd puusg la A tilgr be a yĩnga) ti yel kae ti b yës sën yi Baniĩ [sraaul-rãmb nengë ye, yel nins sën yi b nengë ti pa yõsgd ne tõnd sãri wã. Rë poorë t'a bugs ti b ra yag n roglg a zug ye, la ned ning sën yaga pu-toogo bi a bao a zĩndg zĩig Bugmë wã.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Yamleog këesgo Wënd sãri wã taasg pugë, la sõmba ne ninsaala t'a togs bũmb ning a sën rulsã la a fahmã baa ti sã n yaa bilfu.
2. Yaa tilae ti b bao sãri wã bãngrã; sën na yulë paam n tũ Wënde la a taas A sãri wã ne nen-sõngo.
3. Yaa tilae ti b maan bãng n wãaka ne Hadiis fãa sõmblem taoor ti b taas-a maa b sëeg-a, sën na yul n gũus n da kë puleng wëng-kãngã sën yaa kegengã pugë ye.
- 4- A kengda togs sid goam pugë, la b maan gũusgu yësgã pugë, sën tug n yuda, Wënd sãri wã pugë A naam yi wagell n zëke.

(19) – عن المقدم بن معديكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني وهو متكئٌ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتابُ الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه، وإنّ ما حرّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم كما حرّم الله». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]

(19) – Yii a Mikdaam [bn Ma'adiikarib (Wënd yard be a yĩnga) a yeelame: Wënd Tẽn-tvumã (Wënd puvsg la A tilgr be a yĩnga) yeelame: «Yaa sıda, ad sã n wa beẽ, neb n na n zĩndi tu mam hadiis (gomd) wa tvg n ta a nengẽ, t'a yaa sãn kull a zaooq zugu, n yetẽ : « ad tõnd ne yãmb svka yaa Wënd Gafã bal n be d svka, bũmb ning tõnd sãn mik Wënd Gafã pugẽ ti yaa halaalã, d na n maaname ti yaa halaale, la d sãn mik a pugẽ ti yaa haraam d na n maaname ti yẽ yaa haraam, la hadiis ka pak tõnd ye, la b bång ti bũmb ning Wënd Tẽn-tvumã (Wënd puvsg la A tilg be a yĩnga) sãn harm-a, a yaa wala Wënd sãn haram bala». [A manegame] - [A Abvv Daawvvd la a At-turmiziy la a [bn Maage n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yĩnga) kõta tõnd kibare, ti zãmaan n pẽnege, ti neb kõbg n na n zĩnd beenẽ, ned fãa kull a kugs zugu, ti Nabiyaamã,

(Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga) hadiis wa tug n ta a nengē, t'a yetē : « **būmb ning sēn kaood buvd tōnd ne yāmb svka yelā pugē, ad yaa Alkurāanā bala, a seka tōndo, tōnd sēn mik būmb ninga Alkurāanā pug ti yaa halaalā tōnd na n tuma ne rē, la d sēn mik a pugē ti yaa haraam d na n zoe n zāag-a lame** ». Rē poorē, ti Nabiyaamā (Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga)vēnege n wilg tōnd ti ad būmb fāa gill Nabiyaamā sēn harmā maa a gidgame, a Sūnnā pugē, ad yēnda buvdo yaa wala Wënd sēn gidg būmb ningā A Gafā pugē, bala yaa Nabiyaamā la ned ning sēn taasd a Soabā koεegā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Bee hadiisā pugē, b sōmb n zisga Sūnnā wala b sēn zisgd Alkurāanā ,la b leb n reegd-a wa b sēn reegd Alkurāanā.
2. Hadiisā wilgdame ti Tēn-tuumā tūudum, a yaa wala Wënd tūudum, la a kusg yaa Wënd kusgo, A Naam zēkame.
3. Hadiisā leokda neb nins sēn rat n na n lebs hadiis-rāmbā, la b kUSD-ba.
4. Ned ning sēn wa n ball n bas hadiis-rāmba, n yeel t'a na n kell n seka a meng ne Alkurāanā,

bi a soab bāng ti yēnda ballame n bas b yiibā fāa gilli, a bāng t'a yaa zīri-be-neda, sēn yagd t'a tūda Alkurānā.

5. Bee hadiisā puga, yela sēn wilgd ti Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) sid yaa nabiyaama, ne a sēn kō kibar būmb sēn na n wa yī sēn wate, t'a sid wa yī wala Nabiyaamā sēn togsā.

(65005)

Wēnd kāab beed bee ne Yahuud-rāmb la Nasaar-rāmb, b rika b nabiyaam-rāmbā

(20) – عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرُحُ حَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَدِّثُ مَا صَنَعُوا. [صحيح] - [متفق عليه]

(20) – Yii a ‘Aaiṣa la a ‘Abdullaah [bn ‘Abbaas nengē (Wēnd yard be b yiibā yīnga) b yiibā yeelame: Bāagā sēn wa n keng Wēnd Tēn-tuvmā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) a rikda fuug n pil a nengē, ti vuusgā sā n wa yaa toog ne-a la a sēn lakd n bas a nengā, n yeele, t'a be halhaal-kāngā pugē: « **Wēnd kāab beed bee ne Yahuud-rāmb la Nasaar-rāmb, b rika b nabiyaam-rāmbā yaado, n maan misa**», ti woto yaa sēn bugsd nebā ti b ra maan bāmbā sēn maan-a ye. [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

D ma a ‘Aaša la a [bn ‘Abbaas, (Wënd yard be b yĩibã yĩnga), b kōta tōnd kibare, ti kūumã sën wa n wa Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga), a rika peende n pĩnd a nengã, ti vuusgã sã wa yaa toog ne-a, ne sën yaa kūum bãagã, la a sën lakd n bas a nengã, n yeel halhaal-kãngã sën yaa kegengã fãa, Wënd kãab beed be ne Yahuud-rãmb la Nasaar-rãmba, la A rig-b lame n yiis A yolsgẽ wã, la woto yaa bãmb sën me misa b nabiyaam-rãmbã yaad zugã, la yel-kãngã sã n da ka bedre, Nabiyaamã kōn n tēeg-a zĩ-kãngã wakat ye, rẽ n kut ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) gıgd a poorẽ rãmbã ti b ra wa tug n maan n wōneg tuum-kãngã ye, bala yaa Yahuud-rãmb la Nasaar-rãmb tuumde, a leb n yaa sore, sën talled-b n kēng lagem-n-taar ne Wēnde, (A Naam yı wagell n zēke).

Sën be Hadiisã yōod-rãmbẽ:

1. B gudgame ti b ruk nabiyaam-rãmbã la nin-sōmbsã yaado n maan misa, n puusd Wënd beenẽ, bala a yaa sore, sën tar n rabd lagem-n-taare.
2. A wilgda Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) sën ning a toaag hal wusg ne Wën-yembgã,

la a sēn leb n yeesd b sēn na n wa zisg yaadā, bala yēnda yaa būmb sēn tar n rabd lagem-n-taare.

3. Sakdame ti b kāab Yahuud-rāmb la Nasaar-rāmba, la ned fāa sēn maan bāmb tuumdā buudu, sēn yaa me yaadā zutu la rik-b ti b yaa misa.
4. Wilgdame ti me yaadā zugā yaa Yahuud-rāmb la Nasaar-rāmb na-kēndr la rē, la hadiisā wilgdame ti b gudgame ti b wa wōnes-ba..
5. Sēn be rik yaadā n maan misā wā, yaa puvsd beenē la puvsd n togēnd-b baa ti sā n ka me misri.

(3330)

M Soaba Wēnde ra maan m Kabrā ti yaa rvbg ye

(21) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَاءَ لَعْنِ اللَّهِ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا». [صحيح] - [رواه أحمد]

(21) – Yii a Abu Hurrayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga), ti yii Nabiyaamā nengē, (Wēnd puvsd la A tilgr be a yīnga): «**M Soaba Wēnde ra maan m Kabrā ti yaa rvbg ye, Wēnd kāabg be ne neb sēn duk b Nabiya-rāmb yaado n maan Misa**». [A manegame] - [A Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaama kosa a Soabã t'a ra maan a yaoogã ti yi wala rvbga ti neba tũud-a ne b sën zısgd-a, la b togend-a suguudẽ wã, rẽ poorẽ -Wënd puusg la A tilgr bze a yĩnga- kõo kibare ti Wënd zãaga ne A yolsgã ned ning sën dık nabiyaam-rãmbã yaadã n maan misa wã; bala rik yaadã n maan misã wã yaa sën na tik n tũ-ba la b tẽ-ba.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbẽ:

1. Maan n zıvg sãrı wã sën gãneg bũmb ning nabiyaam-rãmbã la nin-sõmbã yaadẽ wã kitedame ti b wa tũ-ba zẽng ti pa Wënd ye.
2. Pa sakd ti b kẽng yaadẽ wã ti yaa sën na n zısg-ba la b maan tũudum beenẽ baa t'a soaba sën wa n pẽ Wënd to-to.
3. Yaa haraam ti b me misa yaad zugu.

B gidga Puusg yaadẽ wã baa ti b sã n pa me misri, sã n pa kũum puusg bala; kũum ningã b sën pa paam n puus-a.

(22) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورًا عِيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». [حسن] - [رواه أبو داود]

(22) – Yi a Abvṽ Hvrayrat nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tēn-tvṽma (Wënd pvvs-g la A tigr be a yīnga) yeelame: «**Ra maan-y y rotā ti yaa yaad ye, la y ra rik mam yaoogā ti yaa tigr bob n kēng ye, la y pvvs-ma; ti yāmb pvvs-gā tata maam y sēn beē fāa**». [A be neere] - [A Abvṽ Daawvud n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd pvvs-g la A tigr be a yīnga) gıdg-dame ti b ra bas Pvvs-gā zagsē wā ye, t'a wa lebg wala yaadā b sēn pa sakd ti b pvvs be wā, La a gıdg ti b ra kaagd a Kabrā n yilmdē ye, la tigimd taab a nengē wakat la wakat fāa; bala rē yaa radg n tvgd lagm-n-taare, La a sagl ti b kos pvvs-g la tigr n kō-a, yāmb sēn be tēnga zīg ning fāa; bala rē tat-a lame, sēn be a beenē la sēn zāra fāa yaa a yembr yē nengē, rēnd tvlse-m ka be ne yilengo a kabrē wā ye.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbê:

1. Hadiisã gidgdame ti b ra bas Wënd tũudum, A Naam zêkame, zagsã pusê ye.
2. A gidgda sor-bobre n tug Nabiyaamã -Wënd puusg la A tulgr be a a yĩng- kabrã kaagre; bala a saglame ti b kos puusg la tulgre n kō-a, la a kō kibare ti tat-a lame, la sorã bobd n kēnga miisrē wã la tug n puus be.
3. Gıdgame ti b ra rik Nabiyaamã kabrã kaagre ti lebg tigri n yulemdē ye, ne b sën na n yulemd a kaagrã yalē ninga sën welge, n yāk wakat sën welge, yaa woto bala la kabr fãa kaagre.
4. Nabiyaamã woorã a Sobã nengē, ne a sën kō sor ti b tōe n kos puusg la tulgre n kō-a, f sën be zãmaan ning fãa la zīig ning fãa.
5. Bala b sën gidg ti b ra puus yãadē wã yaa bũmb Sahaabsã sën mi; rē n kit ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) gidgame ti b ra maan rotã ti yaa wala yaado ti b pa puusd b pugē.

(3350)

(23) – عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلَيْكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أَوْلَيْكَ بِشَرَارِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(23) – Yii a ‘Acuša sēn yaa muumin-rāmbā ma wā nengē (Wēnd yard be a yīnga): t'a Ummu Salamat togsa Wēnd Tēn-tuumā (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga) Wēnd roog (Egliisi) yē sēn yā Habaša (Etioopi) tēngē wā, tu b boond t'a Maariya, a togsa Wēnd Tēn-tuumā (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga) bāmb sēn yā a pugē sēn yaa nin-naandse, tu Wēnd Tēn-tuumā (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga) yeele: «Ad bāmbā yaa nebā tu yamb sōngo maa nin-sōng sā n ki b nengē la b sēn met miisr a yaogē wā, la b ning nin-naand-kāensā beenē, ad bāmbā la bōn-naandsā sēn yud wēng Wēnd nengē» [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Muumin-rāmbā ma wā a Ummu Salamat togsame (Wēnd yard be a yīnga), t'a togsa Nabiyaamā (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga) tu yē yā Habaša tēngē wā

roogo -ti b boond ti Maariya- yaa nin-naandse la nags-
teedo la sulusugdu; ti yaa a sēn maan yel-solemd ne
rēnda! Ti Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tilgr be a
yīnga) na n vēneg n wilg-a sabab-rāmb nins sēn kut ti b
ning nin-naands-kāensā wā; n yeele: ti ad bāmba ra
yume ti b nin-sōng sā n maan kaalem la b sēn met miisr
a yaoogē wā, n puusd beenē, la b ning nin-naands-
kāensā a pogē, ti Nabiyaamā vēneg n wilgi ti sēn
maand-b woto wā la bōn-naands sēn yud wēnga Wēnd
nengē, (A Naam zēkame), bala tuum-kāngā yita sabab n
kēng lagem-n-taar ne Wēnde, (A Naam zēkame).

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Miisā wā meeb yaadē wā yaa sēn gidge, maa
Puusg maaneg beenē (yaadē wā), maa kū-
rāmbā mumb miisā wā, ti rē yaa sēn na n yēd
lagem-n-taarā sabab-rāmba.
2. Miisā wā met yaadē wā la nin-naandsā maaneg b
pugē, yaa Yahuud-rāmb la Nasaar-rāmb tuuma,
la ned ning sēn maan woto, a wōns-b lame.
3. Wilgame ti gidgame ti b wa tug n tall nin-naands
(sulusugdu) sēn yaa bōn-naands sēn tar yōyā.

4. Ned ning sēn me miisr yaooḡ zugu, n ning nin-naands (sulusugd) beenē, yēnda a bee Wēnd bōn-naandsā sēn yud wēngā pugē, (A Naam zēkame).
5. Sāri wā a gūuda Tawhudā (Wēn-yembgā) gūub sēn pidi, n yēt soy nins fāa sēn talled n kēngd lagem-n-taarā.
6. A gudgdame maan n zvuḡ nin-sōmbsē wā; bala a yaa sabab ti ned wa tug n luḡ lagem-n-taar pugē.

(10887)

Mam lebsda m meng Wēnd nengē, n da wa tall noang yāmb pugē ye, bala Wēnde -A naam zēkame-, A yōka maam n maan A zaoa, wala A sēn rik a [brahum n maan A zao wā

(24) – عن جندب رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ يَحْمِسُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا! أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ! إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ.» [صحيح] - [رواه مسلم]

(24) – Yii a Gūndub nengē -Wēnd yard be a yīnga- a yeelame: M wuma Nabiyaamā (Wēnd puvsḡ la A tulgr be a yīnga), taoor t'a na pa maan kaalem ne rasema nu, t'a yetē: « **Mam lebsda m meng Wēnd nengē, n da wa tall noang yāmb pugē ye, bala Wēnde -A naam zēkame-, A yōka maam n maan A zaoa,**

wala A sēn rik a]brahum n maan A zao wā, la mam sã n da na n dik ned mam zāma wā pugē, m rag n dik a Abuu Bakr n maan zoa, la sēn reng-b yāmb taorā b ra rikda b Nabiyaam-dāmba la b nīn-sōmbsā yaadā n maand miisa, bi yāmb ra rik yaadā n maan miisa ye, ad mam gıdgda yāmb n yi rēnda». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga), a togsa a menga ziirā sēn yaa soaba Wēnd nengē -A naam zēkame-, la le togsdē t'a taa nonglemā darge-rāmb tekē, wala a]braahum -tulgr be a yīnga- sēn paam-a wā, rē n kut t'a tōdg ne a na tall noanga zēng sēn pa Wēnde; bala a sūurā pida ne Wēnd nonglem la A zısgre la A minim, rēnd sēk pa le be ne nin zēng ti pa Wēnd ye, la a sã n da tara zoa bōn-naandsē wā na yi a Abuu Bakre -Wēnd yard be a yīnga-. Rē poorē t'a bugs ti b ra maan n zuug toaag ning sēn segd nonglemā pugē wā ye, wala Yahıud-rāmbā la Nasaar-dāmbā sēn maane b Nabiyaam-dāmba la b nin-sōmbsā yaadē wā, halı n wa maan-ba ti b lebg lagm-n-taar soab-dāmba ti b tūud-b ti pa Wēnd ye, la b me b yaadē wā miisa la Tūudum roto, ti -Wēnd

puusg la A tilgr be a yīnga- gidg a poorē dāmbā, tī b ra wa maan wala b sēn maana ye.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wānde wilgda a Abuu Bakr yudlemā, -Wēnd yard be a yīnga-, n le wilgd tī yē n yud Sahaabsā, n leb n sōmb n yud nebā fāa ne Nabiyaamā ledsgo a kūumā poorē.
2. Yaa tī miisā wā meeb kabā zutā, yaa zāma nins sēn reng taorā tuum kiti
3. A gidgda b rik yaadā n maan tūudum zīiga n puusd beenē maa b toagl-a, la b met miisa b zugu la zāg-rāmba, tī yaa sēn gidg tī b ra wa lu lagm-n-taar pugē, rē sabab ye.
4. Hadiisā gidgda maan-n-zvuka nin-sōmbsā pugē bala a talledame n tvgd lagm-n-taarē.
5. Būmb ning Nabiyaamā sēn bugsd tī b basa yaa yell tekē, bala a kenga yellā taor t'a na n pa ki ne yund a nu.

(3347)

(25) – عن أبي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قال: قَالَ لِي عَيْبِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدَعَّ تَمَثَّالًا إِلَّا ظَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْتَهُ. [صحيح] - [رواه مسلم]

(25) – Yii a Abu Al-Hayyag Al-asady nengẽ, a yeelame: A Ali [bn Abu Ṭaalib yeela maam: M ka na n tums foom bũmb ning yĩnga, Wẽnd Tẽn-tvumã (Wẽnd puvog la A tilgr be a yĩnga) sãn tums maam ne bũmb ningã? Tı f ra bas nin-naande rëndame ti f saram-a, la f ra bas yaoog sãn zẽke, rëndame ti f zẽms a taaba. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wẽnd puvog la A tilgr be a yĩnga) a ra yume n tvmd a Şahaabsã, ti b ra bas "nin-naande"-yẽ me la bũmb ning b sãn maan ne yoor ti yaa vita, zem ti b maan-a lame t'a tar yĩnga, maa a ka tar yĩnga- rëndame ti b yees-a.

La b ra bas yaoog sãn zẽk ye, rëndame ti zems-a ne tẽngã, la b wã bũmb ning sãn be a zug sãn yaa meongã, maa b maan-a t'a zems ne tẽnga, n ka zẽk ye, rëndame ti yaa bilf bala, b tõe n zẽk-a-la ne tẽngã sãn yaa wala kãntuga.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgdame tu yaa haraam tu b suur yōyã rāmbã, bala a yaa sabab-rāmb nins sën tōe n kēes lagem-n-taare.
2. Yaa sãri wã sën kō sor tu b tōe n kus yel-kitg ne nugu, ne ned ning sën tara naam maa tōog ne rē.
3. Nabiyaamã (Wënd puug la A tigr be a yīnga) sën tar yã-beedo, n na n yēs būmb fãa gill sën tar tōkr ne Zulmã sasa vūuna, sën yaa fot-rāmbã (suurgo) la nin-naandse la yaadã zutã meebo.

(5934)

(26) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، -ثَلَاثًا-»، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(26) – Yii a ‘Abduullaah [bn Al-mus’uud nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: Wënd Tën-tuvmã, (Wënd puug la A tigr be a yīnga) yeelame: «**Liu-n-bugrã (zu-beed saagrã) ad a yaa lagem-n-taare, liu-n-bugrã (zu-beed saagrã) ad a yaa lagem-n-taare, liu-n-bugrã (zu-beed saagrã) ad a yaa lagem-n-taare, -noor a tãabo**», la ned ka be tōnd pugē wã, rëndame t'a saag-a, la Wēnde, (A Naam yī wagell n

zēke), A looga ne-a ne bobl-m-meng ne Wëndã. [A manegame] - [A Abvɔ Daawvud la a At-turmiziy la a]bn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd pɔvsg la A tulgr be a yĩnga) a bugsa nebã ti b yi liu-n-bogrã maanego, yē me yaa ned sēn na n rukd zu-beed n rogēnd bũmb fãa gilli, zem ti yaa sēn wɔmde maa sēn ne, sēn yaa liuulē wã, maa rũm-mugsē wã, maa zamsã rãmbã, maa limoyã, maa rasēm-rãmba, maa zēng sēn ka yi ne rēnda, La a sēn togs liuulã, yaa yēnd n rag n da sēeg n yud Zulemã sasa, la a yēgrã yaa bas liuul t'a yike, f sēn wat n na n maan tɔvɔm ninga, zem ti yaa so-toaka maa yaa tolbo la zēng sēn ka rē, rēnd a sã n yik n kēng ritg wēngē a sũurã yita noogo t'a tɔvɔm a sēn ratã, la a sã n yik goabg wēngē la a sēn yet ti yaa zu-beedo la a bas bũmb ninga a sēn rat n maan-a. la a kōo kibare t'a yaa lagem-n-taare, la saag wēng-kãngã yume n yaa lagem-n-taare, ti bala ka wat ne sōma rēnda Wēnde, leb n ka tɔsd wēngã rēnda Wënd A Yembre, lagem-n-taag ka be ne-A ye.

La a]bn Mas'vud togsame ti lɔslaam sũurē, saag wēng tōe n kē a pɔgē, la sōmbame t'a tus yel-kãngã n yiis a sũurē wã ne bobl-m-meng ne Wēnde, n lagem ne sabab sōmbsã rikre.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Liu-n-buḡrã (zu-beed saagrã) ad a yaa lagem-n-taare, bala be a puḡē, sūurã sën yaḡl zēng sën ka Wēnde.
2. Yaa masaal-rāmb nins yeḡl sën pak n yuda yulem wusḡã sën tar yōodã, sën na yulē t'a tabend sūy wã.
3. Liu-n-buḡrã (zu-beed saagrã) bobl-m-meng ne Wēndã, (A Naam yḡ wagelle) rē saasd-a lame.

B saglame tḡ b bobl-b mens ne Wēnd A Yembre, la b sūyã tabend ne-A (A Naam yḡgame).

(3383)

(27) – عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهَّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». [حسن] - [رواه البزار]

(27) – Yii a [mraan [bn Huṣayn nengē - Wēnd yard be a yīnga-: a yeelame: Wēnd Tēn-tvumã, (Wēnd puṣsg la A tḡlgr be a yīnga) yeeleme: «**Ka be tōnd puḡē, ned sën maana liu-n-bogre, maa b maana a yīnga, maa a buḡa bagre, maa b buḡa bagr a yīnga, maa a maan tum, maa b maana tum a yīnga, la ned**

ning sēn wa bag-budga n kō sud ne a sēn yet-a, a soab kufila ne būmb ninga b sēn sik n kō a Mvhammadā, (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga)».

[Hasanvñ (be neere)] - [A Al-Bazaar n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) pulma puleng beedo, ned ning sēn wa n tumã, sēn yi yē poorē nebã, tvum-rāmb sānda, n yeele: "ka be tōnd pugē" la sēn be a pugē:

Rēenem: "ned ning sēn maan liu-n-bogre, maa b maana liu-n-bogr a yīnga: la yē yēgrã, yaa b sēn na n bas liuul t'a yike, b sēn wat n maan tvumde, zem ti yaa sor togbo, maa yaa tolbo, maa zēng sēn ka rē. A sã n yik n tvug rit wēngē, a sakdame n kell n baas a tvumdã, la a sã n yik goagb wēngē, la a sēn yet ti yaa yel-beedo, n yeel ti yaa zu-beedo, la a yōk a meng n bas a sēn rat būmb ningã, rēnd ka sakde ti ned maan wānde a meng yīng ye, maa a rolg ned t'a maan a yīng ye, la kēeda rēnda pugã ned sēn na n saag zu-beed tagmas ne būmbã fãa gilli, zem ti yaa sēn wumde, maa yaa sēn ne, sēn yaa liuuli, la we-rūmsi, maa yaa zāmsã rāmba (koms-rāmbã), maa yaa limoro maa yaa rasem-rāmba, maa zēng sēn ka rēnda.

Yiib soaba: "ned ning sēn maan bagre, maa b maana a yīnga" rēnd ned ning sēn wa n yēgemdē t'a mii sēn solge, zem ti yaa āds la a geta la zēng sēn ka rē, maa a waa ned ning sēn yagd zīri t'a mii sēn solg nengē, wala bag bugdb la sēn wōnd rē, n stdg-a ne a sēn yet būmb ningā, sēn yaa yel-soondt minimā, ad a soab kɪfla ne būmb ning sēn sik n kō a Muhammadā, (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga)

Tāab soaba: "ned ning sēn so tum, maa b so a yīnga" yē la ned ning sēn maan tum a meng yīnga, maa a roglā ned t'a maan tuma a yīnga, zem t'a na n naf-a-la ne neda, maa a na n nams-a lame, maa a tug n loee yoada ne gīda, n maan tum a pugē, ne a sēn na n karem sēn yaa haraam n fuvus beenē.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa tɪlae ti b bobl meng ne Wēnde, la f kō sīda ne Wēnd Būdā la a kordgā, la b gidg liu-n-bogre la kōb-wēndem la tum maanego la bagr bugbo, la ra tug n kot yel-kāensā neb nins sēn maan woto wā nengē ye.
2. N yeel ti f mii sēn solgā, a yaa lagem-n-taar sēn kUSD Wēn-yembgā.

3. Yaa haraam ti b kō bag budgbā sīda, yaa haraam ti ned kēng b nengē, la paasda rēnda, b sēn boond ti nugā ges-n-karemā la ko-teegā, la ādsā bagre, baa ti yaa sēn rat n na n bāng sēn be beenē.

(5981)

Beenē n kō sūd ne Maam, la kufi ne Maam

(28) – عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِبِ.» [صحيح] - [متفق عليه]

(28) – Yii a Zayd [bn Haalid [bn Alghhany nengē, Wēnd yard be a yīnga, a yeelame: Wēnd Tēn-tuuma, Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga, puusa ne bāmba, Fagr yibeog Puusgā Hudaybiya ziigē wā, la yaa saag sēn ni yungā poorē, la Nabiyaamā sēn wa n se Puusgā, a lebg n togla nebā n yeele: “ rē yīnga yāmb mii y Soabā sēn yeele?” Tī b yeele: Wēnd la A Tēn-tuumā n mi. T’a yeele: ad Mam yembsā pugē, vēega beoog ti neb be beenē n kō sūd ne Maam, la kufi ne Maam, la sā n yaa neb nins sēn yeel-b ti tōnd paama saag niib ne Wēnd kūunā, la A yolsgā, bāmb yaa sēn kō sūd ne Maam, n kufi ne ādsā, la neb nins sēn yeel ti:

yaa ãd-kãngã la ãd-kãngã sababo la tõnd paam saagã, bãmb kɩfla ne Maam n kõi sid ne ãdse”. [A manegame] [A Al-Buħariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Hadiisã wilgdame ti Nabiyaamã, Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga, puusa yibeoog Puusgã, Hudaybiyat zamaanã, yẽ me yaa tẽnga sẽn pẽ Maka, la yaa saag sẽn ni yung poorẽ, T’a sẽn wa ning sallemã n se a Puusgã, la a sẽn togl nebã ne a nengã, n sok-ba: “rẽ yĩnga yãmb mii bũmb ning yãmb Soabã, A Naam yɩ wagell n zẽk sẽn yeel-a? Tɩ b leok-a : ad Wënd la A Tẽn-tuumã n yud minim, T’a yeele : ad Wẽnde, A Naam yɩ wagell n zẽke, a vẽnegame ti nebã, b puɩta kõiBg a yiibu, saag sẽn wat n ni, kõiBg n be n kõi sid ne Wẽnde, A Naam yɩ wagelle, ti kõiBg be beenẽ, n kɩfl ne Wẽnde, A Naam yɩ wagelle ; La sã n yaa neb nins sẽn yeel ti saagã nii ne Wënd yudlem la A yolsgã, n rik saagã niibã n kõi Naaba A Wẽnde, yẽ yaa ned sẽn kõi sid ne Wẽnde, sẽn yaa Naamdã, n yaa Kẽnesdã, bõn-naandsã pugẽ wã, ne A sẽn rata, la a kɩfl ne ãdsã. La sã n yaa neb nins sẽn yeel-b : « **tõnd paama saaga, ãd-kãngã sababo** », yẽ yaa sẽn kɩfl ne Wẽnde, n kõi sid ne ãdga, la yẽ yaa kɩflg sẽn yaa kɩflg bila, n ka yiisd ned lɩslaangẽ ye, bala a rɩka saagã

niibã n yeel ti yaa ãd-kãngã sababo, la Wënd ka maan ti ãdsã yaa sabab sãri wëngẽ, ne saag niib ye, A leb n ka maan-ba ti b yaa sababo, kordg wëngẽ ye, La sã n yaa ne neb nins sën rik saagã niibã, la zëng sën ka rënda, sën yaa yel nins sën maand têngã zugã, n rik-ba n tōkd ne ãdsã kënã, b pukri la b luvuse, n loe n wãage, ti yaa ãdsã mens n maan tũmdã sɪd-sɪda, woto yaa kɪflg bedre, n yiisd ned lɪslaangã pʊgẽ.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbë:

1. Bee hadiisã pugẽ, sën wilgd ti b buu nonglem ti saag sã n ni, bi b yeele : **«ad tōnd paama saaga, ne Wënd yudlemã la A yolsgã ».**
2. Ned ning sën wa n rik saaga niib neemã wã, la zëng sën ka yɪ ne rënda, sën yaa neemã-rãmbã n tug n kō ãdgã ti : **« yaa yẽ n wa ne-a, yẽ n maan-a »** yẽ soaba yaa kɪfre, kɪflg sën yaa kɪfl kãsënga, la a sã n tug n yaglg ne ãdga t'a yaa sababo, yẽ soaba yaa kɪfre kɪflg sën yaa bilfu, n ka yiisd-a lɪslaangã pʊgẽ ye, la rënda yaa sën mik ti Wënd ka maan-a t'a yaa sabab sãri puga, A ka maan-a t'a yaa sabab gesg pugẽ me.
3. Bee hadiisã pugẽ, sën wilgd ti neemã wã, a yɪta sababo ne kɪfundo ti nɪnsaal sã n maan-a

sōm zulem, n leb n yit sababo ne lumaango, tu ninsaal sã n puus-a barka.

4. Hadiisã gidgdame tu b ra yeele: tōnd paama saaga ne ād-kāngã sabab la ād-kāngã sababo » baa t'a sã n toglame tu yaa wakatã la a sēn ratã, rē yaa sēn na yul n da wa tug n kēes-a lagem-n-taar pugē ye.
5. Hadiisã wilgdame tu yaa tlae tu Adam Biig ruk a sūurã n yaglg ne Wēnde, A Naam zēkame, sã n yaa neema baob pugē la yel-wēns tusb pugē.

(65010)

Ad Rvkiyya (walem n fvvsã) la yoagã bobra la nonglemã titã b yaa lagem-n-taare

(29) – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقِيَّ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَّةَ بَشْرُكٌ». [صحيح] -

[رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

(29) – Yii a Abdullaah [bn Mas'udde nengē, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: m wuma Wēnd Tēn-tuvmã (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: "Ad Rvkiyya (walem n fvvsã) la yoagã bobra la nonglemã titã b yaa lagem-n-taare". [Şahuhun (A manegame)] - [A Abvv Daawvvd la a [bn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yïnga) vēnegdame n wilgd yel sãnda ti b maanegã yaa lagem-n-taare, sēn be b pugē:

Rēnem: yaa Ruktyya (walem n fuvse): yē me la gom-biis nins zulemã rãmb sēn tıpd ne-a ti b yaool n naaga ne lagem-n-taar biisi.

Yiibu: yaa yel boabdı wã, sēn yaa wala kīnd biisi la sēn wōnd rē: b sēn rikd n bobd koambã la rūmsã la sēn ka bãmbã sēn na yulē ti liuuli ra wa paam-b ye.

Tãabo: yaa nonglemã tum: yē me la būmb ninga b sēn maande sēn na yulē ti yi-kãadb a yiibã nong taaba.

Rēnd yel-kãensã yaa lagem-n-taare, bala a bee būmb fo sēn na n rıke n maan t'a yaa sababo, t'a yaool n ka sababo sari wã sēn kō t'a tar tikr ye, a leb n ka sabab me sēn yaa vēnega ti b minim-a t'a ytame ye. La sã n yaa sabab-rãmb nins sari wã sēn kō sore, wala Alkurãan karengo, maa yaa yel nins b sēn ne ti yaa vēnega, wala tto, a zarb-n-gesgã b sēn bãng-a, yē soabã sakdame, la ne rē fãa yaa f loe n wãag f sūurē wã ti b yaa sabab-rãmbã la f bãng ti nafa la namsgo, b bee Wënd nugē.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa Wënd yembgã la loεεgã gũubu n yi bumb ning sën tōe n keos-a.
2. Hadiisã wilgdame ti yaa haraam ti b maan (Rukiyya (karem n tubs-rāmb) nins lagem-n-taar sën be a pugē wã la yoadã bobre la nonglemã tumã maanego.
3. Ninsaal sã n wa loe n wāag yel-kāensã b tāabã, ti b yaa sabab-rāmba, yēnda wakat-kānga yaa lagem-n-ta bila, bala a ruka bumb ning sën ka sabab t'a yaa sababo, la a sã n tol n loe ti b nafdame la b namsdē, b mens yīnga, yē lebga lagem-n-taar sën yaa kasēnga.
4. Hadiisã bugsdame n yit sabab-rāmb nins sën yaa lagem-n-taarã la sën yaa haraamã.
5. A gidgda Rukiyya (karem-n-tubs) nins sën yaa haraamã, sã n ka sën wa n mik ti yaa sari wã n kō sore.
- 6-Sōmbame ti sūurã yaglg ne Wënd A Yembre, bala namsg la nafa yita Yē A Yembr nengē, lagem-n-taag ka be ne-A ye, rënd ka wat ne sōmblem rēnda Wēnde, leb n ka tUSD wēng me sã n ka Wēnde, A Naam zēkame.

7-Rukiyya (karem-n-tubs-rāmb) nins sēn sakdā, bāmb la sēn kumd sart-rāmb a tāabā: 1- Yaa sēn na n loe t'a yaa sababo, ka tōe n naf ti sã n ka Wënd tōog ye. 2- Yaa a yī ne Alkurāanā la Wënd yuyā la A suf-rāmbā la Nabiyaamā sēn da tar n kotē wā la doos nins sari wā sēn kō sorā. 3-Yaa t'a tū ne goam b sēn fasēmde a ka būmb sēn lagem ne gom-biis b sēn ka fasēmde, la tito.

(5273)

(30) – عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». [صحيح] - [رواه مسلم]

(30) – Yii Nabiyaamā pagb sānda nengē (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga), ti yii Nabiyaamā nengē (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) a yeelame: «**Ned ning sēn wa yel-soaandu togsd nengē, n sok-a būmbu, b ka reegd a Puvsgo, rasem pis-naase**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga)bugsdame ti b ra wa "‘Arraaf" nengē ye, la yē me yaa yuvr sēn gūbg bag bugda ād-geta, la bīisr-geta la sēn wōnd bāmba, ned ning sēn wilgd yel-soaandi

minim ne yela sēn tuvsd n maandē, rēnd ned sa n kēng bāmbā nengē, n sok-b bala būmbu, sēn yaa yel-soaandı wā, Wend na n mong a soab rasem pis-naas Pvusg yel-sōmde, la rēnda yaa sībgr ne a sēn maan beegr-kāngā la zūnuub bedr-kāngā wā yīnga.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Bagr bugb yaa haraam, kēng bag bugdbā nengē, la sok-b yel-soondi wā, yaa haraam.
2. Ad b tōeeme n mong ninsaala yel-sōmde, tu yaa sībgr ne-a, a sēn tum zūnuub yīnga.
3. Kēeda hadiis-kāngā pugē, b sēn boond tu ādsā la sēn wōnd rēnda, la nus talā kareng, la ko-teesā, -baa tu yaa sēn rat n lik n ges bala, bala rē fāa kēeda bagrā pugē la yel-soondi minim yeelgo.
4. Sā n mikame tu ned ning sēn wa ‘Arrafā (Toagsdā) nengē rolb yaa woto, la ‘Arraafā meng rolb na n yu wānā?
5. Rasem pis-naas Pvusg sēn na n lu, tu yaool n ka tlae t'a rol-b ye, la ad a ka na n paam b yel-sōmdā ye.

tu pa yi ne Wēnde, a soab kɪflame maa a maana lagm-n-taare

(31) – عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول: لا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(31) – Yii a Umar biig nengē (Wēnd yard be b yiibā yīnga) t'a wuma rao t'a yetē: M wēen ne Alkaabā, t'a Umar biig yeele; Ad pa wēende ne zēng sēn pa Wēnd ye, bala mam wuma Wēnd Tēn-tumā (Wēnd puvsg la A tɪlgr be a yīnga) t'a yetē: "ned ning sēn wēena, tu pa yi ne Wēnde, a soab kɪflame maa a maana lagm-n-taare" [Şahuhvñ (A manegame)] - [A Abuv Daawvud la a At-turmiziy la a Ahmad n togs-aʃ]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã Wēnd puvsg la A tɪlgr be a yīnga a kōta kibare ti ned ning sēn wēena ti pa ne Wēnde la A yuyã la A sɪf-rāmba, a kɪfla ne Wēnde, a maana lagm-n-taare; bala wēenegã a zɪsgda b sēn wēen ne a soabã, la zɪslmã yaa Wēnd n sōmb ne-a, Yēnd A yembre; rēnd b pa wēen ne, rēnda ne Wēnde, la A yuyã, la A sɪf-rāmbã A naam yɪlgame, La wēen-kāngã a be lagm-n-ta-bila pvgē; la wēendã sã n zɪsg bũmb ning a sēn wēen ne wã, wala b sēn zɪsgd Wēndã, maa sēn yud rē; wakat-kānga, a lebgda lagm-n-ta kāsengã

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa ti zısg bumb ne wēnegā, yaa Wënd hake A naam ylgame n zēke, rënd a pa wēende, rēnda ne Wēnde, la A yuyā, la A sıf-rāmbā.
2. Sahaabsã sën tar nong-kegenga ne b na sagl ne manegre, la b gidg n yi yel-kiti, sën tug n yuda sã n mikame ti yel-kitgã yaa bumb sën tar tōkr ne Lagm-n-taare, maa Kifēndo.

(3359)

Ra n yeel-y tu: "Wënd sã n sak la a zagl me sak ye", la yeel-y tu: "Wënd sã n sak, rē poorē t'a zagl sake"

(32) – عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ».

[صحيح بمجموع طرقه] - [رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد]

(32) – Yii a Huzayfat nengē, (Wënd yard be a yīnga), ti Wënd Tën-tuuma, (Wënd puusg la A tilgr be a yīnga) yeelame: «**Ra n yeel-y tu: "Wënd sã n sak la a zagl me sak ye", la yeel-y tu: "Wënd sã n sak, rē poorē t'a zagl sake"** [Şahuhvn bı Mağmuu 'Tuvvkihu (A manegame ti b sã n lagem a soyã fãa gilli)] - [A Abvv Daawvvd n togs-a la a An-nasaa'iy As-sunan al-kvbraa wã pugē la a Ahmad]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsɔg la A tɪlgr be a yĩngɔ) gɪdgame tɪ lɪslaam yeele: "Wënd sã n sak t'a zagl me sake", maa Wënd la a zagl sã n sake; la rēnda yaa tɪ Wënd sakrã la A raabã yaa bũmb sēn ka tar toag ye, ned baa a yembr me ka lagemd-A rē puɔgē ye, la rik n yeel tɪ "la" a zaglã, wilgdame tɪ yē soabã lagema Wēnde, fo zemsa bãmb ne taab tɪ b yaa yembre. La yeele: Wënd sã n sak, rē poorē t'a zagl sake, Rēnd a maanda yambã sakrã tɪ puɔgd Wënd sakrã, ne a sēn yet "rē poorē" n leds "la" a zaglã, bala "rē poorē" wã, yaa sēn na n puɔge, n leb n yaa sēn paad poorē.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Wilgdame tɪ yaa haraam tɪ b yeele: " Wënd sã n sak tɪ fo sake" la sēn wōnd rēndã sēn yaa gom-biisi sēn wildg tɪ b tōka ne Wēnde, bala a bee gom-biisã la goamã lagem-n-taarã puɔga.
2. Wilgdame tɪ sakdame tɪ ned yeele: "Wënd sã n sake, rē poorē t'a zagl sake" la sēn wōnd rēnda sēn yaa yel nins sēn tōe n puɔlg ne Wënd raabã, tɪ yaa yaoolem, bala bũmb ning b sēn yeesda ka be beenē ye.

3. Hadiisā tabendame ti Wënd raabā beeme, la yambā raabā me beeme, ti ad yambā raabā tūudā ne Wënd raabā, (A Naam zēkame).
4. Wilgdame ti gidgame ti b wa naag bōn-naandsā Wënd raabā pugē, baa ti yaa gom-bila.
5. Yendā sā n loe ti yambā raabā la Wënd raabā (A Naam yī waggelle) yaa yembre, a gūbgrā la a raabā pugē, maa yambā me tara tulsem sēn welg zalle, yēnda yaa lagem-n-taar sēn yaa bedre, la a sā n loe n wāag t'a ka ta Wënd raabā, rēnd yēnda yaa legem-n-ta-bila.

(3352)

Ad mam sēn yeessd yāmb zugē n tvg n yuda, yaa lagm-n-ta-bila». Tı b yeele: yaa bōe la lagem-n-ta-bila Wënd Tēn-tvuma? T'a yeele: «yaa maan-tı-b-yā

(33) – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ» قَالُوا: وَمَا الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا، فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟» [حسن] - [رواه أحمد]

(33) – Yii a Mahmuud [bn Labiid nengē, (Wënd yard be a yīnga), ti Wënd Tēn-tvuma, (Wënd pvvsg la A tulgr be a yīnga) yeelame: «Ad mam sēn yeessd yāmb zugē n tvg n yuda, yaa lagm-n-ta-bila». Tı b yeele: yaa bōe la

lagem-n-ta-bila Wënd Tën-tvumã? T'a yeele: «yaa maan-ti-b-yã, Wënd yeta dūni yikr raarã, (A Naam yu wagell n zēke), b sã n wa rol nebã b tvumã: kēng-y neb nins nengē yãmb sēn da maan ti b yāt dūni wã, n tvg n gese rē yīnga yãmb na n puama rolb b nengē bu?». [Hasanun (A be neere)] - [A Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wënd puusg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare, ti bũmb sēn yud a sēn yeesd a zãmã wã zugu, yaa lagem-n-ta bilã, yē me la maan-ti-b-yã, la rē: yaa sēn na n wa tvg n tvmd nebã yīnga. Rē poorē t'a kō kibare, maan-ti-b-yã wã rãmb sibgre dūni yikr raarã, n na n yeel-ba: kēng-y neb nins yãmb sēn dag n tvmd-b rãmb yīngã nengē, n ti gese rē yīnga b tōeeme n kō yãmb keor la yel-sōmde, tvum ning yãmb sēn maanã yīnga?!

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Wilgda sēn yaa tulae ti b nidg pãnga n tum Wënd yīnga, (A Naam yu wagell n zēke), la bugsg n yi maan-ti-b-yã.
2. Wilgda Nabiyaamã, (Wënd puusg la A tilgr be a yīnga) nin-bãan-zoεεga ne a poorē rãmbã, la yã-beed maanego ne b kãndgre la maan pu-peelem ne-ba.

3. Sã n mikame tu yaa woto la Nabiyaamã yeesda, (Wënd puvsɡ la A tulgr be a yĩnga) tu yaa sahaabsã la a sën gomd ne wã, tu bãmb me la nin-sõmbã zut rãmba, rënd masa neb nins sën ka bãmbã n yude.

(3381)

Ra zĩnd-y yaadã zut ye, la y ra puvs n togl-b ye

(34) – عن أبي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(34) – Yii a Abu Martadin Al-ganawiy nengẽ, (Wënd yard be a yĩnga), ti Wënd Tën-tuuma, (Wënd puvsɡ la A tulgr be a yĩnga) yeelame : : «**Ra zĩnd-y yaadã zut ye, la y ra puvs n togl-b ye**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsɡ la A tulgr be a yĩnga)ɡıdgame ti b ra wa tug n zĩnd yaadã zug ye.

Wala a sën ɡıdg ti b ra puvs n tees yaadã, wala yaoog sën na n yı puvsdã Alkiblã sënẽ, bala a yaa sabab-rãmb sën maand lagem-n-taare.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa sën gidg ti b ra puus yaadē wā, maa puus n togl yaadā ween-n-vusē, sã n ka kūum Puusg bala, wala sën tablg Sūnnah pugē wā.
2. Gidg ti b ra puus n togl yaadā, yaa sën na gid lagem-n-taarã na-kēndre.
3. Luslaamdā gidgame ti b ra maan n zuug yaadē wā, a leb n gidg-b lame ti b ra yaal-b ye, rënd maan-ti-ka-ta ka be, maan-ti-loog me ka be.

Luslaam lohorma ket n paame halı n tug n tãag a kūum poorē, ne Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) sën yeele: (fo sën na n kao kūum kōbr t'a ki, a yaa wala fo sën na n kao kūum kōbr t'a vi)

(10647)

Suutãanã wata yãmb yembi fãb nengē, n yeci-a • ãnda n naan wãnde ? ãnda n naan wãnde ? • Hãli n wa yeele: « la ãnd n naan fo Sooba ? » Rãhd a sã n wa ta woto, bi a kos gidum n yi a suutãana la a base

(35) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيُنْتِهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(35) – Yii a Abu Hurayra nengē, (Wënd yard be a yĩnga), a yeelame, ti Wënd Tën-tvuma, (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga), yeelame: «**Suutãanã wata yãmb**

yembr fāa nengē, n yeel-a: «ānda n naan wānde ?
Ānda n naan wānde ?» Hal n wa yeele: « la ānd n
naan fo Soaba ? » Rēnd a sã n wa ta woto, bi a kos
gũudum n yi a svutãana la a base ». [A manegame]
[A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Wënd Tën-tvuma, (Wënd puusg la A tılgr be a
yĩnga), kōta kibare, tıp-tum sēn kēed ne sogsg nins a
svutãan sēn yuusd-b sɪd-kōt sũurē wã, Rēnd a svutãan
yetame : «**ānd n naan woto? Ānda n naan wānde ?
Ānda n naan saagã ? Ānda n naan tēngã ? Tı
muunim loekd-a ne a dīnã la a Fitrã (rog-ne) wã
la a yamã, n yet-a: «yaa Wēnde»**, La a svutãan ka
yalsd zĩ-kãngã tek toaaga a yuusgē wã, ad a na n
toemame n kēng n tı yeele: «**ānd n naan fo
Soaba?**» Rēnd wakat-kãngã, lıslaam tusda yuus-
yuus-kãngã n yi a sũurē wã ne yel a tãabo:

Yaa kō sɪd ne Wēnde.

La kos Wënd gũudum n yi a svutãana.

La yōk a meng n bas yuus-yuusã.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Balleg n bas a suutāan yuus-yuusã la a sën kēesd būmb ning sūurē wã, la f ra pug n tags a pugē ye, la f lebs f meng Wënd nengē, A Naam yı wagelle, sën na tōog n menems tags-kāngã.
2. Būmb fãa sën wa Adam Biig sūurã, sën yaa yuus-yuusi, n yōsg ne sari wã, bı y bāng ti yaa sën yi a suutāan nengē.
3. Hadiisã wilgdame ti b gidgame ti b ra wa tug n tagsd Wënd Zaatã ye (yalē wã), la a kengdame ti b tags Wënd bōn-naandsã pugē la A tagmas-rāmbē wã.

(65013)

M kengd-y-la ne Wënd zoesga la sak-n-tū, la yāmb na n yāa maSūnmm poorē, yōs taab wvsgo, bı y gād mam Sūnnah la ledsdb nins sën yaa tēeg turg-rāmbã, sën yaa kändgdabã Sūnnah

(36) – عن العَرَبِيَّاتِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَّظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْوُنُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَظَّتْنَا مَوْعِظَةً مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بَعْدَهُ. فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسْتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحَدَّثَاتِ، فَإِنْ كَلَّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(36) – Yii a ‘[rbaaḍ [bn Saariya nengē, (Wënd yard be a yĩnga), a yeelame: Wënd Tën-tvumã, (Wënd pvvsg la A tlgr be a yĩnga) a yalsa tōnd svk raar a yembre, n maan

tõnd waazv, waazv sën ta teka, ti sũy rigim a poorë, ti nintãm wudem a poorë, ti b yeele: Wënd Tën-tvuma, fo maana tõnd Wënd-na-wat-ne waazv, bi f rik alkaool ne tõndo. T'a yeele: «**M kengd-y-la ne Wënd zoεεga la sak-n-tũ, la yãmb na n yãa mam poorë, yõs taab wvsgo, bi y gãd mam Sunnah la lædsdb nins sën yaa tēeg turg-rãmbã, sën yaa kãndgdbã Sũnnah, gãd-y rëndã ne yën-wãbdi la m kengd yãmb ti y zãag yel sungdsã, ti ad Bid'ah buud fãa yaa menengo**». [A manegame] - [A Abv Daawvud la a At-turmiziy la a]bn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tigr be a yĩnga) maana a Sahaabsã waazv, ti yaa sagls sën ta tekë, ti sũy yεεse, ti nintãm rvvge, ti b yeele: Yaa Wënd Tën-tvumã, ad wõnda Wënd-na-wat-ne waazv, la rë yaa b sën yã Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tigr be a yĩnga) sën maan ti tvv n ta teka sagellã la bugsgã pvvge wã, ti b kos Nabiyaama sagelle, sën na tõog n gãde, Nabiyaam loogrã poorë, t'a yeele: m sagend-y lame ne Wënd zoεεga, (A Naam yv wagell n zēke), la rëndã yaa waagib-rãmbã tvvumã la haraam-rãmbã basgo, la y wum la y tũ, rat n yeel ti: y taoor rãmbã, baa ti yaa yamba n lvv yãmb taore, maa a tõoga yãmb n lvv taore, rat n na

n yeel ti nebã sën yaa yaalg n yud sã n wa lebg yãmb taoor soaba, bı y ra waoog y mensã n zãgs a tũub ye, tũ-y-yã-a, rënda yaa fitna-rãmb yees yĩnga, la ned ning sën na n vumã yãmb sukã, a na n yãa yõs-taab wvsgo, rë poorë a vënegame n wilg-ba yiibã zĩgã, yõs-taab-kãngã sã n wa beë, la rënda yaa sën na n gãd Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tıgr be a yĩnga) Sũnnah la Nabiyaamã ledsgdbã sën yaa kãndgdbã Sũnnah, a ‘Abvũ Bakar Assidiiki la a ‘Umar [bn Alhattaabe, a ‘Usmaan [bn ‘Affaan la a ‘Ali [bn Abii Țaalib (Wënd yard be b fãa yĩnga) la b rũm-a ne yën-wãbdı, rat n na n yeel ti b nidg pãnga Sũnnah gãdb la Sũnnah tablg pugë, a leb n bugs-b lame n yi yel-sungdsã dīinã pugë, ti ad Bid'ah fãa gilli, a yaa menengo.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. A wilgda Sũnnah gãdbo la a pugbo, a yellã sën ta zĩg ninga.
2. A wilgdame ti b nidg pãnga ne waazv-rãmba la sũya bukre.
3. Yaa saglg ti b tũ Nabiyaamã ledsgdb a naasã sën yaa kãndgdbã, bãmb me la a Abvũbakar la a ‘Umar, la a ‘Usmaan la a ‘Ali (Wënd yard be b yĩnga).

4. Gidgame tu b zāag yel-singds dīinā pugē la ad Bid'ah fāa yaa menengo.
5. Yaa wum la tū ned ning sēn wa n luɪ muumin-rāmbā yell taoore, tu Wēnd kusg sā n ka be.
6. A wilgda Wēn-zoεεgā yell sēn ta zīig ninga, wakat la halhaal-rāmbā fāa gill pugē.
7. Yōs-taaba a yaa būmb sēn be dīin-kāngā pugē, la a sēn wat n yɪ wā, yaa tulae tu b lebg n tug Wēnd Tēn-tuumā, (Wēnd puvsɟ la A tɪlgr be a yīnga) Sūnnē wā la lɛdsdb a naasā sūnnā.

(65057)

Ned ning sēn tōdg taoor soab pugbo, la a welg n bas zamā wā n maan kaalem, ad a kii zulem kūm

(37) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
 «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجُمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ
 رَايَةِ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلُهُ
 جَاهِلِيٌّ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا،
 وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَأَسْتُ مِنْهُ».

[رواه مسلم] - [صحيح]

(37) – Yii a Abu Hurrayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga) tu yii Nabiyaamā nengē, (Wēnd puvsɟ la A tɪlgr be a yīnga) yeelame:

«Ned ning sēn tōdg taoor soab pugbo, la a welg n bas zamā wā n maan kaalem, ad a kii zulem kūm, la ned

ning sēn wa n zabdē tu yaa tap-kaoor sēn yaa lik tēngre, n zabdē tu yaa buud yīnga, maa a boondame n tvgd zēngre, maa a sōngda bu-welsgo, tu b kv-a, ad yēnda yaa zulem kuvbo, la ned ning sēn wa n yi n zabd ne mam poorē rāmbā, n kēed a nin-sōng la a nin-wēnga, n ka baood n na n welg a sud-kōta, n ka pidsd alkaool, ad a soab ka be ne maam la mam me ka be ne-a ye». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare, tu ned ning sēn wa n yi n bas taoor rāmbā pugbo, n welg n bas ltslaambā zamā wā sēn zems taaba ne naab balengo, n maan kaalem halhaal-kāng zugu, t'a yaa sēn be zamā wā welgr pugē, la naabā pugbā basbo, a soab kii wala zulem-rāmb kūum, zutb nins sēn da yi n ka rat n tū taoor soaba, n ka lagem taab n yaa zama yenga, la b ra yume n yaa sula la buud-rāmba, n zabd taaba.

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) leb n kōo kibare, tu ned ning sēn wa n tvg n zaba tap-kaoor tēngre, n ka mi sida n welg ne zīri wā, n zabdē tu yaa zēngr la bu-welsg yīng bala, ka dīin sōngre, ka sid sōngre, n zabd bu-welsg yīng bala, tu ka tū ne pv-tēer la bāngre, b sā n kv-a halhaal-kāng pugā, ad a yaa

wala zulemã rãmb sën da kuvd taab to-to ningã. Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga) leb n kõo kibare, ti ned ning sën wa n tug n zaba tap-kaoor tēngre, n ka mi suda n welg ne zīri wã, n zabdē, n ka teeg zēngr la bu-welsgo yïnga, ka dīin sōngre, ka sūd sōngre, n zabd bu-welsg yïng bala, ti ka tū ne pv-tēer la bāngre, b sã n kv-a halhaal-kāng puga, ad a yaa wala zulemã rãmb sën da kuvd taab to-to ningã.

Ti la ad ned ning me sën wa n yi, n zabd ne a puvrē rãmbã, (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga) , n kēed a nin-sōng la a nin-wēng fãa, t'a toog ka be ne yell ning a sën maandã, a leb n ka yeesd a tumdã sūgre, ne yē sën kv sūd-kōtbã, la a leb n ka pidsd alkaool-rãmbã yē sën rik ne kīfr-rãmbã maa taoor-rãmbã, a ka pidsd b alkaoolã, a pvs n yidgd-a lame, rēnd yãwã yaa zūnuub bēda, la ned ning sën wa n maan woto, a soaba sōmba ne pūlen-wēng sën yaa kēgenga.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiisã wilgdame ti taoor-rãmbã pugb yaa tīlae ti Wēn-kusg sã n ka be, (A Naam zēkame).
2. Bugs kēgend n be a pugē, ne ned ning sën wa n yi n bas taoor soab pugbo, la a welg n bas lūslaambã

zamã wã, a sã n maan kaalem halhaal-kãngã zugu,
a maana kaalem wala zulemã rãmb kũum buudu.

3. Hadiisã gudgdame ti b bas buud zaba.
4. A wilgdame ti yaa tulae ti b pids alkaool-rãmbã.
5. A wilgdame ti tũubã pugẽ la lıslaambã zamã
wã tablgã, sõma wusg n be a pugẽ, la bas-m-
yam la yĩn-yõgnego, la yel manegre.
6. Hadiisã gudgdame ti b ra wõnes zulmã rãmb yelã ye.
7. Hadiisã sagendame ti b tablg ne lıslaambã zamã wã.

(58218)

ned ka be Wënd sãn na n kõ-a bũmb taoore, t'a wa tvg n ki raar ning a sãn kiidã, t'a yaa sãn zambd a sãn gũud bũmb ningã, rëndame ti W-a arzãnã a zugu

(38) – عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ الْمُرِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ
يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(38) – Y(Wënd puvsg la A tıgr be a yĩnga)ji a Ma'akıl
[bn Yasaar Al-Muzaniy nengẽ (Wënd yard be a yĩnga)
a yeelame: m wuma Wënd Tẽn-tvumã (Wënd puvsg la A
tıgr be a yĩnga) t'a yetẽ: "Ned ka be Wënd sãn na n kõ-a
bũmb taoore, t'a wa tvg n ki raar ning a sãn kiidã, t'a yaa
sãn zambd a sãn gũud bũmb ningã, rëndame ti Wënd
haram-a arzãnã a zugu". [A manegame] [A Al-
Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yĩnga) kōta kibare, ti ned fãa Wënd sēn maan t'a yaa nebã taoor soaba, zem ti yaa naam sēn gūbgi wala nebã naaba, maa yaa soolem sēn welge, wala zak soaba, la paga a zakē, t'a maan n koeeg a sēn sōmb n ges b rāmb yellã, n maand-b zambo, n ka maand-b pu-peelem, n zεem b hake-rāmbã, zem ti yaa diinã maa yaa dūni wεengē, rē yēnda soab sōmba ne sibg-kāngã sēn yaa wēnga.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Ad puleng wēng-kānga a ka welg toor zalle ne tēngã naaba la a sōngdbã ye, yaa būmb sēn gūbg ned fãa Wënd sēn wa n luus-a nebã taoore.
2. Būmb ning sēn sōmb ne ned ning sēn wa n be a taoore, sēn yaa lūsambã yelle, bɪ a maand-b pu-peelem la a nigd pānga n maan tuum ning sēn be a zugã, la a gūus zamb maanego.
- 3-Wilgda taorã yell zislem, zem ti yaa taoor ning sēn gūbg nebã fãa gillã, maa ti yaa taoor sēn welge, zem t'a yaa bedr maa a paoodame.

(5335)

(39) – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَّرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(39) – Yii a Ummu salamat nengē sēn yaa muumin-rāmbā ma wā (Wēnd yard be a yīnga) tu Wēnd Tēn-tvumā (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) a yeelame:- «**Nanumbs n na n wa zīndi, tu yāmb pēgd b tvumā sānda la y kisg b tvumā sānda, la ned ning sēn maana neerā a soab fāag a menga, la ned ning sēn gidga b tvum wēnsā a soab tilgame, la yellā yaa ned ning sēn yara, n na n kell n puge**» , tu b yeele: d kōn n zab ne-ba? La a yeele: «**ayoo, b sā n ket n puvsdame bu y ra zab ne-b ye**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) kōo kibare, tu na-nambs n na n wa lvi tōnd taore, tu tōnd mi tvum sānda n pēgda; bala b zemsa ne sāri wā sēn saglā, la d kisgd sānda bala b yōsga ne sāri wā, rēnd ned ning sēn kisga yellā ne a sūuri, t'a sā n ka tōe n kus vēnega, yē soaba paama pōsgr n yi

zānuubā la munaafiglemā, la ned ning sēn wa n tōe n kus-b ne a nugu, maa a zelemde, n sūd kus-ba, yē soabā tulgame n yi Wēn-kusgo la zūnuubā lagengo, la ned ning sēn yara b tūmdā la a pug-b a pugē, a halkdame wala bāmb me sēn halkā.

Rē poorē, tū b sok Nabiyaamā, (Wēnd puvsg la A tūlgr be a yīnga): d ka na n zab ne nanambs nins stfa sēn yaa woto wā? T'a gūdg-ba n yeele: ayoo, b sā n ket n yalsd Puvsgā ne yāmb bī y ra zab ne-b ye.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. A wilgda Nabiyaamā, (Wēnd puvsg la A tūlgr be a yīnga) nabiyaamdem, ne a sēn kō kibar ne būmb ning sēn na n yī, sēn yaa yel-soondi, t'a sūd wa yī wala a sēn togsā.
2. Pa sakd tū ned wa tug n yard ne yel-kiti maanego, ka sōmb me t'a lagem a pugē, la yaa tulae t'a kisg-a.
3. Nanambsā sā n wa maan būmb sēn yōsgd sāri wā ka sakd tū b pug-b rē pugē ye.
4. Wilgdame tū ka sōmb tū yī n na n zab ne lūslaambā Nanambse, ne sāang wusg sēn na n

zīnd a pugē, sēn yaa zum raagre la yō-koglg
kaalem, rēnd nanamsā yel-kiti wā maanego,
sēn tōe n zā la maan sugr ne b nangā, n yaa faag
n yud yell ning sēn na n zīnd b zabrā pugē wā.

5. Wilgdame ti Puvsgā yell yaa zisgo, yaa yēnda
n welgd kifēnd la lūsang suka.

(3481)

kō-y hake ning sēn zao yāmb zugā la y kos Wēnd ne hake ning sēn yoo yāmb rēndā

(40) – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«سَتَكُونُ أُمَّرَةً وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «تَتُودُونَ

الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ». [صحيح] - [متفق عليه]

(40) – Yii a ‘Abdullaah [bn Mas-Uvd nengē,
(Wēnd yard be a yīnga), yii nabiyaamā nengē, (Wēnd
puvsg la A tulgr be a yīnga), a yeelame: «**Ad nanams
yā-beed n na n wa zīndi, la yel yāmb sēn ka rate, ti
b yeele: Wēnd Tēn-tvuma, la bōe la fo sagend tōnd
wakat-kānga? T'a yeele: «kō-y hake ning sēn zao
yāmb zugā la y kos Wēnd ne hake ning sēn yaa
yāmb rēndā».** [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a
Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã kōo kibare (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) ti ad na-nombs n na n lvi lslaambã taoore, n yāmb lslaambã arzeka la zēng sēn ka rēnda sēn yaa dūni wā yela, n maand-a wala b sēn rate la b git lslaambã ti b ka tōe n paam b hake-rāmbã ye. La dīnã pugē me b na n maana yel yāmb sēn ka rate. Tı sahaabsã soke, (Wënd yard be b yīnga) ti b na maana wānd halhaal-kāng wakato? T'a kō-b kibare, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) ti b sēn yāmb arzeka ra wa gidg yāmb ti y ra yik ne būmb ning Wënd sēn maan ti yaa tulae n rog yāmba, b wængē ye, sēn yaa wumbo la tūubu, y maanda sugri la y wome la y tū, la y ra maan-b tak-n-taar yellã pugē ye, la y kos hake ning sēn be ne yāmbã Wënd nengē, la y kos ti Wënd maneg-ba la A gū b wēngã la b wēgdã n yi yāmba.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgda Nabiyaamã nabiyaamd mā tagmase, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) ne a sēn kō kibare ne būmb ning sēn na n wa yı a poorē rāmbē wā, ti sud yı wala a sēn togsã.

2. Sakdame ti b togs ned ning b sēn zarb a soaba, būmb ninga b sēn tēed ti na n yume sēn yaa baollgo, buul ying t'a na paam n segl a yōorā, t'a sã n wa bi a yaa sugr soaba, n tēed yel-sōmd Wēnd nengē.
3. Wilgdame ti Alkurāanā la Sūnnah gādbo, a yaa būmb sēn yiisd ned fitna la yōs-taab pugē.
4. Yaa pirsg ti b wum la b tū dīinā taor rāmbā ti sã n yaa manegre, la b ra yi n zab ne-ba, baa ti wēgb sã n zīnd b nengē.
5. Wilgdame ti b tum ne yam bedre la b pug Sūnnā yelā Fitna) wakato.
6. Ninsaal sōmb n yika ne hake ning sēn zao a zugā, baa ti b sã n wēg-a būmb sānda zugu.
7. Daliil n be hadiisā pugē n wilgd zeng-raoog ning b sēn riġlg n yetē: ti b sōmb n tūusa yel-wēns a yiibu sēn são wã a soabā n maan rē ti sã n wa yaa tlae, maa yel-beed a yiibu sēn yaa faag n yuda.

(41) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَلَأَمِيرُ الَّذِي عَلَى الثَّائِسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [صحيح] - متفق عليه .

(41) – Yii a ‘Abdullaah [bn ‘Amr nengē, (Wēnd yard be b yīibā yīnga), ti Wēnd Tēn-tuuma, (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) a yeelame: «Yāmb yem kām fāa gīli yaa gūuda, la yem kām fāa gīl me, b na n sok-a-la a rūmsā yelle, limaam yaa gūuda, b na n sok-a-la a bōn-gūudi wā yelle, rao me a yaa gūuda a zakā rāmbē, b na n sok-a lame a bōn-gūudi wā yelle. Pag me yaa gūuda a sidā zakē, b na n sok-a lame a bōn-gūudi wā yelle. Sōgna yē me yaa gūuda a zu-soabā arzekē, b na n sok-a lame a bōn-gūudi wā yelle. Yāmb yembr fāa yaa gūuda, b na n sok-y lame y bōn-gūudi wā yelle» . [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) kōta kibare, ti līslaam fāa sēn be zamā wā pugē, a tara yell ti rog a zugu, ti yēnd n na n yals n ges-a la a tuk-a, rēnd limaam (taoor soaba) la naaba bāmb yaa

gũudb ne Wënd sën gũnug-ba, rënd yaa tilae n zao ne yē t'a gũ nebã sãri wã, la a gũ nebã n yi neb sën na n wëg-ba la a zab ne b be wã, la a ra yeeb b hake-rãmbã ye, la raoa, a zak rãmbē, b rogla yëndã t'a yik n yals ne b rulgre, la vum-n-taar sën be neere, la a karem-ba la a zvgl-ba, la pag me yaa gũuda a sid zakē, ne a sën na n maneg zakã yel-kēnesgo la a wub a koambã, la yaa pagã la yel-kãensã rog yã, la sōagna la yamba la tum-biiga, b tuk-b lame b zu-soabã argek yelle, ne b sën na n yik n yals ne a gũusgu la b sōgn-a, la b na n sok-b-la yel-kãngã, rënd ned fãa yaa gũud ne bũmb ning b sën bobl ne-a wã, la ned fãa, b na n sok-a lame b sën gũneg-a bũmb ningã.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Yals ne yela, luslaambã zamã wã pugē, b bobl-a-la luslaambã fãa gilli, ned fãa yaa ne yē me pãng tōog tēka la sën zao a zug me tēka.
2. Wilgda pag yelã me sën yaa bedre, ne a sën na n yik ne a sidã zak yelle la a mengã waagib-rãmb sën kēed ne a koambã.

(5819)

(42) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي سَيِّئًا فَسَقِّ عَلَيْهِمْ فَاسِقُوقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي سَيِّئًا فَارْفُقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(42) – Yii a Aisa nengê, (Wënd yard be a yĩnga) a yeelame: m wuma Wënd Tën-tvumã (Wënd puvsug la A tulgr be a yĩnga) t'a yet mam ro-kãngã pugê: "m Soabã, ned ning sên wa n lu mam poorê rãmbã yell taore, n weoog-ba bi F weoog a zugu, la ned ning sên wa n lu mam poorê rãmbã yell taore, n zoe b nimbaanegã, bi F zoe a nimbaanega". [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Wënd Tën-tvumã (Wënd puvsug la A tulgr be a yĩnga) kosame ti ned fãa sên wa n lu lslaambã yell taore, yaa bedr ti yaa bilfu, zem ti yaa taor sên gũbgi maa yaa bogr sên welg neb zalle, t'a kées nebã nango, n ka zoe b nimbaanega, bi Naab A Wënd yao-a a tvumã bilgri, n weoog a yellã.

La ned ning sên wa n maan bug-bug ne nebã, n yols b yelã, bi Wënd me maan bug-bug ne-a la A yols a yela.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Sōmba ne ned ning sën wa n lu yell ning taoore, lslaambã yelē, bi a maan yol-yol ne-ba, a pāng tōog tēka.
2. Rolbã yita wala tuumdã buudu.
3. Būmb ning d sën tikd n yeel ti woto yaa yol-yole la kãe-kãe wã, yaa sën ka yōsgd Alkurāanã la Sūnnah.

(5330)

Diina yaa maan pu-peelem

(43) – عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «الَّذِينَ التَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا ئِمَّةٍ

الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(43) – Yii a Tamiim Addaary nengē (Wënd yard be a yīnga) ti Nabiyaamã (Wënd puvsɔg la A tilgr be a yīnga) yeelame: «**Diina yaa maan pu-peelem**» ti tōnd yeele: ne ānda? T'a yeele: «**ne Wënd la A Gafã la A Tēn-tuvmã la lslaambã taoor rāmba la b zāngã**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaama kōo kibare ti dīinã yāsa pu-peelem zugu la sīda, sën na yīl n maan-a wala Wënd sën saglã, t'a yaa sën pidi n ka booge zāmb ka be a puɔgē.

Ti b yeel Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga): yaa ãnd la pu-peelemã maan ne? T'a yeele:

Rēnem: yaa maan pu-peelem ne Wēnde A naam yi wagelle n zēke: ne tuuma yilgre Wënd A yembr yĩnga, la a ra maan lagm-n-taar ne-A ye, la d kō sid ne A Wēndlmã la A Sobendã, la A Yuyã, la A Stf-rãmbã, la A yellã zisgre, la bool n tug kō-sid ne-A.

Yiibu: yaa maan pu-peelem ne A Gafã yē me la Alkurãan wagellã: ne d sēn loe n wãag t'a yaa A goama, la A gaf-rãmba baasdga, la a yēesa sãri-rãmbã sēn deng-a taoorã, la d zisg-a la d karem-a kareng sid-sida, la d tum ne a buvdã, la d sak n pug a maana-gēdmã, la d zab ne kedgdbã wels yoodã a pugē wã, la d paam yam ne saglsã, la a bãngrã sēegre, la bool n tug-a.

Tãabo: yaa pu-peelem maanego ne A Tēn-tuumbã a Muhammad -Wënd puusg la A tulgr be yĩnga-: ne d sēn na n loe n wãag t'a yaa tēn-tuumbã baasdga, la d sidg-a a sēn wa ne bumb ningã, la d sak a sagellã, la d zãag a sēn gidgã, la d ra tũ Wēnde rēnda ne bumb ning a sēn wa ne wã, la d zisg a hake wã, la d waoog-a, la d sēeg a Boollã la a sãri wã, la d tus rōdbã n yi-a.

Naase: yaa pu-peelem maanego ne lislambã zut rãmba: ne b sēn na n sōng-ba, la b ra maan-b tak-n-

taar yellã pvg ye, la d wvm la d tũ ti sã n yaa yell sãn yard Wẽnde.

Nu: yaa lıslaambã maan pu-peelem: ne maan neer n tvg-ba la bool-ba n tvg dıınã, la yõk nang n bas-ba, la sõma nonglem ne-ba, la tum ne-ba manegr pvgẽ la Wẽnd zoere.

Sãn be Hadiisã yõod-rãmbẽ:

1. Saglame ti b maan pu-peelem ne nebã fãa.
2. Maan pu-peelem dıınã pvgẽ wã zıslem sãn ta to-to.
3. Dıınã sãn tigim loeesã la koesã la tuvmã.
4. Zãag yõorã ne zãmbã fo sãn sagend a soabã la f tul neer ne-a wã, rẽ lagma pu-peelemã maanegẽ.
5. Wilgda Nabiyaama -puvsug la tılgır be a yĩnga-wilgrã sõmblem, ne a sãn dengd n togs bũmbã mum-muma n yaool n wels-a.
6. Reng n sung sãn pak n yuda n yaoolg sãn pvgd, bala nabiyaã (Wẽnd puvsug la A tılgır be a yĩnga) a sunga ne maan pu-peelem ne Wẽnde, rẽ poorẽ ne A Gafã, rẽ poorẽ yaa ne A ten-tuumã (Wẽnd puvsug la A tılgır be a yĩnga) rẽ poorẽ yaa lıslaambã taoor rãmba, la b fãa.

(4309)

(44) – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ٧].
 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ». [صحيح] - [متفق عليه]

(44) – Yii a Aaysa nengē, (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tēn-tvuma, (Wënd pvsug la A tilgr be a yīnga), a karema Aayae-kāngā {Yēnda n sik Gafā fo zugu ti Aayay-rāmb maana sēn yaa vēnega be a pugē, la yaa rē la gafā yēgrā, la a sānda maana pa vēneg ye, la kedgrā sēn be b rāmb sūyē wā, bāmb pugda gēdem-gēdmā, ti yaa yel baobo la a welsgo ne bāmb yōe yam-leoogo, la yaool n pa mi a vōorā rēnda Wēnde, la sēn taab tēka bāngr pugē wā yetame: "tōnd kōo sid ne-a, fāa yii tōnd Soabā nengē". La pa tagsd n getē rēnda yam-bæel rāmba.} [Aalv [mraan: 7], d ma a Aaysa yeelame: Wënd Tēn-tvuma, (Wënd pvsug la A tilgr be a yīnga), yeelame: “rēnd fo sã n yã neb nins

sën pvgd maana sën pa vëenegã, Alkvrãanã pvgẽ wã, bɪ f bãng tɪ yaa bãmb la Wënd sën pvdã, bɪ f gũus-ba». [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Wënd Tën-tvuma, (Wënd pvvsg la A tɪlgr be a yĩnga), a karema Aaya-kãngã {Yënda n sik Gafã fo zugu tɪ Aaya-rãmb maana sën yaa vëenega be a pvgẽ, la yaa rë la gafã yëgrã, la a sãnda maana pa vëeneg ye, la kedgrã sën be b rãmb sũyë wã, bãmb pvgda gëdem-gëdmã, tɪ yaa yel baoobo la a welsgo ne bãmb yõe yam-leoogo, la yaool n pa mi a vöorã rënda Wënde, la sën taab tẽka bãngr pvgẽ wã yetame: " tõnd kõo sid ne-a, fãa yii tõnd Soabã nengë". La pa tagsd n getë rënda yam-bæel rãmba.} Rënd Aaya-kãngã pvgẽ, Wënd kõo kibare, A Naam yɪlgame, tɪ yaa Yënda n sik A Nabiyaamã zugu Alkvrãanã, Aaya-rãmb sën be a pvgẽ tɪ b teesg yaa vëenega, tɪ b bvdã yaa b sën mi, liibg ka b pvgẽ ye, yaa yënda la Gafã yëgre la a fãa, yë me la b lebd n tvge, yõs taab wakato, la Aayay-rãmb a taab n be, tɪ b raabã rikda nems wvsgo, tɪ b maanã tar gëdg ne neb sãnda, maa b tëedame tɪ kusg n be Aayay-rãmbã ne taab svka, rë poorë tɪ Wënd vëneg n wilg nebã sën

rīkd Aayay-rāmbā to-to wā, rēnd neb nins sūy sēn kill n bas sūdā sēn be beenē, bāmb basda sēn bu n manegā, la b tvg n rik sēn tar gēdg maanā wā pugē wā, b baooda rēnda n rat n na n liib nebā la b menes nebā, n leb n maan rēnda ti yaa sēn na wēnems Aaya-rāmbā n zems bāmb yamleoodā, la sā n yaa neb nins nao sēn tablg bāngrā pugē wā, bāmb mii Aaya-kāesā sēn tar gēdgā, ti b rīkd rēnda n lebsd Aayae-rāmb nins sēn yaa vēenega, la b kōt sūd ne-ba, la b kōt sūda ti b yii Wēnd nengē, A Naam zēkame, rēnd b ka būmb sēn tōe n yī gēdēm maa kus taab ye, la ad ned ka tōe n tēeg rēnda, n tags n bāng n maan waazu, sā n ka yam nins sēn manegā rāmba, rē poorē, Nabiyaamā, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga), yeela muumin-rāmbā ma a Aaīsa, (Wēnd yard be a yīnga) t’a sā n yā neb nins sēn pugd Alkurāanā Aaya-rāmb nins sēn tar liibg b fasēngē wā, bāmb la Wēnd sēn pud n yeel a koεg pugē. {ti ad neb nins gēdgā sēn be b sūy wā} sā n yaa woto, bī y gūus-ba la y ra wa kelg-b ye.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Sēn bu n maneg Alkurāanā pugē : yaa a raabā sēn na n yaa vēenega, la a maanā leb n yaa vēenega, la Aayae-rāmb nins sēn tar gēdmā, yaa Aayar ning sēn tōe n rik maana wusgo, ti rat gesg la fasēng a pugē.

2. Hadiisā bugsdame tu d ra naag d mens la d ra gēdg kedgdbā la bidā wā nebā, la neb nins sēn kēesd yel-gēdma dīnā pugā, n rat n na n menes nebā la b maan-b sikā.
3. Aayarā baasgē, Wēnd koεeg sēn yeele {La pa tagsd n getē rēnda yam-beel rāmba.} yaa kedgdbā sābgre la bāngdbā pēgre, rat n na n yeelame tu ned ning sēn ka tēega la a ka maan waazu, n pug a yōorā yamleoogo, yē ka naag yam pēelā rāmb ye.
4. Hadiisā wilgdame tu pugd Aayae-rāmb nins sēn tar gēdēm fasēngā wεengē wā, a yaa sabab n kedgd ninsaal sūurā.
5. Hadiisā wilgdame tu yaa tlae tu d ruk Aayae-rāmb nins b sēn tōe n ka fasēm b maanā wā sēn rat n yeelā, b ruk yē n tug n tōk ne Aayae-rāmb nins sēn bu n manegā, tu d fasēmd-b lame.
6. Wēnd kitame tu Alkurāanā sānda, tu b maana wā yaa vēenega, la A kite tu sānda maanā wā tar gēdse, tu yaa sēn na n zarb nebā n gese, bul yīnga tu b na welg sid-kōtbā ne menemdbā.
7. Gēdgā zīnd Alkurāanā pugē: a wilgda bāngdbā sēn yud b taaba, n leb n wilgd yamā sēn tar koeegre, n ka tōe n bāng būmb fāa gill ye; bul

yīng ti b na sak n tū b Naandā la b leb n reeg b
zugē ti b yaa koangdba.

8. Hadiisā wilgda bāngr sid-sidā yudlem la sēn
yaa tulae ti b tablg bāngrā pugē.
9. Tafsur moeembā, b tara koes ne fo sēn na n
kareme n yals zīig ning sēn yet ti {Allah=
Wēnde} Aayarā sēn yeele: { la yaool n pa mi a
vōorā rēnda (Wēnde), la sēn taab tēka bāngr
pugē wā} koes a yiib n be beenē, rēnd ned ning
sēn yals {Allah= Wēnde} yē soabā raabā ne (pa
mi a vōorā): yaa būmb meng hakukā la a yale
wā, la wala būmb ning sor sēn ka be, n tōe n
bāng-a ye, a bilgr yaa wala yōorā yelle, la dūni
wā yikr yelle, sēn yaa yel nins Wēnd A yembr tāa
sēn soog a bāngrā, rēnd bāng koom rāmbā, b
kōta sid ne-a, la b rik a hakukā n boblg ne
Wēnde, ti b sak n tū n paam tulgre. La ned ning
sēn kell n tōk a karengā, n ka yals {Allah=
Wēnde} zugu, rēnd yē soabā raabā yita tafsure la
pārg n bāng a maanā wā, la vēnegre, rēnd wakat-
kāngā Wēnd mi-a lame, ti bāng koom rāmbā me
mi-a, n kōt sid ne-a, la b lebsd Aqya-kāensā
Aayae-rāmb nins sēn bu n manegā nengē.

(65062)

(45) – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضعفُ الإيمانِ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(45) – Yii a Abu Sa‘ud Al-ḥudriy nengē (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: mam wuma Wēnd Tēn-tūma, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga), t’a yetē: « **Ned ning sēn wa n yā yel kitga, bi a tedg-a ne a noorā, la a sã n ka tõe rēnda, bi a tedg-a ne a zulemdā, la a sã n ka tõe rēnda, bi a tedg-a ne a sūurā, la yēnda n tug n yud ne lumaang sēn yaa valanga.** » [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga, a sagendame ti b gidg yel-kiti wã, bãmb me yaa bũmb fãa Wēnd la A Tēn-tūmã sēn gidgã. ti b gidg rēnda pãng tōog tēka. Rēnd ned sã n yā yel-kitga, yaa tulae ne-a t’a tedg yel-kãng ne a nugu, t’a sã n tar tōogo. A sã n ka tōog boto, bi a tedg-a ne a zelemdã, la woto yaa a sēn na n gidg ned ning sēn maanda kispã, la a vēneg yellã wēnga n wilga, la a togl-a yel-sōngo sēn ledsd yel wēng-kãnga, La a sã n ka tōog boto, bi a gidg ne a sūurã, ne yē mēngã kisp yel-kispdg-kãnga, la a loe n wãag a sūurē wã, ti yē sã n da tara tōog sē n na n gidg-

a, a rag n na gıdgē. La gıdg ne sūurā, yēnda n yaa sid-kūunā sēn tvg n paood n yuda, yel-kiti wā gıdgr pugē.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā yaa yēgre, n wilgd yel-kiti wā gıdgrā sē n tog n pug taab to-to.
2. A leb n sagendame, ti b kēng bilf-bilfu, ti f sā n rat n na n gıdg yel-kiti, ned fāa ne a pāng tōog tēka.
3. Yel-kiti wā gıdgre, a yaa ragnoor sēn yaa bedre, lıslaangā pugē, a ka būmb me sēn luit n bas ned baa a yembr ye, a yaa būmb b sēn rogl-a lıslaam fāa, n zems a tōog tēka.
4. Sagl ne manegre, la gıdg ne yel-kiti wā, a bee lumaangā kōbgē, la lumaang me paasde la a boogdē.
5. B maana sart ti fo sā n wa rat n na n gıdg yel-kiti, ti f tar bāngre ti tvum-kānga yaa būmb sēn kisi,
6. Leb n yaa sart ti yel-kitgā gıdgr ra yı sasab n wa ne yel-kitg sēn yud rēnda ye.
7. Yel-kitg gıdgre, a tara zugdo, la sart-rāmba, ti sōmb ne lıslaam t'a karem-ba.
8. Yel-kiti wā gıdgre, a tara tulsem ne na-kēndr rukre, la bāngr minim.

9. Ned sã n wa ka ksig ne a sũurã, wilgdame tu lumaangã paooda wusgo.

(65001)

Ned ning sãn yãs Wënd todsê wã n ka lvt a pugê la sãn lvi a pugê wã bilgri, yaa wala neb sãn na n kê koglg pugê, ti sãnda paam yĩngrã, ti sãnda be tẽngrã

(46) – عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَّوْا، وَنَجَّوْا جَمِيعًا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(46) – Yii a Annu'umaan [bn Bašur nengê, (Wënd yard be b byiibã yĩnga), ti Wënd Tẽn-ntvuma, (Wënd puusg la A tĩlgr be a yĩnga) yeelame: «Ned ning sãn yãs Wënd todsê wã n ka lvt a pugê la sãn lvi a pugê wã bilgri, yaa wala neb sãn na n kê koglg pugê, ti sãnda paam yĩngrã, ti sãnda be tẽngrã, ti sãn be-b tẽngrã sã n rat n teog koomã, b puugda yĩngrã, ti b yeele: tõnd sã n pãrg tõnd nengê wã võore n teogd beenê la d ra nams neb nins sãn be yĩngrã ye, rënd koglgã rãmb sã n bas bãmbã ne b sãn rat bũmb ningã, b fãa na n halkame, la b sã n gãd-ba b põsdame, ti b fãa põse». [A manegame] [A Al-buhaarriy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) rika bilg-n-taare ne ned nins sën yās ne Wënd todsã, n tēeg trg ne Wëndã, n sagend ne manegre, la b gıdgd yel-kiti wã, la neb nins sën lvt Wënd todsẽ wã, n basd saglsã, n maand yel-kiti wã, n basd vūun yookã nimbuiidã pugẽ wã, b yaa wala neb sën kē koglggo, ti b na n los poerã n bāng neb nins sën na n zīnd koglgã yĩngrã la neb nins sën na n zīnd a tēngrã, ti sānda paam a yĩngrã ti sāndã paam a tēngrã, la sën be b tēngrã, b sã n rat koomã b puusgda sën be b yĩngrã n paam n yāke, ti sën be b tēngrã yeele: tōnd me sã n poog vōore d zīigẽ wã tēngrã kaanẽ, n yākd koomã beenẽ, sën na yulẽ n ka nams neb nins sën be tōnd zugẽ wã, rēnd yĩngr rāmbã sã n bas bāmba, koglgã bōrda ne b fāa gilli, la b sã n yik n vēneg n wilg-ba la b gıdgd-ba, sul a yiibã fāa na n pōsame.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgda sagl ne manegre, la gıdgd yel-kiti wã sën ta zīig ninga, ne zāmaanã gūub la a tulgr pugẽ.
2. Sën be karengã wilgr soy pugẽ, yaa yel-būn wēebo, sën na yul n pēneg maanã-rāmbã ne yamã ti b yaa wala sën tōe n gād vēnega.

3. Maan yel-kiti wã sën yaa vëenegã , n lagem ne b bas-a n pa gıgdẽ wã, a yaa sãang n na n lebg n wa b fãa zug ne yooko.
4. Nin-buiidã halkr bee ne b sën na n bas tuum yoodã rãmba, tı b vı têngã zug ne sãanga.
5. Maan yooko ne Anniy sõngo, a ka sekđ tuumdã manegr ye.
6. Sak-n-tukã lıslaambã zamã wã pugẽ, a yaa bũmb b sën lagemd taaba pugẽ, a ka bũmb sën ruk n roglg ned sën welg zall ye.
7. Yaa b sën na n nams nebã fãa ne sën welgbã zũnuubã, tı b sã n ka kus-ba.
8. Yel-kiti wã rãmbã, b vënegda b yel-kiti wã, tı b yaa wala bõn-sõmã ne nin-buiidã, wala munaafıgsã me sën maandã.

(3341)

(47) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(47) – Yii Abu Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) ti Wēnd Tēn-tvuma (Wēnd pvsrg la A tilgr be a yīnga) a yeelame:

«Ned ning sēn boola n tvg kāndgre, a soab tara keore wala neb nins sēn pvg-a wā, ti rēndā me ka boogd bāmb keorā baa fv. La ned ning sēn boola n tvg menengo, ad yē me tara zūnuuba, wala neb nins sēn pvg yē wā zūnuub bilgri, ti rēnda ka boogd bāmb zūnuubā baa fv». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pvsrg la A tilgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, ti ned ning sēn wa n kāndga nebā la a tees-ba la a pirs-ba, n tvg sore, sid la sōma sēn be beenē, zem ti yaa ne koεega maa yaa tvumde, ad a na n talla keor ned fāa sēn tū-a keor buudu, ti bāmb rāmbā keorā ka boogd baa fv. Le ned ning sēn peega nebā n tees zīri-beed la wēng sore, ti zūnuub be beenē la tudgri, maa būmb sēn ka sakde,

zem ti yaa ne koεeg maa yaa tuumde, a soab tara zūnuub la neb nins sēn sak n pug-a wā zūnuub-rāmba, ti baa fu ka boogd bāmb rāmbā zūnuubā baa kɪgda.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. A wilgda bool n tug kāndgrā yudlem, zem ti yaa wusg ti yaa bilfu, n wilgdē ti boaanda a tara ned ning sēn na n tumā wā keoor bilgri, la rēnda yaa sēn be Wēnd yudlem kasēngā pugē la a kūunā sēn pidā.
2. A wilgda bool n tug menegā wēng sēn ta zīig ninga, zem ti yaa bilf ti yaa wusgo, la boaandā me tara ned ning sēn na n tumā wā zūnuub buudu.
3. A wilgdame ti keorā yta wala tuumdā buudu, rēnd ned ning sēn boola n tug sōma, a tara tuumdā keoor buudu, la sēn boola n tug wēnga a tara a zūnuub wala ned ning sēn na n tum-a wā zūnuuba.
4. Sōmba ne luslaam t'a gūus a menga, ti b ra wa tug n tik yēnda ne a sēn wat n maan Wēnd kusg n vēnegdē, ti nebā yāt-a, a na n paama ned ning sēn togsa yēnda n maanā zānuubā, baa ti yēnda ka pirs a soabā t'a tum rēnda.

Ned ning sēn wa n wilg sōma zīgā, a tara yel-sōmb wala sōmā wā maand bilgri

(48) – عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَبْدَعُ بِي فَأَحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(48) – Yii a Abu Mas'ud Al-ansaary nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Raoa n wa Nabiyaamā nengē (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) n yeele: ad mam rūngā halkame, bī f bao rūng tī m zombe, tī Nabiyaamā yeele: " m ka tar ye" la rao yeele: Wënd Tēn-tvuma, m na n wilg-a-la ned ning sēn na n kō-a rūng t'a zombe, tī Wënd Tēn-tvumā (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) yeele: "Ned ning sēn wa n wilg sōma zīgā, a tara yel-sōmb wala sōmā wā maand bilgri". [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Raoa n wa Nabiyaamā nengē (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) n yeele: ad mam bōn-zomdgā kiime, bī f kō-m bōn-zomdg sēn na n taas-ma, tī Nabiyaamā kos-a yaafa: tī ad a ka tar būmb sēn na n kō-a t'a zomd ye, tī rao yeele, yē soabā rag n bee beenē: Wënd Tēn-tvuma, m na n wilg-a-la ned ning sēn na n rīk-a, tī Wënd Tēn-tvumā (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) kō kibare tī ad nedā, a

naaga ned ning sēn na n maan doaagã keoor pugē, bala yēnd n wilg ned ning sēn tara tulsemã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã kengdame ti b wilg sōma zīiga.
2. Pirs taab ne sōmã maanegã, a yaa sabab-rāmb sēn sōnged lslaambã zamã wã, la a lebg n pidsd-ba.
3. Wilgda Wēnd yudlem sēn yalme, A Naam zēkame.
4. Hadiisã yaa zeng-raoog sēn gūbgi, rēnd tuum sōmbsã fãa kēeda a pugē.
5. Ninsaal sã n ka tōog n kō bōaasa a sēn rat būmb ningã, a tōe n tees-a-la nin-zēnga.

(5354)

Ned ning sēn wa n tɔg n wōns a meng ne neba, yē me lebga bāmba

(49) – عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم: «مَنْ كَذَبَهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

[حسن] - [رواه أبو داود وأحمد]

(49) – Yii a Umar biig nengē, -Wēnd yard be b yiibã yīnga,-a yeelame: Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd puusg la A tɔlgr be a yīnga) yeelame: "Ned ning sēn wa n tɔg n wōns a meng ne neba, yē me lebga bāmba".[Hasanv n (be neere)] - [A Abvv Daawvvd la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) kōta kibare ti ned ning sēn wa n tug n wōns a meng ne ned kɪfr-rāmbē wā, maa dīin yitbē wā, maa nin-sōmbsē wā, la rēnda yaa sēn na n maan neb bāmbā sēn maanda a soabā, sēn yaa loεεga la tūudum la yel-minimidsi, rēnd yē me lebga wala bāmbā, bala wōns f mengā ne bāmbā yungā, a tallada foom n kēng ti f tug n wōnes-b pugē, la sik ka be ti wōnes f meng ne nebā, a yēgrā yaa b tuumdā n ta f raabo, a tōeeme n tall-f n kēng b nonglem la b zɪsgre la kɪll n tug b nengē, la woto a tallada neda t'a wōnes a meng ne-ba, halɪ n tug n tāag pugbā fāa gilli la tūudumē wā, -la Wënd na maand-d gūudum-.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã bugsdame n yit wōnesg ne kɪfr-rāmbā la dīin-yitbā.
2. A kengdame ti f wōnes f meng ne nin-sōmā la f tik-ba.
3. Wilgdame ti wōnes f meng ne neb yungā a kēesd-f lame ti f yɪ b nonglem pugē.
4. Ninsaal paamda puleng wēng-kāngā la zunuubā sēn zems yē me wōnesgā tɛka la a kōbgā.

5. Gudgdame ti b ra wōnes kifr-rāmbā b dīinē wā la b yel-minimdsē wā sēn welg toor ne bāmbā, la sā n mikame ti yaa yel-minimdsi sēn ka welg toor ne bāmba wala nug-tuummd karengo la sēn wōnd rē, ad yēnda ka kēed gudgrā pugē ye.

(5353)

(50) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(50) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga), ti Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) a yeelame: «m wēna ne a Muhammad yōorā sēn be Naab ning Nugē wā, ned pa wumd mam kibare sēn be zamā-kāngā pugē, ti yaa Yahuuda ti yaa Nasaara, rē poorē t'a ki n ka kō sid ne b sēn tvms maam ne būmb ningā, rēndame t'a yi Bugum biiga». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) wēenda ne Wēnde, ti ka wumd yēnda kibare, sēn yi zāmā-kāngā puga, Yahuuda maa nasaara, maa zēng sēn

ka bāmba b yībā, ti Nabiyaamā, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) boollā ta a soabā, rē poorē t'a ki, n ka kō sid ne-a, rëndame t'a yi Bugum biiga, n duum beenē lae-lae.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. A wilgda Nabiyaamā, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) tēn-tumdā sēn gūbg n tug dūni wā gillā, la a tūubā sēn yaa tulae wā, la a sēn yēes sāri-rāmb nins sēn reng taorā.
2. Ned ning sēn kufla ne Nabiyaamā, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) baa t'a sā n yag zīri ti yē kōo sid ne nabiyaam-rāmb a taabā (Wënd puusg la A tulgr be b fāa gilli yīnga) ka nafd-a ye.
3. Ned ning sēn ka wum Nabiyaamā kibare, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), ti lūslaamngā booll ka ta-a, yē soabā tara padanga, la a yellā dūni yikr raarā bee ne Wēnde, (A Naam zēkame).
4. Ned tōe n nafa ne lūslaangā, baa t'a kūumā wa n pēnegame, baa ti yaa bā-kegeng zugu, sā n mikame t'a yōorā ka ta a koko-londē wā.
5. Wilgdame ti yeel ti kifr-rāmbā dīin yaa sīda-sēn be b pugē me yaa Yahuud-rāmbā la Nasaar-rāmbā- rē yaa kifēndo.
- 6- A puda Yahuud-rāmbā la Nasaar-rāmbā dīin hadiisā pugē; ti yaa sēn na n nek zēng sēn ka

bāmb b yiibā, bala Yahuud-rāmbā la Nasaar-rāmbā rag n tara gafo, rēnd sā n mikame tu bāmb yellā yaa woto, rēnd neb nins sēn ka tara-b gafā n yuda, rēnd b fāa gilli, yaa tulae tu b kē Wēnd dīinā pugē, la Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga) tūudum pugē.

(3272)

yāmb a neba, m kengda yāmba ne maan-n-zvug dīnā pugā, ad būmb ning sēn da halk sēn reng-b yāmb taoorā yaa maan-n-zvug dīnā pugē

(51) – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ: «الْقَطْلُ لِي حَصَى» فَلَقِظْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ، هُنَّ حَصَى الْحَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ: «أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا» ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوُّ فِي الدِّينِ». [صحيح] - [رواه ابن ماجه والنسائي وأحمد]

(51) – Yii a [bn Abbaas nengē, -Wēnd yard be b yiibā yīnga- a yeelame: Wēnd Tēn-tuomā (Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga) yeelame b sēn na n lob Akaba (Sutācnā lovr hegiidē wā) raar yibeoogo, t'a yaa sēn be a yugemdā zugu, a yeelame: **«nog kug-bāaneg n kō-ma" tu mam nog kug-bāaneg a yopoe n kō-a, b zemsa wala nug-biis gād n lobe, t'a tēgd-b a nugē wā la a yetē: "lob-y ne bāmbā taaba" rē poorē t'a yeele: " yāmb a neba, m kengda yāmba ne maan-n-zvug dīinā pugā, ad būmb ning sēn da halk sēn**

reng-b yāmb taorā yaa maan-n-zuvg dīinā pugē».
 [Şahuhvn (A manegame)] - [[bn Maage la a An-
 nasaa'iy la a Ahmad n togs-a]

Hadiisā welsgo:

A [bn Abbaas kōta kibare, -Wënd yarde be b yiibā yīnga- ti yē rag n bee ne Nabiyaamā (Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga) Akaba lovrā raar yibeoogo, la yaa Wënd-na-wat-ne Hagimmdē wā, Tı Nabiyaamā sagl yē t'a nog kug-bāanes nins sēn na n lob svutāanā n wa ne, ti yē nog kug a yopoe, a yembr fāa gill zemsa sūm-bila maa sēn yud rēnda bilfu, ti Nabiyaamā (Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga) rk-b n ning a nugē, n tēgd-ba, la a yeele: Bedrem sēn wōnd woto bı tall-y n lobe , Rē poorē ti Nabiyaamā (Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga) bugs nebā n yi maan-n-zuvg la kengre dīinā yell pugē, bala zama-rāmb nins sēn reng taorā, yaa maan-n-zuvg toadg dīinā pugē wā la kengrā, rē n halk-ba.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā gudgdame n yi maan-n-zuvg dīinā pugē la a vēnegd a baas wēngā sēn yaa a soaba, laa yaa sabab sēn halkde.

2. A wilgdame tu tōnd maan waazu ne zama-rāmb nins sēn reng-b tōnd taorā, sēn na yul n zāag tudgr ning bāmb sēn da lvi a pugē wā.
3. A kengdame tu b tik Sūnah.

(3395)

Kengdbā halkame

(52) – عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قالها ثلاثاً. [صحيح] - [رواه مسلم]

(52) – Yii a Abdvllah [bn Mas'ud nengē, a yeelame: Wēnd Tēn-tvumā - Wēnd pvsug la A tilgr be a yīnga-: a yeelame: "Kengdbā halkame " a yeel-a-la noor a tāabo. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā Wēnd pvsug la A tilgr be a yīnga-kōta kibare, sēn kengdb -tu ka tū ne bāngr la kāndagrā- bōnā la b kongrā b dīnē wā la b dūni wā, la b goamē wā la b tvumē wā, sēn maand-b n zvvgd sārī wā toadgā, Nabiyaamā - Wēnd pvsug la A tilgr be a yīnga- sēn wa ne wā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā gvdgda kengrā la maan-ti-loogā yelā fāa pugē, la a pirsdē tu b zāag-a būmbā fāa pugē; sēn tug n yuda tūud-rāmbā pugē la nin-sōmbsā zisgrē.

2. Bao n tum ti pid sōmā wā, tūudmā pugē la zēng sēn ka rē, yaa būmb b sēn pēgde; la yta ne sāri wā pugbo.
3. A wilgda b sēn bu nonglem ti yel sēn pake, bī b yeel-a n yulme, bala Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) a yulma gom-kāngā noor a tāabo.
4. A wilgda lūslaangā bas-ti-loogā la a yol-yolā.

(3420)

Yahuud-rāmbā yaa b sēn gē-b rāmba, la Nasaar-rāmbā yaa menemdba

(53) – عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَالنَّصَارَى ضَالَّةٌ». [صحيح] - [رواه الترمذي]

(53) – Yii a ‘Adiy [bn Haatim nengē, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: ti yii Nabiyaamā nengē (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) t'a yeelame:- «**Yahuud-rāmbā yaa b sēn gē-b rāmba, la Nasaar-rāmbā yaa menemdba**».

[A manegame] - [A At-turmiziy n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) kōo kibare ti Yahuud-rāmbā yaa neb Wēnd sēn gē b zugu, bala bāmb bānga sīdā la b ka tum ne-a ye. La Nasaar-rāmbā, bāmb yaa neb sēn meneme, bala bāmb tumame ti ka tū ne bāngr ye.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Lagem bāngrā ne tuvmã, a yaa tulgr n yi Wënd sën gē-b rāmbā sore la sën menemdbā.
2. Hadiisã yaa bugsg n yi Yahuud-rāmbā la Nasaar-rāmbā sorā, la b tablg so-turgā sën yaa lıslaangā.
3. Fāa gill sën yi Yahuud-rāmbē wā la Nasaar-rāmbē wā, yaa menemdbā, n yaa b sën gē-b rāmba, la Yahuud-rāmbā sıf sën tug n welg n yuda yaa Wënd gēegā, la Nasaar-rāmbā sıf sën tug n welg n yuda yaa menengā.

(65061)

Wënd gylsa bōn-naandsã pulenga, taoor t'A na n ka naan saasã la tēngā, yvum tus pis-nu

(54) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى

الْمَاءِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(54) – Yii a Abdullaah [bn Amr [bn Al-Ass nengē, Wënd yard be b yiibã yīnga, a yeelame: m wuma Wënd Tēn-tvuma, Wënd pvvsg la A tulgr be a yīnga t'a yetē : «Wënd gylsa bōn-naandsã pulenga, taoor t'A na n ka naan saasã la tēngā, yvum tus pis-nu, a yeelame : « la Wënd Gueela ra bee koomã yīngri ». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga, kōta kibare, ti Wënd gulsa bũmb ning sēn na n yɪ, sēn yaa yembsã pulense, n wels-b fãa gilli, sēn yaa vum, la kũum, la rutla, la zēng sēn ka yɪ rēnda, Lawhulmahfuuzã (Walg ning b sēn gũ wã) pugē, taor t'A na n ka naan saasã la tēngã, ne yuum tus pis-nu, ti yēnda me yaa bũmb sēn na n wa yɪ n zems ne wala Wënd sēn da bu-a wã, A Naam yɪ wagell n zēke, Rēnd bũmb fãa sēn yute, yaa sēn tũ ne Wënd Buudo la A pulenga, Rēnd bũmb ning sēn paam yamba, a ka yɪ n rag na n yōsg-a ye, la bũmb ning me sēn yōsg-a wã, ka yɪ n da na n paam-a ye.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Bee hadiisã pugē, ti yaa tulae ti b kō sida ne Wënd Buudã la A Pulengã.
2. Wënd kordgã (Pulenga) yēndã la Wënd sēn mi yelã, la A guls-bã, la A tullgã, la A naan-ba.
3. Yaa f bãng ti kō sida ti pulengã, yaa bũmb b sēn gulse, taor ti b na n ka naan saasã la tēngã, a paasda Adam Biig yarda la sak-n-tũ.

4. Yaa f bāng tu Arrahmaan Naab Al-arsā
(Goelã), a ra bee koom yīngri, taoor t'A na n
ka naan saasã la tēngã ye.

(65038)

(55) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلاقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيُؤَدِّنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(55) – Yii a Abdullaah [bn Mas'ud nengē, -Wēnd yarde be a yīnga-: Wēnd Tēn-tuuma, -Wēnd Tēn-tuuma, Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga-, yēsa tōndo, yēnda me la sid soaba b sēn kōt a soab goam sidã, a yeelame: «ad yāmb yembr fāa, b tigimda a naanegã, a ma wā pugē rasem pis-naas la yund pis-naase, t'a yaa zi-pelle, rē poorē a yuta nem gilgu woto buudo, rē poorē t'a yu nem gilgu woto

buud yesa, rē poorē ti b tums malək a nengē, n sagl malekā ne goam a naase: t'a guls a ritlā, la a vumā tēka, la a tvumā, la a yaa zu-beed ned maa zu-no neda, rē poorē ti b fvvs yōorā a pugē, la yāmb yembr fāa tōe n wa maan arzān koamb tvuma, halu ti yē ne arzānā svka, būmb ka be beenē rēnda kāntug bala, la pvleng rag n renga taoore, ti yēnda na n yu Bugum biiga, t'a maan Bugmā koam tvumā n tvg n kē Bugma, la yāmb yembr fāa tōe n wa maana Bugum koamb tvuma, halu ti yē ne Bugmā svka, būmb ka be beenē rēnda kāntug bala, la pvleng rag n renga taoore, ti yēnda na n yu arzān biiga, t'a maan arzānā koam tvumā n tvg n kē arzānā». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

A [bn Mas'ūd yeelame, Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga), yēsa tōndo, yē me la sid soaba a gomd pugē, la b sēn kōt-a sīda, bala Wēnd meng n sidg-a, A yeelame ti yāmb ned a yembr fāa, woto yaa ti raoa sā n rat n kē ne a zak soaba, a mani ning sēn sēeg n kē, b tigimd-a lame, pagā pugē, rasem pis-naase, t'a yaa mani, Rē poorē t'a lebg zi-pelle, yē me la zi-taoko, rē me yaa rasem pis-naas a yiib soaba,

Rē poorē t'a lebg nem gilgu, yē me la nomd ning sēn tigram taaba, t'a sek b na n maan sag-vōre, la yāwā yaa rasem pis-naas a tāab soaba, Rē poorē, ti Wēnd tums maleka t'a tug n fvus vumā n ning yōorā, rasem pis-naas a tāab soabā sēbē, La b sagenda malekā t'a guls gom-biis a naase : a rtlā, a sēn na n paam neemā yaa bōe, a vumā gilli, La a lagelā (yvumā): rē me la vumā woglem dūni pugē, La a tvumā sēn na n yu a soaba, a yaa zu-be-neda maa a yaa zu-noog soaba Rē poorē, Nabiyaamā, (Wēnd pvvsg la A tigr be a yīnga) wēename ti ad ned tōe n wa maan arzān koamb tvuma, ti tvumdā yaa sōma, rat n yeel ti nebā gesg pugē, t'a kell n tall woto, halı ti yē ne arzānā suka, būmb ka be beenē rēnda kāntuga, rat n yeel ti būmb ning sēn ket ti yē ta arzānā, a ka yud zārem sēn be kāntug pug suk ye, ti pulengā wil yēnda, wakat-kāngā t'a na n maan Bugmā koam tvumā, ti yēndā na n wa baas ne yel-kāngā, n tvug n kē Bugmē; bala tvumā reegr sart-rāmbā yaa a tablg a zugu la a ra tedg ye, la a wilg ti kōbg a taab n be beenē, n na n maan Bugum tvuma, halı ti b wa pēneg Bugmā suka, būmb ka be beenē rēnda kāntug bala, la puleng rag n renga taoore, ti yēnda na n yu arzān biiga, t'a maan arzānā koam tvumā n tvug n kē arzānā.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yelã baasg a tugda būmb ning buvdã sën rag n reng taoore, t'a kordgã gāneg ne būmb ningã.
2. Hadiisã bugsdame n yi belg-m-meng ne tuvmã kōbgo; bala tuvmã sën get būmb ningã yaa a baas neerã.

(65037)

Arzāna pēe ne yāmb ned fāa n yud a neodrã yulga, la Bugmã me yaa wala rē

(56) – عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه

وسلم: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ».

[صحيح] - [رواه البخاري]

(56) – Yii a [bn Mas'ud nengē -Wënd yard be a yīnga- a yeelame: Nabiyaamã yeelame (Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga): «**Arzāna pēe ne yāmb ned fāa n yud a neodrã yulga, la Bugmã me yaa wala rē**». [A manegame] [A Al-buħaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã(Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga) kōo kibare ti arzāna la Bugmã b yīibã pēe ne ninsaala wala neodrã yuvgã sën be na-tagdrã zugã, bala a tōe tuma tūudum sën yaa Wënd yarda -A naam yı wagelle n zēke- n kē arzāna ne tuvm-kānga sababo, maa Wēn-kusgo ti yı sabab n kēes-a Bugmã.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. A kengda ne tuum sōmbse baa ti sã n paoodame, la a bugsd n yi wēnga baa ti sã n paoodame
2. Yaa tilae ne Lislaam a vumã pugē t'a tigm tēeb ne rabeem, la a kos Wēnde -A naam zēkame-wakat fāa t'A tableg-a sıda zugu, sën na yl n paam n tilge, la ra belg a meng ne yē halhaalã ye.

(3581)

B gūbga Bugmã ne yōor yamleedo, la b gūbg arzānã ne yōor sën kisã

(57) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(57) – Yii a Abu Hurayrat nengē, Wēnd yard be a yīnga, ti Wēnd tēn-tvuma, (Wēnd pvvsg la A tilgr be a yīnga) yeelame: «**B gūbga Bugmã ne yōor yamleedo, la b gūbg arzānã ne yōor sën kisã**». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã vēnegdame n wilgd tōndo ti ad Bugmã yaa sën karg n gūbg ne yel nins sën noom yōorã, sën yaa haraam-dāmba maanego, maa maan-

ti-pa-ta yel nins sën yaa tilae n zao-a wã pvge; rēnd ned ning sën tūneg a yōorã yamleooog rē pvge a sōmba

ne Bugum, la arzāna b karg-a lame n gūbg ne yel nins yōorā sēn kisā; wala tablg ne Wēnd sēn saglā, la yel nins sēn gidgā basbo, la maan sugr ne rē; rēnd a sā n gāde , n wōr a yōorā, a sōmba ne arzāna kōom.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Sabab-rāmb sēn kēesd yōorā yamleedē wā, yaa suitāan sēn faasd yel-kiti wā la yel wēnsā, halu tu yōorā wa ne-a t'a be neere, n kull n tum-a.
2. Sagendame tu b zāag yōorā yamleed nins sēn gidgā; bala yaa yē la sorā n tug Bugmā, la b maan sugr ne yōorā sēn kis yel ninsā maanego; bala yaa yē la sorā n tug arzāna.
3. A wilgda yudlem ning sēn be nidg pāng n zab ne yōorā la nidg pāng tūudmā pugē wā, la maan sugr ne yel-toodā sēn gūbg tūud-rāmbā.

(3702)

wakat ning Wēn d sēn wa n naan arzānā la Bugmā, A tvm̄sa a Gibrīila, tlḡr be a yīnga

(58) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْحِجَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْحِجَّةِ، فَقَالَ: انظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهَا فَانظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ: اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَى النَّارِ وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَانظُرْ إِلَيْهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَرَجَعَ وَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا». [حسن] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي]

(58) – Yii a Abu Hurayra nengē, Wēnd yard be a yīnga, ti yii Wēnd Tēn-tvm̄ nengē, Wēnd pvvsg la A tlḡr be a yīnga : a yeelame : «wakat ning Wēn d sēn wa n naan arzānā la Bugmā, A tvm̄sa a Gibrīila, tlḡr be a yīnga, arzānē wā, n yeel-a : « ges-a la f ges būmb ning Mam sēn segl a pugē wā, n na n kō nebā ». T’a Gibrīil ges-a n lebg wa yeel : m wēn ne Fo zslemā, ned ka be, n na n wvm̄ yāwā kibare, rēndame t’a kē-a. Tı Wēnd sagl ti b gūbg arzānā ne yeł nins yōor sēn kisā. La A yeel-a « ges-a la būmb ning Mam sēn segl ti be a pugē wā, n na n kō

nebã» . T’a lebg n ti ges-a, n mik ti b gilg-a lame ne yel nins yōor sēn kisi. T’a Gibriil yeele: “ m wēen ne Fo zislemã, m yeēsdame ti ned baa a yembr kōn n kē-a ye” T’a yeele: kēng n ti ges Bugmã la f ges būmb ning Mam sēn segl a pugē, n na n bīng a nebã.

T’a tvg n ges-a, n mik ti Bugmã zombda taaba, t’a lebg n wa n yeel Wēnde: “ m wēen ne Fo zislemã ned baa a yembr kōn n kē yāwã ye”. Tı Wēnd sagl ti b gilg Bugmã ne yōor yamleooog teedo, ti Wēnd yeel-a: “lebg n ti ges-a”. T’a Gibriil tvg n ges-a, n mik t’a yaa sēn gūbg ne yōyã yamleoodo, t’a lebg n wa yeele: “ m wēen ne Fo zislemã, ad mam yeēsdame ti ned baa a yembr ka na n pōse, n ka kē Bugmã ye». [Hasanuvn (A be neere)] - [A Abuv Daawuvd la a At-turmiziy la a An-nasaa'iy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã kōo kibare, Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga: ti Wēnde, A sēn wa n naan arzãnã la Bugmã, A yeela a Gibriila, tulgr be a yīnga : « **kēng arzãnē wã, n tvg n ges-a** ». T’a Gibriil kēnge n tvg n ges arzãnã, rē poorē t’a legb n wa, T’a Gibriil yeele : “m Soab a Wēnde! M wēen ne Fo zislemã, ad ned ka wumd arzãnã kibare la būmb ning sēn be a pugē, sēn yaa neema-rãmbã, la waoogrã, la yel-sōmã, rēndame

t'a nong n rat n na n kē-a, la a tum sēn na kēes-a beenē". La rē poorē, Wēnd gūbga arzānā ne yōor sēn kis yel ninsā, la yel toodā, sēn yaa Wēnd sēn sagl tu b maan tum ninsā, la b zāag yel ninsā, rēnd ned ning sēn tulla arzānā kōom, bī a modg n gāndag yel-kāensā, yōorā sēn ka nongā. Rē poorē, tī Wēnd yeele, A Naam yī wagell n zēke: Gibriila! Kēng n tī ges arzānā, la rē yaa A sēn gūbg-a ne yōor sēn kisā poorē, T'a Gibriil kēng n tī ges-a, rē loogr poorē t'a lebg n yeele: " M Soab A Wēnde ! M wēen ne Fo zislemā, ad mam yeesdame tī ned baa a yembr ka na n kē arzānā, yel-kegmes nins sēn be arzānā kōom sorā zug yinga. La wakat ning Wēnd sēn wa n naan Bugmā, A yeelame: "Gibriila! Kēng n tvg n ges-a" t'a Gibriil kēng n tī ges Bugmā, Rē poorē, a Gibriil lebgame n wa yeele : « m Soab a Wēnde! M wēen ne Fo zislemā, ned ka be n na n wum Bugmā la būmb ning sēn be a pugē, sēn yaa nangā, la keelemā la sibgrā, rēndame t'a kisg Bugmā kōom, la a zoe n zāag sabab-rāmb nins sēn na n kēes-a beenē wā. Rē loogr poorē, Wēnde, A Naam yī wagell n zēke, A gūbga Bugmā la A maan sor ninga sēn na n tū n kēng Bugmē wā tī yaa yōor yamleogo, la wum-noodo, rē poorē t'A yeel a Gibriila : kēng n tvg n ges-a, t'a Gibriil kēng n tī ges-a, rē poorē t'a lebg n wa yeele: " m Soab A Wēnde !

M wēen ne Fo zislemã, ad mam yeesdame la paka maam ti ned baa a yembr ka na n pōse, n ka kē Bugmã ye, ne būmb ning sēn gūbg Bugmã sēn yaa yōor yamleoodã, la wvm-noodã”.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Bee hadiisã pugē, kō suda ti arzãnã la Bugmã, b tol n bee masa-masa.
2. Bee hadiisã puga, ti yaa tlae ti b kō sid ne yel-soondi la būmb ning fãa sēn wa n yi Wēnd nengē la A Tēn-tuumã nengē, Wēnd puusg la A tigr be a yīnga.
3. Bee hadiisã pugē, sugr maaneg ne yel-toodã, bala yaa bāmb la sore, sēn na n taas arzãnã.
4. Bee hadiisã pugē, sēn wiligd ti f sōmb n zāaga yel-gudgsã, bala yaa bāmb la sor ning sēn na n tall foom n kēng Bugmē wã.
5. Wēnd maana arzãnã t’a yaa sēn gūbg ne yel-toodo, la Bugmã t’a gūbg ne yōor yamleooogo, woto yaa būmb sēn yaa zarb-n-gesg na-kēndre, dūni vumã pugē.

6. Hadiisā wilgdame ti arzānā sor yaa toogo, n yaa kegenga, a tara tulsem ti b maan sugri, la f nidg pānga, n lagem ne sud-kūuni, la f bāng ti Bugmā sore, yaa būmb sēn pid ne wum-noodo, la yamleodo, dūni wā pugē.

(65034)

Yāmb dūni rāmb Bugmqa bek sēn pvi zīs pīs-yopoe ne Gehannem Bugmā

(59) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَارِكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَتْ لِكَافِيَةٍ. قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كَلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا».

[صحيح] - [متفق عليه]

(59) – Yii a Abu Hurayra nengē, (Wēnd yard be a yīnga), ti Wēnd Tēn-tvumā, (Wēnd pvvsg la A tūlgr be a yīnga), yeelame: «**Yāmb dūni Bugmā yaa Gehannam Bugmā sēn pvi zīs pīs-yopoe bek a yembre**», la b yeel yā: yaa Wēnd Tēn-tvuma, ad yē meng sekame, la a yeel yā : «**ad laahr Bugmā b yusa-la dūni bugmā noor pis-yoob la a wae, a yembr fāa yaa wala dūni bugmā tvvlem**». [A manegame] [A Al-Bvḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wēnd pvvsg la A tūlgr be a yīnga), kōta kibare ti dūni bugmā a yaa pēdga sēn yi Gehannam Bugmā pos-yopoe a yembre, Rēnd

yaoolem raarã Bugmã, a tvvlmã pãng yuda dũni bugmã noore pis-yoob la a wae, la bek fãa a tvvlmã zemsa wala dũni bugmã tvvlem. Tı b yeele : «**Wënd Tën-tvumã, ad dũni bugmã seka ne tall n nams ned ning sën be a pvge**», T’a yeele: «**ad Gëhannam Bugmã b yus-a-la dũni bugmã noor pis-yoob la a wae, a yembr fãa yaa wala dũni bugmã tvvlem**».

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Hadiisã bugsdame tu gũus Bugmã, buv yĩng tu b na zãag tvum ning sën na n taas bãmb beenë wã.
2. A wilgda Gëhannem zislemã la a namsgã la a toolmã keelem.

(65036)

Wënd koonda tēngā n wēbg-a la A kool saagā ne A ritgo, rē poorē t’A yeele: Maam la Naabā, tēngā nanamsā bēe?

(60) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيُّنَ مَلُوكِ الْأَرْضِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(60) – Yii Abv Hurrayrat nengë (Wënd yard be a yĩng) a yeelame: mam wvma Wënd Tën-tvuma (Wënd pvvsg la A tilgr be a yĩnga) t’a yetë: «**Wënd koonda tēngā n wēbg-a la A kool saagā ne A ritgo, rē poorē t’A yeele: Maam la Naabā, tēngā nanamsā bēe?**». [A manegame] [A Al-Bvḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) kôta kibare, ti Wënde, (A Naam zêkame), dũni yikr raarã, A na n gãda têngã n tigm-a la A kool saasã ne A rtgã, n pōda taab zugu, n loog ne-a n sees-a, rē poorē t'A yeele: Maam la Naabã, têngã na-nambs bæ?!

Sën be Hadiisã yōod-rãmbê:

1. Yaa tēegr ti Wënd Naamã, yē n paade, la zēng sën ka Yēnda, a naamã loogdame.

2-Hadiisã wilgda Wënd woorã la A zıslẽmã la A tōogã la A naamã pidbã.

(65028)

ad nebã sën yud namsgo Wënd nengê dũni yikr raare, yaa neb nins sën maand n wõnesd Wënd naanegã

(61) – عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلُ، فَلَمَّا رَأَهُ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَقَطَعْتَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(61) – Yii a ‘Aaša sën yaa muumin-rãmbã ma wã nengê, (Wënd yard be a yĩnga), a yeelame: Wënd Tẽntumã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) kēe mam nengê ti mam luda m koglẽ bila ne peend sën gvl bõnnaandse, la Nabiyaamã sën wa n yã-a wã a lak-a lame t'a

nengã toeme la a yeele: «‘Aaiša, ad nebã sën yud namsgo Wënd nengē dūni yikr raare, yaa neb nins sën maand n wōnesd Wënd naanegã», d ma a ‘Aaiša yeelame: «ti tōnd pārs-a n maan-a zu-kvka bɪ yaa zu-kvgs a yiibu». [A manegame] [A Al-Bvḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) a kēe a zakē wã, a ‘Aaiša nengē (Wënd yard be a yīnga) n mik t'a luda koglg bila a sën ningd a teedã a pugē, a lud-a-la ne peende sën gvl bōn-naands sën tar yōyã, ti Nabiyaamã nengã toeme ti yaa a sën gē Wënd dīnã poorē, n lak-a la a yeele: Nebã sën yud namsg dūni yikr raarã, yaa neb nins sën rikd b gulbã n wōnes ne Wënd naanegã. T'a ‘Aaiša yeele: ti tōnd pārs-a n maan zu-kvka bɪ zu-kvgs a yiibu.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa yel-kiti wã gɪdgre a yāabã wakato la b ra maan maas-maas a pugē, sã n mikame ti sãang bedrem sën yud woto ka na n zīndi.
2. Subgrã dūni yikr raarã a pōsa taaba n zems ne zūnuubã bedrem.

3. Yōya rāmb gulbā (desē wā) a bee zūnuub bedā puga.
4. Sēn be vōor ning b sēn gidg foto-rāmbā maanegā, yaa Wēnd naanegā wōnesgā yīngā, (A Naam zēkame), zem ti foto yōkdā Anniy wā yaa rēnda maa ka rēnda.
5. Yaa sāri wā sēn tar non-kegenga ne arzegsā gūubu, ne a sēn baood nafa ne-a, a sēn zāag-a ne būmb ning sēn yaa haraamā poorē.
- 6-Yaa b sēn gidg nin-naands (foto), sēn yaa yōy rāmba a sēn wa n yaa to-to ninga, baa ti sā n mikame ti b sāama a naandā.

(5931)

M wēen ne Naab ning mam yōorā sēn be A Nugē wā, keta bilf t'a Maryam biig sig yāmb pugē, t'a Bvdā yaa tēeg t'rga, n kao pilkā, la a kv kurkuyā, la a bas yōor yaacob reegre, ti arzckā wvsge, hali ti ned baa a yembr ka reegi-a ve

(62) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشَكَنَّ أَنْ يُنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِزْيِرَ، وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». [صحيح] - [متفق عليه]

(62) – Yii Abu Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tvuma (Wēnd pvvsg la A tūlgr be a yīnga) a yeelame: «**M wēen ne Naab ning mam yōorā sēn be A Nugē wā, keta bilf t'a Maryam biig sig yāmb pugē, t'a Bvdā yaa tēeg**

turga, n kao pikā, la a kv kurkuyā, la a bas yōor yaoob reegre, ti arzekā wuſge, halu ti ned baa a yembr ka reegd-a ye». [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) wëndame t'a [usa a Maryam biiga, (tulgr be a yīnga) a sigbā pēnegame, n na n bv nebā ne taab svka, ne tēeg turga, ne a Muḥammad sāri wā, la a na n kaooga pik ningā Nasaar-rāmbā sēn waoogdā, la a [usa (tulgr be a yīnga) a na n kv kurkuy wā, la a [usa (tulgr be a yīnga) a na n luba yōor yaoodo, la a modg nebā fāa ti b kē lslaangā. Ti la ligdā na n pidame n puugi, ned baa a yembr ka leb n rat ye, la rē yaa a waooglemā sēn ta to-to, ti nebā fāa gill sek b mens ne būmb ning sēn be b nušē wā, ti albark-rāmbā sigdi, ti yei-sōme wā tūnugd taaba.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Bee hadiisā puga, a [usa (tulgr be a yīnga) sigbā tablg zāmaan yaoogā, la ad a yaa dūni yikr tagmas-rāmba.
2. Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) Sāri wā, sāri zēng ka yeēs-d-a ye.

3. Yaa albark-rāmbā sēn na n wa sigd zāmaan yaoogā, n lagem ne nebā sēn na n maan dūni-yīgsg ne-a.
4. Sū-noogr kūuni tu lɪslaangā dīinā na n paame, bala a lɪsa (tulgr be a yīnga) a na n bu ne-a zāmaan yaoog wakato.

(65025)

yeel tu soab sēn na n tū n tulg ka be rēnda Wēnde, tu m na maan kaset n fāag-fo gom-kāngā sabab yīnga, dūni yikr raarā

(63) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّةٍ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي فُرَيْشٌ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْجُرْعُ لَأَفْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ {

[القصص: ٥٦]. [صحيح] - [رواه مسلم]

(63) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga), yeela a saambibā: «**yeel tu soab sēn na n tū n tulg ka be rēnda Wēnde, tu m na maan kaset n fāag-fo gom-kāngā sabab yīnga, dūni yikr raarā**», ti saambiba yeele: sā n ka Kūrays-rāmbā sēn na n wa zang maam yīnga, n yetē ti yaa kūumā yeεsg la rabeem n kut tu m yeel gom-kāngā, m rag n na maag f sūuri ne gomdā yeelgo, wakat-kāngā tu Wēnd na n sik Nabiyaamā zugu {Ad fo ka kāndgd fo sēn noang-a soab ye, yaa Wēnd n kāndagd A sēn tvlle} [Al-kasas: 56]. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Bee hadiisã pugē, ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), kosa a saambibã, n mik t'a bee kuum bōrb pugã, t'a yeel ti soab sēn na n tū n tulg ka be rēnda Wēnde, butl yīnga ti Nabiyamã, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), na suga-a n kēesa arzānã dūni yikr raare, gom-kāngã sababo, la a maan kaset t'a yaa lislama, la a saambibã tōdgame, n ka na n yeel sahdã, n yeesdē ti b na n wa yōd n tv-a lame, n yeel-a ti kuumã yeesg yīng n kit t'a tuubi, ti Kvrays-rāmb na n wa yetē ti kuumã yeesg yīnga la a sēn yaa valengã n kit t'a tuuba, rēnd a yeela Nabiyaama ti sã n ka rē yīnga, m rag n na maan-f sū-noogo, ne m sēn na n yeel sahdã, la m pids foom f tēebã, wakat-kāngã la Wënd sik Aayar sēn teesde, n wilgd ti Nabiyamã, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), ad a ka tar tōog n tōe n peeg ned n kēes dīinã ye, ka woto ye, Wënd A Yembr tãa, Yēnda n maand A sēn tvlla soaba segl sōngo, la Nabiyamã, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), a peegda bōn-naandsã, la a tees-ba la a vēneg n wilg-ba, la a kāndg-ba, la a bool-ba n tvg sor ning sēn yaa turgã.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgdame ti ned ka sōmb n bas sūd yeelg nebã yeegs yīnga ye.
2. Hadiisã wilgdame ti Nabiyaamã, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), būmb ninga a sën tōe wã yaa teesgã, la ka (tawfuk) segl sōngã peeegr ye.
3. Wilgdame ti sakdame sãri wã pugē, ti f tug n kaag kifr sën yaa bāada, bul yīng ti f na bool-a n tug luslaoongã.
4. Wilgda Nabiyaamã, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga),sën tar yã-beedo ne a na bool n tug Wënd sorã pugē wã, A Naam zēkame, sën yaa halhaal ning fãa.

(65069)

Mam bākã Wënd sën waog maam ne-a wã laahr raarã, a woglemã yaa kiuug kēnd tēka, a koomã peeem yuda bīsīm, t'a yūugã noom yud misk parfē

(64) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرٍ، مَأْوَةٌ أَبْيَضٌ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْرَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا».

[صحيح] - [متفق عليه]

(64) – Yii a Abdullaah [bn Amr nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: Wënd Tēn-tuuma, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) yeelame: «Mam bākã Wënd sën

waoog maam ne-a wā laahr raarā, a woglemā yaa kiuug kēnd tēka, a koomā peelem yuda bīsim, t’a yūugā noom yud misk parfē, la a ko-teesā sōorā yaa wala saagā ādse, ned ning sēn wa n paam būmb n yū beenē, ko-yūud kōn n leb n yōk-a ye». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wēnd puvsḡ la A tulgr be a yīnga), kōta kibare, tū yē tara bāka dūni tikr raarā, t’a woglemā yaa kiuug kēnd zīgē, a yalmā me yaa woto, La a leb n wilg t’a peelmā yuda bīsim, La a yūugā yaa noog n yud misk parfē, La a ko-teesā yaa wala saagā āds sōore, b waooglem keelem, Ned ning sēn yū a ne ko-te-kāensā, a ka na n leb tall ko-yūud lae ye.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Bee hadiisā pugē, sēn wilgd tū Nabiyaamā, (Wēnd puvsḡ la A tulgr be a yīnga), bākā yaa koom tikr zīgā, tū sid-kōtbā sēn yi a poorē nebā b kēnd beenē.
2. Neema n na n paam ned ning sēn yū ne ko-te-kāensā, ko-yūud ka na n leb n tall-a lae.

(65030)

B na n waa ne kūum t'a wōnd pesg sēn tēgse

(65) – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبِشٍ أَمْلَحَ، فَيَنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ، ثُمَّ يَنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ، فَيَذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحُسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ} [مريم: 39]، وَهُوَ لَأَيُّ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا {وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [مريم: 39]». [صحيح] - [متفق عليه]

(65) – Yii a Abu Saud Alhudry, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame, Wēnd Tēn-tuuma, (Wēnd puusg la A tigr be a yīnga), yeelame: «**B na n waa ne kūum t'a wōnd pesg sēn tēgse, ti boaand boole : «yaa yāmb a arzān koamba!»** Tı bāmb sindg n getē, t'a yeele, rē yīnga yāmb mii yāwā bu? Tı b yeele, n-yele, yāwā la kūum, ti b fāa gill yā-a. Rē poorē t'a leb g n boole: «**yaa yāmb a Bugum koamba!»** Tı bāmb me sundge n zēk n yetē, t'a yeele, la yāmb mii yāwā bu? Tı b yeele, n-yele, yāwā la kūum, b fāa gillā me yā-a lame, ti b koadg-a, rē poorē ti b yeele: arzān koambā, yāmb na n duumame ti kūum ka leb n be ye, yāmb a Bugum koamb me y na n duumame ti kūum ka be ye, rē poorē ti Nabiyaamā

kareme {La bugs-b ne nīmsā raarā, yellā sēn wat n bu wā; ti bāmb yaool n be yam yaal-yaal pugē n ka kōt sid ye.} [Maryam: 39], bāmbā la dūni yam yaal-yaal neba {n ka kōt sid ye} [Maryam: 39]». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga), togsdame n vēnegd n wilgdē, ti kūuma, b na n waa ne-a, dūni yikr raare, t'a wōnd pe-raoogo, peelem la sablem sēn be a kōbgē wā, Tı b boole: «**arzān koambā**» ti bāmb tēeg b yubli wā, n getē, Tı b yeel-ba: «**yāmb mii yāwā bu?**» Tı b yeele : «**n-yeē, yāwā la kūum** » b fāa gill me yā-a lame, b bāng-a lame, Rē poorē ti boaandā leb n boole: «**yaa yāmb Bugum koambā**» ti b zēk b yubli wā n yetē, T'a yeele : «**yāmb mii yāwā bu?**» Tı b yeel ti n-yeel, yāwā la kūum, b fāa gill me yā-a lame; Tı b koadg-a, rē poorē ti boaandā yeele: «**arzān koambā, paa-y arzānē wā, ti kūum ka be lae ye, yāmb me Bugum koambā, y na n paame, ti kūum ka be lae**». La woto yaa sēn na n yul ti muunim-rāmbā neemā wā paase la a yı yō-tēgre ne kifr-rāmbā namsgo. Rē poorē ti Nabiyaamā, (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga), kareme: {La bugs-b ne nīmsā raarā, yellā sēn wat n bu wā; ti bāmb yaool n be yam yaal-yaal pugē n ka kōt sid ye} Rēnd dūni yikr raare, b na n welga arzān koamba la Bugum koamba, ti ned fāa kē a zīgē, n duumd beenē, n ka na n yi ye, Rēnd wēng maanda, a

sāamda a sūuri, n maan mimsa, yē sēn ka manegā yīnga, la sēn maana koeegr me, yē me maanda mimsa a sēn ka maan sōmā wā ti yud woto wā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wilgda Adam Biig baasg laahr raarā, ti yaa duumgu, arzānā pugē, maa Bugmā pugē.
2. Hadiisā yaa bugs kekenga n yi dūni wā yikr yel bedrā, la a wilgd ti ad yaa mimis la sū-sāang raare.
3. Hadiisā wilgda arzān koambā sū-noog duumgu, la Bugmā koam sū-sāangā duumgu.

(65035)

Yāmb sā n dag n bobend-y mensā boblg tekē, A rag na rulg yāmb wala A sēn rulgd liuuli wā, b yikda tōd beoogo ti b pvsā yaa tabla n ta zaabr ti b pvsā pidi

(66) – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا». [صحيح] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

(66) – Yii a Umar [bn Al-hattaab nengē, (Wēnd yard be a yīnga), t'a wuma Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd pvsng la A tlggr be a yīnga) t'a yetē: "Yāmb sā n dag n bobend-y mensā boblg tekē, A rag na rulg yāmb wala A sēn rulgd liuuli wā, b yikda tōd beoogo ti b pvsā yaa tabla n ta zaabr ti b pvsā pidi". [Şahuhvn (A manegame)] - [A At-tirmiziy la a [bn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yïnga) pirsda tønd ti d tik Wënde, A Naam yı wagell n zêke, laafi wã baoob pugê, la nangã tusb pugê, sën yaa dũni wã la dïinã yela, ti bala ka gıdgde, ka namsde, leb n ka nafde, rënda ne Wënde, A Naam yulgame n zêke, A Leb n sagendame ti d tum sabab nins sën wat ne naf-rãmba la tUSD yel-namsdsã, n lagem ne tikr sıd-sıda ne Wënde, rënd tønd sën wat n maan woto, Wënd na n rılga tønd wala A sën rılgd liuuli sën yit yibeoogo ti yaa kom, n wa lebg zaabre ti b pvsã yaa sën pidi, la liuuli wã yیبã woto wã a yaa sabab buudu, rubã baoob pugê, a ka bobl zaala la kvung ye.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbê:

1. A wilgda bobl-m-meng yudlem ning sën be a pugê wã, a leb n naaga sabab-rãmb nins sën yaa zısg n yuda sën wat ne rıtlã.
2. A wilgdame ti bobl-m-meng ne Wëndã, a ka kUSD ti fo rik sabab-rãmbã ye, bala a kōo kibare ti bobl-m-meng sıd-sıda yibeoogã sãdb la zaabrã lebgre, n na n bao rıtlã, b ka kUSD-a ye.

3. A wilgda sari wā sēn ning a toaag ne sūurā tuvmā; bala bobl-m-meng ne Wëndā yaa sūurā tuuma.
4. Ned rik a meng n yaglg ne sabab-rāmbā, yaa dīinā sēn ka pid la rēnda, la bas sabab-rāmbā yē me yaa yamā sēn ka pidi.

(4721)

Zoambd n ningd sēn kēnda sallem, tu sēn kēnda n ningd zīd sallem, tu neb kudg ning neb wvsg sallem

(67) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلَّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». وَلِلْبُخَارِيِّ: «يُسَلَّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(67) – Yii a Abvᵛ Hvrayrat nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tēn-tuvmā (Wënd pvᵛsg la A tulgr be a yīnga) a yeelame:-: «**Zoambd n ningd sēn kēnda sallem, tu sēn kēnda n ningd zīd sallem, tu neb kudg ning neb wvsg sallem**». [A manegame] [A Al-Bvᵛḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd pvᵛsg la A tulgr be a yīnga) toglame n tvḡ pvᵛsgā zvḡdo, nebā ne taab svka "Asalaamu Alaykum wa rahmatvllaahᵛ wa barakaatvḥ". Rēnd sēn yaa bi-bilf n pvᵛsd kasema, tu zoambd pvᵛsd

kēnkēnda, ti kēnd puvsd zīida, ti neb nins sēn yaa bilfā
puvsd neb sēn yaa wusgo.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. B buv nonglem ti b maan sallem wala hadiisā
sēn wa to-to ningā, la kēndā sā n puvs zaooda,
la zēng sēn ka yī ne rēnda, sēn togsā sakdame,
la woto yōsga sēn sōmb n maanā la yōsga sēn
yaa sōma n yuda.
2. Puvs gā sēegr wala yalē ning sēn be hadiisā
pugē wā, a yaa sabab-rāmb sēn wat ne nong-
taab la minim-taab la zems-taaba.
3. B fāa sā n zemsa taaba wala sēn togs yel nins
hadiisā pugē wā, b sōma sēn yuda, yaa ned
ning sēn sunga ne sallemā.
4. Yaa sāri wā sēn pidi, sā n yaa ne nebā sēn tar
tulsem ne yel ninsā fāa gillā vēnegre.
5. Yaa sallemā zugd karengo la kō hake soab fāa
a hake.

(4243)

(68) – عن أبي ذر رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا رَوَى
عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ
بَيْنَكُمْ وَحُرْمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي
أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا
عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ
تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَعْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي
إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا صَرِيَّ فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ
أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْفَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا
زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا
عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ
وَأَخْرَجَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ
مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا
عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا
فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(68) – Yii a Abu Zarr nengē, (Wēnd yard be a yīnga): Yii Nabiyaamā (Wēnd pʊʊsg la A tɪlgr be a yīnga) a sēn reeg n yi Wēnd nengē, A Naam yɪ wagell n zēke, A yeelame: «Yaa Mam yembse, ad Mam gidga wēgd Mam zugu, n maan-a t'a yaa haraam

yāmb ne taab sūka, bī y ra wēg taab ye, yāmb fāa gill yaa menemdba,sā n ka Mam sēn kānd a soaba, bī y bao kāndagr ne Maam tī M na kāndag-ya, Mam yembsā fāa gilli, yāmb yaa kombse, sā n ka Mam sēn rulg a soaba, bī y bao rulg ne Maam tī M na rulg-ya, Mam yembsā, yāmb fāa yaa zaala, sā n ka Mam sēn yeelg a soaba, bī y bao yeelgr ne Maam tī M na yeelg-ya, Mam yembsā, yāmb tudgda yung la wīndga la Maam n yaafd zunuubā zānga, bī y kos yaafa ne Maam tī M yaaf-ya, Mam yembsā, yāmb ka na n tol n ta Mam namsgo, n na n nams Maam ye, y ka na n tol n ta mam nafa n na n naf-M ye, yāmb yembsā la tī yāmb rēenem rāmba, la y yaolem rāmba, la y ninsaalb la y zīn-rāmba, b sā n yī n zoet Wēnd tī yaa wala yāmb sūka sēn yuda Wēnd zoεεg sūuri, rēnda ka na n paas Mam Naamā baa fūi ye, yāmb yembsā la tī yāmb rēenem rāmba, la y yaolem rāmba, la y ninsaalb la y zīn-rāmba, b sā lagem taaba n na n kus Wēnd tī yaa wala yāmb sūka nin-wēng sūuri, rēnda ka na n boog Mam Naamā baa fūi ye, yāmb yembsā la tī yāmb rēenem rāmba, la y yaolem rāmba, la y ninsaalb la y zīn-rāmba, b sā n yīk n tī be zī-peell a yembre, n kos Maam tī mam kō ned fāa a sēn kosā, yē ka na n

boog būmb ning sēn be Mam nengē, sã n ka wala sūpūim sēn boogd būmb ningã tu b sã n kēes-a mogrē, Mam yembsã, ad yaa yāmb tvvmã bala, tu Mam tigm-a n wa rol-ya, rēnd ned ning sēn wa n mik tu yaa sōma, bu a pēg Wēnde, la sēn mika tu ka rē, bu a ra sābs ned baa a yembr sã n ka a menga». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) vēnegdame, tu Wēnde, A Naam yulgame n zēke, A yeelame tu Yēnda gıdga vēgb ne A Menga, la A maan tu vēgdã yaa sēn gıdge, bōn-naandsã ne taab svka, bu ned ra wēg a to ye, la bōn-naandsã gilli yaa sēn meneme n bas sūdã sore, sã n ka sēn tū ne Wēnd kãndagr la A segl sōngo, rēnd ned ning sēn kosa Wēnd ne kãndagrã, Wēnd maand-a-la segl sōngo la A kãnd-a, la a leb n wilg tu bōn-naandsã yaa talse n tvg Wēnd nengē, n tar tvlsem ne-A b yelã fãa pvge, la ned ning sēn kosa Wēnde, Wēnd lokda a soabã tvlsem la A sek-a, la ad nebã, b tudgda wīndg la yungo, la ad Wēnde, Yēnd n loet b bāngo la A gāndagd n basd-ba tu yambã sã n kos yaafa, La ad b ka tōe n nams Wēnde, maa b naf-A baa fvı ye, la ad b fãa gillã sã n zoeta Wēnde, wala ned ning sēn be bāmb svka n yud

Wënd zoεεgã buudu, b Wënd zoεεgã ka na n paas Wënd Naamã baa fvi, la b sã n tvug n yume n kus Wënde, ti yaa wala bãmb suka Wënd kus sën tvug n yuda, b wënga ka na n boog Wënd Naamã baa fvi ye; bala b yaa valemse, n tar tulsem ne Wënde, halhaal la zïig la zamaan ning fãa, la Wënd la sek-m-meng Soaba, A Naam yulgame, la bãmb sã n yik n yals zïig a yembre, b ninsaalb la b zïn-rãmba, la b rëenem rãmb la b yaoleem rãmba, n kot Wënde, t'A kō ned fãa a sën kosã, yē ka na n boog būmb ning sën be Wënd nengē wã baa fvi, sã n ka wala sũpĩim ti b sã n kēes-a mogrē n yiis-a, rënd mogrã ka boog baa fvi ne sũpĩimã sën yiis būmb ningã ye, la woto yaa sën wilgd Wënd sek-m-mengã, A Naam yulgame.

La ad Wënd, A Naam yulgame, A gũsda yembsã tvvmã, n tigim-ba, rē poorē t'A wa tvug n rol-ba b tvvma dũni yikr raarã, rënd ned ning sën wa n mika t'a tvvm rolb yaa sōma bĩ a pēg Wënde ne A sën maan-a segl sōng t'a tũ-A wã, la ned ning sën wa n paama zēnga, bĩ a ra sãbs sã n ka a meng bala, yōor ning sën peeg yēnda n kēng bōnē wã.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiis-kãngã bee hadiis-rãmb nins Nabiyaamã (Wënd pvusg la A tvlgr be a yīnga) sën togsde, ti

yaa sēn yi a Soabā nengē, b boond-a lame ti hadiis Kudsy (hadiis yulenga) maa hadiis [laahy (Wënd hadiisi) yē me la hadiis ninga, a gom-biisā la a maanā wā yii Wënd nengē, la mikame t'a ka tar Alkurāanā sēn tar yel ninsā ye, b sēn tūud Wënd ne a karengā, la yulgd a yīnga la a leb n geesdē la a komsd nebā ti b ka tōe n wa ne a buudu la zēng sēn ka rēndā, hadiis kudsy wā ka tar rē ye.

2. Būmb ning yembsā sēn paamde, sēn yaa bāngre, maa kāndagre, rēnda yaa Wënd kāndagre la A wilgri.
3. Būmb ning sēn paam yamba sēn yaa sōma, rēnda yaa Wënd yudlem, A Naam yi wagelle, la sēn paamd-a sēn yaa wēnga yii a mengē wā la a yemleooḡē wā.
4. Ned ning sēn wa n tug n maana neere, yaa ne Wënd segl sōngo, a rolbā me yaa kūun sēn yi Wënd nengē, rēnd pēgr be ne Wēnde, la ned ning sēn wa n tug n wēnga, bī a ra sābs ti sā n ka a meng bala

(4810)

(69) – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا حَرَامَهُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(69) – Yii a Gεεbr [bn ‘Abdullaah nengē, (Wēnd yard be b yiiḃā yīnga), ti Wēnd Tēn-tuvmā (Wēnd puvsḡ la A tulgr be a yīnga), yeelame: «**Zoe-y wēgdo, ti ad wēgd yaa ligš dūni yikr raarā, la y zoe beedo, ti ad beed n halk sēn reng-b yāmb taoore, a yu sabab n tall bāmb n na n widem b zu-rāmba la b maan haraam**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsḡo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsḡ la A tulgr be a yīnga) bugsdame n yit wēgdo, sēn be wēgdā pugē, yaa nebā wēgbo, la ned wēg a menga, la Wēnd hake wā wēgbo, (A Naam zēkame), la wēgd yaa fo sēn na n bas puur soaba n ka kō-a, la a wilgdē ti wēgdā, a yaa ligš b rāmbā yīnga, dūni wā yikr raare, ne yel-kegms la yel-bed sēn na n zīndi, la a ḡidga nug-keglem, yē me la beed sēn yaa kegenga n lagem ne yā-beedo, sēn be a pugē, yaa fo sēn yaoolg hake-rāmb nins sēn yaa ligd n zao fo zugā, la fo sēn na n leb n tall nong kegenga ne dūni wā yela, la

wēgdā kōb-kāngā wā n halk zama-rāmb nins sēn reng yāmb taorā, bala a talla bāmb ti b tvg n kv taaba, la b rk būmb ning Wēnd sēn gıdg sēn yaa haraamā, ti sakdē.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa ti arzekā kūuni, la ma-biiri, la nems yubsgu, b yaa nonglem la tōk-n-taar sabab-rāmba.
2. Beedā la nug-keglemā b takda ned n kēngd Wēnd kugē la yel-beedē, la zūnuub-rāmbē.
3. Yaa ti d tall yam sēn tū ne zamā-rāmb nins sēn reng taorā yelā sēn yı to-to ningā.

(5787)

Ad Wēnd tōe n yaoolga wēgdā, t'A sā n wa yōk-a a ka pōsgd-A ye
 (70) – عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: «وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّيكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ» [هود: ١٠٢]

[صحيح] - [متفق عليه]

(70) – Yii a Abu Muusa nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tuuma (Wēnd puusg la A tılgı be a yīnga) yeelame: «**Ad Wēnd tōe n yaoolga wēgdā, t'A sā n wa yōk-a a ka pōsgd-A ye**» a yeelame: rē poorē t'a karem: «{**La yaa woto la f Soabā yōkrā, t'A sā n yōk tēng ti b yaa wēgdba, ad fo Soabā yōkrā**»

zabda wusgo} [Huum: 102]» [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga)bugsdame ti ned wa tug n nadgd wēgd pugē ye, la Wēn-kusgo, la lagem-n-taare, la nebā wēgbo b hake-rāmbē wā, bala Wēnde (A Naam zēk yā), a kolleda wēgda, n wogl a yōorā la a arzekā, n ka yāgd ne a namsgā ye, t'a sā n ka tuubi A yōkd-a lame, n ka le bas-a ye, a wēgbā waoglem yīnga.

Rē poorē ti Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) kareme: {La yaa woto la f Soabā yōkrā, t'A sā n yōk tēng ti b yaa wēgdba, ad fo Soabā yōkrā zabda wusgo} [Huum: 102].

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Sōmba ne yam soaba, t'a yāg n tuubi, la a ra maan bas-m-yam ne Wënd yōkrā ye, ti sā n mikame t'a bee wēgd pugē.
2. Naab a Wënd, -A Naam yu wagell n zēke,- A sēn yaoond wēgdbā, n ka yāgd ne b yōkr la b subgre, ti yaa belg-n-yōk ne-ba, n leb n yaa fāoob ne nanga, b zugu, ti b sā n ka tuubi.

3. Wëgdã, a bee sabab-rãmb nins Wënd sën halkd zamã-rãmbã a yĩngã.
4. Wënd sã n halk tẽngã, tõe ti nin-sõma be a pugẽ, bãmb rãmba, b na n yik-b lame dũni yikr raarã, b sën ki bũmb ning zugã, sën yaa manegrã, la dũni yikr raarã b ka na n nams bãmba tu bala sũbrã ra gũb-b lame ye.

(5811)

kobs-yoppe, n trig n 13ag 3soob wingo, la sën saaga ne twm wĩnga la a Ka tem-a Wënd gũbd-a-la A nengẽ yel-sõmd sën pidi, la a sã n saag-a n maan-a, Wënd gũbdame n kã-a yel-wĩng-a yembre

(71) – عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعِيفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». [صحيح] - [متفق عليه]

(71) – Yii a [bn Abbaas nengẽ, Wënd yard be b yuibã yĩnga Tı yii Nabiyaama (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) a sën reeng n yi a Soaba nengẽ- A naam yi wagell n zẽke- t'A yeelame: «Wënd pulma twm sõmbsã la twm wẽnsã, rẽ poorẽ t'A vẽneg rẽ, rënd ned ning sën saaga yel-sõmde la a Ka maane, Wënd gũbd-a-la A nengẽ n kã-a yel-sõmd sën pidi, la a sã n saag-a la a maan-a Wënd gũbd-a-la A nengẽ n

kō-a yel-sōmd piiga n tvg n tāag fāoob kobs-yopoe, n tvg n tāag fāoob wvsgo, la sēn saaga ne tvvm wēnga la a Ka tvm-a Wēnd gulsd-a-la A nengē yel-sōmd sēn pidi, la a sã n saag-a n maan-a, Wēnd gulsdame n kō-a yel-wēng a yembre». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Tēn-tvuma (Wēnd pvvsg la A tulgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē ti Wēnd pulma yel-sōma la yel-wēnsã, rē poorē t'A vēneg n wilg tvvmã sēn zao b rãmb zutã (Baaligsã) b sēn gulsd-b yiibã to-to:

Rēnd ned ning sēn rata la a togle n loe n na n maan yel-sōmdã, b gulsd a yel-sōmd yeng n kō-a, baa t'a ka maan-a, la a sã n maan-a b fāood-a lame a piig buud bilgri n tvg n tāag fāoob kobs-yopoe, n tvg fāoob-rãmb wvsgo, la paasgã zemsda wala sēn be sūurē wã, sēn yaa pv-peelem la nafa longre, la sēn wōnd rēnda.

La ned ning sēn rata la a togle n loe n na n maan wēngã, n lebg n bas-a Wēnd yīnga b gulda yel-sōmda yembre n kō-a, la a sã n bas-a soagl yīnga la a ka maan a sabab-rãmba b ka gulsd baa fv, la a sã n bas-a, pãng kaalem yīnga b gusld a Anniyã, la a sã n maan-a b gulsd a yel-wēng a yembre n kō-a.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. A wilgda Wënd yudlemã sën yaa zısgã zamã-kãngã zugu, ne A sën fãood b yel-sõmã la A gulsda A nengë, la A yaool n ka fãood yel-wënsã ye.
2. Hadiisã wilgda Anniy sën ta zïig ninga, tuumã pugë, la a vüunã.
3. Hadiisã wilgda Wënd künunã la A bukrã ne nebã la A manegrã, tu ned ning sën wa n mamsa tuum-sõngo la a ka tum-a, Wënd gulsdame tu yaa tuum sõma.

(4322)

ned ning sën manega lslaoongã pugë, b ka yõkd-a ne bumb ninga a sën tum Zulmã sasa ye, la ned ning sën wënga lslaoongã pugë, b yõkd-a la ne a rëenem la a yaoolem tum fãa

(72) – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَوَأْخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخِذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(72) – Yii a ibn Masuud nengë, Wënd yard be a yïnga, a yeelame: Tı ned n yeele : Wënd Tën-tuuma, rë yïnga, Wënd na n yõka tõnd ne d sën tum Zulmã sasa wa bu? T'a yeele : « **ned ning sën manega lslaoongã pugë, b ka yõkd-a ne bumb ninga a sën tum Zulmã sasa ye, la ned ning sën wënga lslaoongã pugë, b yõkd-a la ne a rëenem la a yaoolem tum fãa** ». [A manegame] [A Al- Buhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, Wënd puusg la A tilgr be a yĩnga, vënegdame n wilidg lslaoongã pugẽ koom yudlem. La ti ned ning sën kē lslaoongã t’a lslaoongã manege, t’a yaa pu-peelem soaba, n yaa sid soaba, b ka na n geel-a ne bumb ninga a sën rag n tum Zulmã sasa, sën yaa Wënd kugã ye. La ned ning sën wënga lslaoongã pugẽ, wala a sën na n yi, n yaa munaafika, maa a tarama n bas dīnã, b na n geel-a lame ne a sën tum bumb ninga, kifēnda pugẽ, la a sën leb n tum lslaoongã pugẽ.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Bee hadiisã pugẽ, sahaabsã sën ning b toogo, - Wënd yard be b yĩnga-, la b sën leb n yeesdē ne bumb ninga b sën da tum Zulmã sasa.
2. Hadiisã yaa sën kengd ti nebã kell n tablg lslaoongã zugu.
3. Hadiisã wiligda lslaoongã koom yudlem ning sën be a pugẽ, a leb n wiligdame t’a yaafda tuum ning sën da reng taorã.
4. Ned sën tar n yi dīnã la munaafika, b na n geel-b la ne b sën da tum ti loog b Zulmã sasa la zunuub fãa b sën tum lslaoongã pugẽ.

(65002)

(73) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ، كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا، وَزَنُوا وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لِحَسَنٍ، لَوْ نُخْبِرُنَا أَنْ لِمَا عَمَلْنَا كَفَّارَةٌ، فَزَلَّ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: ٦٨]، وَنَزَلَتْ: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: ٥٣]. [صحيح] - [متفق عليه]

(73) – Yi a [bn Abbaas nengē, (Wēnd yard be b yiibā yīnga): Ad neb sēn yi lagem-n-taarā rāmbē, b rag n yume n kv la b wvsg kvvā, la b yo la b wvsg yobā, ti b wa a Muhammad nengē, (Wēnd pvvsg la A tulgr be a yīnga), n yeele: "ad fo sēn yet būmb ninga la f boond n tvgdē wā be neere, la fo sã n da kō tōnd kibare, ti tōnd sēn da maan tvvm ningā tara yaafa, d na kē dīnā, ti Aayarā na n sigi {Bāmb la neb nins sēn pa boond soab zēng n lagem Wēnde, la b pa kvvd yōor ning Wēnd sēn gidgā rēndame ti tūu ne hake, b leb n pa yood ye, la ned ning sēn tvvm woto, a na n paama svbgre} [Al-fvrkaanu: 68]. La leb n sigi: {Yeele: "Mam yembs nins sēn maan n zvvg b mens zugu! Ra wāag-y tēeb ne Wēnd yolsgā ye, ad Wēnd yaafda zūnuubā zānga, ad Yēnda la yaafg Naab n yaa Yoalsda"}. [Az-zumarv: 53]. [A manegame] [A Al-Bvḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Raop sën yi kufir-rãmbē wã, n wa Nabiyaamã nengē (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), la b ra beega wusgo sën yaa kuvb la yoobo, ti b wa yeel Nabiyaamã; ad fo sën boond n tugdē wã, sën yaa lslaangã la lslaangã sën sagend yel ninsã yaa bumb sën yaa sōma, la tōnd halhaal na n yu wãna ne d sën maan tuumd ninsã sën yaa lagem-n-taar la zūnuub bedã? Rē yīnga yaafg be a pugē bu?

Ti Aayae-rãmb a yībã na n sigi, rënd Wënd reega nebã tuubgu, sën lagem ne b zūnuubã sën da yaa wusgo, n da yaa bedrã, la sã n rag ka A sën maan woto wã, b rag na n kell n duuma b lagem-n-taarã la b kedgrã pugē la b rag n ka na n kē dīin-kãngã pugē ye.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Yaa lslaangã yudlem la a zislem sën ta zīg ninga la a sën wurd bumb ning sën renga taorã sën yaa zūnuub-rãmbã.
2. Yaa Wënd yolsgã la A bas-ti-loogã la A yaafgã ne A yembsã.
3. Yaa lagem-n-taarã la yōorã kuvb ti ka tū ne hake wã gudgre, la yoob gudgre, la pulen-wēnga ne ned ning sën maana zūnuub-kãensã.

4. Wilgdame ti tuubg ning sēn yaa sid-sida, sēn tōka ne Wēnd yembgo la tvum sōngo, a yaafd zūnuub bedr fāa gilli, halı n ti tāag kifēnd ne Wēnde, (A Naam zēkame).
5. Wilgdame ti wāag yam n yi Wēnd yolsgā, (A Naam yulgame), a yaa haraam.

(65071)

fo tuubame n lagem ne f tvvm nins fo sēn da tvm ti loog ti yaa sōmā wā

(74) – عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصَلَّةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسَلِمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ». [صحيح] - [متفق عليه]

(74) – Yii a Hakum [bn Hizaam nengē, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: Mam yeelame: Wēnd Tēn-tvuma, kō maam kibare, tvvm mam sēn da tvmdē, Zulem sasa wā, sēn yaa doaag maanego, la yembd bas burkīndi, la rogem tōkre, rē yīnga keoor buud n be a pugē bu ? Tı Nabiyaama, (Wēnd pvvsg la A tılgr be a yīnga), yeel-a: “ fo tuubame n lagem ne f tvvm nins fo sēn da tvm ti loog ti yaa sōmā wā». [A manegame] [A Al-Bvḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga), vēnegdame n wilgdē, tı kɪfre, a sã n tuubi, b kōt-a-la yel-sōmde ne a sēn da tvm tvum ninsi, Zulmã sasa taoor t'a na n ka kē lıslaangã, tı yaa wala sara la yembs bas burkĩndi la rogem tōkre.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

Hadiisã wilgdame tı kɪfr sēn maan tvum sōma dūni wã pugē, a ka tōe n paam-a keoor laahr raar ye, t'a sã n kell n ki a kɪfēndã zugu.

(65016)

Ad Wënd ka wēgd muunim baa yel-sōmd a yembr ye, A kōt-a-la dūni wã neemã sēn tū ne yel-sōmdã la A leb n rol-a rol sōngo laahr raare

(75) – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أُنْفِصَ إِلَى الآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.» [صحيح] - [رواه مسلم]

(75) – Yii a Anas nengē, (Wënd yard be a yĩnga), a yeelame: Wënd Tēn-tvum, (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) yeelame: «Ad Wënd ka wēgd muunim baa yel-sōmd a yembr ye, A kōt-a-la dūni wã neemã sēn tū ne yel-sōmdã la A leb n rol-a rol sōngo laahr raare, la sã n yaa kɪfre, b rılgd-a-la dūni wã yē sēn maan tvum

sõmbšã Wënd yĩngã, la a šã n wa tvg n ta laahr raare, a ka na n tall baa yel-sõmd tı b na n rol-a ye».

[A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã vēnegame, (Wënd puvsg la A tulgr be a yĩnga), Wënd kũunã sēn yaa bedre sıd-kõt-bã zugu la A sēn leb n tēeg turga ne kıfr-rãmbã. La šã n yaa muumini, A ka boogd a tıvm sōng a sēn tımã yel-sõmd baa fıvı ye, A pus n kõt-a-la dũni wã kaanē, sēn tũ ne tıvm sōngã, a tũudmã yĩnga, la A leb n lagem ne-a fãa n bĩng a yĩnga laahr raarã tı yaa keoore, wala A sēn tõe me n kell n bĩng rolbã fãa gill tı yı laahre. La šã n yaa kıfre, Wënd kõt-a-la a sēn tıvm tıvm sōms nins dũni kaanē, la a šã n wa tvg n ta yaolem raarã, a ka tar baa yel-sõmd b sēn na n rol ne-a ye, bala tıvm sōng ninga b sēn tõe n naf ne-a dũni la laahrã, a ka tõe n yı rēndame t’ a soabã yı sıd-kõta.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiisã wilgdame tı ned šã n maan kaalem kífēnd zugu, a tıvm sōng ka nafd-a laahr raare

(65015)

Yamb maana zunuub tvvmde, n yeele: " Soaba Wēnde yaaf m zunuubā

(76) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدُ ذُنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذُنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذُنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذُنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(76) – Yii a Abu Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) Yii Nabiyaamā nengē (Wēnd puusg la A tigr be a yīnga)a sēn togsd tī yaa sēn yi a Soabā nengē, A Naam yī wagell n zēke, n yeele: "Yamb maana zunuub tvvmde, n yeele: " Soaba Wēnde yaaf m zunuubā". Tī Wēnd yeele, A Naam yī wagell n zēke: Mam yambā beegame la a leb n bāngame t'a tara Soabā sēn yaafde la A leb n sībgd ne zunuuba" rē poorē tī yamba beege, n yeele: "m Soaba, yaaf-ma m zunnuubā, tī Wēnd yeele, A Naam yī wagell n zēke: "Mam yamba maana beegre, n bāng t'a tara Soaba, sēn yaafd zunuuba la A leb n sībgd ne zunuuba. Tī yambā leb n maan zunuuba, n yeele: "m Soaba, yaaf-ma m zunuubā".

Tī Wēnd yeele, A Naam yī wagell n zēke: "M yambā maana beegre, n bāng t'a tara Soaba, sēn yaafd

zunuuba, la A sɪbgd ne zunuuba, maan f sēn rate, tɪ ad Mam yaaf-f lame". [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pʊʊsg la A tɪlgr be a yīnga) kōta kibare, sēn yi a Soabā nengē, tɪ yamb sã n maan zunuub tʊʊma, rē poorē, n yeele: "Wēnde, yaaf-ma m zunuubā". Wēnd yetame: "M yamba maana zunuuba, n bāng t'a tara Soaba sēn yaafde". Tɪ Wēnd loe a bāngo la A gāndeg n bas a yīnga, maa A sɪbg-a, "ad Mam yaaf-a lame". Rē poorē tɪ yamba lebg n maan zunuubā tʊʊmde, n yeele: " Wēnde, yaaf-ma m zunuubā, tɪ Wēnd yeele:" Mam yambā maana zunuuba, n bāng t'a tara Soaba, n yaafd zunuuba, n loet a baongo, la A gāndagd n basd a yīnga, maa A sɪbg-a, ad Mam yaafa M yamba. Rē poorē tɪ yambā leb n maan zunuuba, n yeele:" m Soaba, yaaf-ma m zunuubā, tɪ Wēnd yeele: "M yambā maana zunuuba, n bāng t'a tara Soab sēn yaafd zunuuba, n loet a bāongo la A gāndagd n basd-a maa A sɪbgd-a, ad Mam yaafa M yambā, bɪ M yambā maan a sēn rate, sã n mikame t'a sēn maan zunnub fāa, a lebgdame n bas zunuubā la a kos yaafa la a maan mimisa la a loe a sūurē n wāag t'a ka na n leb zunuubā pugē ye, la a yōorā yamleog

wil-a lame, t'a lebg n lvi zunuubã pugẽ, sã n mikame tu yaa woto la a maanda, n maand zunuubã la a tuubdẽ, M na n yaafa a yĩnga, bala tuubgã a wurda bũmb ning sãn da reng taorã sãn yaa Wënd kusgo.

Sãn be Hadiisã yõod-rãmbẽ:

1. Yaa Wënd yolsgã ne A yembsã sãn yaa yalengã, la ninsaala baa a sãn tum zunuub tuum fãa, a sãn maan bũmb ningã fãa, a sã n tuub n tug Wënd nengẽ, n lebs a meng Wënd nengẽ, Wënd reegda a tuubgu.
2. Sid-kõt ne Wẽnde, A Naam zẽkame, a tẽeda a Soaba yaafgo la a yeesd A sibgrã, rẽ n kut t'a yãgdẽ, n tugd tuubgã, a ka kelled n sak n duum Wënd kuskã pugẽ ye.
3. Tuub sõng sart-rãmba: yaa bas zunuubã la f maan mimisa ne fo sãn da maanã, la f loe n wãag ti f ka na n kẽng zunuubẽ wã ye, la sã n mik tu tuubgã yaa yembsã wẽbg pugẽ la f rat n na n yi, sãn yaa arzegsẽ, maa burkĩndẽ maa b yõyẽ, rënd sart a naas n na n paase, yẽ me: yaa f pidg f meng n yi hake wã soabã, t'a bas tu se maa f kõi-a a hake wã.

4. A wilgda bāng Wēndā sēn ta zīig ninga, bāngr ning sēn kit tu yamba bāngd a dīinā yela, n tuubd n lebd Wēnd nengē, a sēn tudg fāa, a ka wāagda a tēebo, a ka kelled n paad zunuubā pugē.

(4817)

Ned ka be sēn na n tvm zūnuuba, rē poorē n yik n ylge, rē poorē n pvvse, rē poorē t'a kos Wēnd yaafa, rēndame ti. Wēnd yaaf-a

(77) – عن عَيْلِيٍّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يَصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا عَفَرَ اللَّهُ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} [آل عمران: ١٣٥]. [صحيح] - [رواه أبو

داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد]

(77) – Yii a ‘Ali nengē, a yeelame, mam rag n yaa ned ti mam sā n wvm Wēnd Tēn-tvumā nengē (Wēnd pvvsg la A tilgr be a yīnga) hadiisa, Wēnd nafda maam sēn yi hadiisā pugē, a sēn tvll būmb ninga, maa A naf maam ne-a, la ned sā n yēs maam sēn yi a sahaabsē wā, m kitedame t'a wēene, t'a sā n wēen ti Nabiyaamā n yeele, m kōt-a-la sida. La ad a Abuu Bakr togsa maam, la a Abuu Bakr yeel sida, a yeelame: m wvma Wēnd

Tën-tvumã (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga) t'a yetë:
**«Ned ka be sën na n tum zũnuuba, rë poorë n yik n
yulge, rë poorë n puvse, rë poorë t'a kos Wënd yaafa,
rëndame ti Wënd yaaf-a»,**

rë poorë t'a karem Aayar-kãngã {La neb nins ti b sã n tum wẽnga maa b wẽga b mense, b tẽegda Wënd yelle n kos b zũnuubã yaafa} [Aalv 'lmraane: 135]. [A manegame] - [A Abv Daawvd la a At-turmiziy la a An-nasaa'iy Al-kubraa wã pugẽ la a Ibn Maage la a Ahmad]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga) kõo kibare, ti yamb ka be sën na n maan zũnuuba, n maneg n yõk koom sõma, rë poorë n yik n puv rakaar a yiibu, t'a Anniy wã yaa sën na n tuub n yi zũnuub-kãngã, rë poorë t'a kos Wënd yaafa, rëndame ti Wënd yaaf-a. Rë poorë ti Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga), karem Wënd koeg sën yeele, (A Naam zẽkame): {La neb-nins ti b sã n tum wẽnga maa b wẽga b mense, b tẽegda Wënd yelle n kos b zũnuubã yaafa, la yaa ãnd n yaafd zũnuub zẽng sën pa Wẽnde? La b pa nadgd ne b sën tum-a la b mi t'a yaa yook ye} [Aalv 'lmraane: 135].

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiisã pirisda ne Puusgã, rē poorē zūnuub yaafa kosgo, ned sën wat n tudgi.
2. Hadiisã wilgda Wënd yaafgã sën yaa yalengã, (A Naam yi wagell n zēke), la A sën reegd tuubgã la zūnuubã yaafgo.

(65063)

Tōnd Soabã sigdame, -A Naam zēkame- yung fāa, n wa dūni saasē wā, yungã sën pu tãab n yāk yembrã sã n wa ta a baasgã zīgē

(78) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، يَقُولُ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتُغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟».

[صحيح] - [متفق عليه]

(78) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wënd yard be a yīnga), tu Wënd Tën-tvuma, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) yeelame: «Tōnd Soabã sigdame, -A Naam zēkame- yung fāa, n wa dūni saasē wā, yungã sën pu tãab n yāk yembrã sã n wa ta a baasgã zīgē, n yetē: «Ānd n na n kos Maam tu M reeg a yīnga? Ānd n na n kos Maam tu M kō-a? Ānd n na n kos Maam yaafa tu M reeg a yaafa?» [A manegame] [A Al-Bvḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) vēnegame n wilgdē, tı Wēnde, -A Naam yı wagell n zēke- A sigda yung fāa n wa dūni saasē wā, beoogā sēn wat n kolg vēegre, tı yaa A yembsā la A kōt sūnoogo la A kōt-b yamleog tı b kos-A, bala Yēnda reegda ned ning sēn kosa boolgo, la A pirsd-b tı b bōos-A b sēn rat būmb ninga, bala A kōta ned ning sēn bōos-A, la A kēesd-b nonglem tı b kos-A yaafa n yi b zūnuub-rāmba bala Yēnda yaafda A yembsā sēn yaa sūd-kōtbā zūnuub-rāmba.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgda yungā baasgā yudlem ning sēn be a beenē, la Puvsgo, la doaaga la zūnuub yaafg bōosg a pugē.
2. Sōmba ne ninsaal t'a sã n wum hadiis-kāngā bu a tall nonglem kegeng wusg ne a na zēeg kosgā reegr wakat-rāmbā.

(10412)

(79) – عن الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - وَأَهْوَى الثُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(79) – Yii a Annou'maan [bn Basur nengē (Wënd yard be a yīnga)a yeelame: m wuma Wënd Tën-tvuma (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) t'a yetē, -t'a Annu'maan yaa sēn rik a nus a yiibā n teesd a tvb a yiibā-:«Ad Halaalā yaa vēnega ti Haraamā me yaa vēnega, la b yiibā svka yel-gēts n be beenē, ti neba wvsg ka mi-b ye, la ned ning sēn gūusa yel-gēti wā a yulg a dīnā la a burkīndā, la sēn lvi a yel-gēti wā pugē ad a lvu haraamē, a bilgr yaa wala rūm-kumā sēn wāmbd yamd-zabdg kirenga a sā n ka gūusi a na n wāb-a lame, la ad naab fāa tara a yamd-zabdga, la ad Wënd wāmneg zīg ning sēn zabdā, yaa A sēn gudg yel ninsā, la ad yīnga pugē nem-vōre n be beenē, a sā n manege, yīngā fāa manegdame, la a sā n sāame, yīngā fāa sāamame, ad yē yaa sūurā». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yïnga) vënegdame n wilgdë zeng-raoog sën gûbg yelã pugë, ti la a puita kôbg a tãab sãri wã pugë: Halaal sën yaa vënega, la Haraam sën yaa vënega, la yel-gëds ti b buvdã pa vënega b halaal la b haraam wëengë ye, nebã wusg ka mi b buvdã ye.

Rënd ned ning sën basa yel-gëds-kãensa a dïina tilgame ne a sën zãag haraamã pugë lvusã, t'a burkïndã paam tilgre n yi nebã goamã, ne b sën na n zangd-a a sën tum yel-gëdg-kãngã wã. La ned ning sën ka zãaga yel-kãensã rënd a këesa a menga maa ti yaa haraamã pugë lvuse maa ti nebã sën na n paam a burkïndã. La Tën-tvuma (Wënd puvsg la A tilgr be a yïnga) rika bilgri n vënegd neb nins sën maan yel-gëtu wã halhaalã, ti yaa wala rûm-kum sën gûud a rûmsi zïig b sën gidg ti b ra wãbneg noorë, rënd rûm-kumã rûmsã yaa bilf bala ti b kē beenë sën pē wã yïnga, rënd yaa woto bala, la ned sën maan bûmb ning sën tar gëtgã, a maan-kãngã kitame t'a pënegd haraamã, rënd keta bilf t'a lvi a pugë. Rë poor la Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yïnga) kô kibare ti yïngë wã nem-vôre n be beenë (yë me la sûurã) yïnga manegda ne a manegrã, la a sãamd ne a sãangã.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. B maana yamleogo ti b bas yel-gēdga, yel ninga buud sën Ka vēenegā.

(4314)

Biiga, ad mam na n wilga foom gom-biisi, gūus Wënd t'A na gūus-fo, gūus Wënd ti fo na mik-A f togellē wā, f sã n na n kos bi f kos Wēnde, la f sã n na n kos sōngre bi f kos Wēnde

(80) – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُنْتُ حَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظِ اللَّهُ بِحِفْظِكَ، أَحْفَظِ اللَّهُ نَجْدَهُ مُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنِ بِاللَّهِ، وَأَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ».

[صحيح] - [رواه الترمذي]

(80) – Yii a [bn Abbaas nengē, -Wënd yard be b yibã yīnga- a yeelame: M da bee Wënd Tën-tvum poorē wā, (Wënd puusg la A tūgr be a yīnga), t'a yeele:" Biiga, ad mam na n wilga foom gom-biisi, gūus Wënd t'A na gūus-fo, gūus Wënd ti fo na mik-A f togellē wā, f sã n na n kos bi f kos Wēnde, la f sã n na n kos sōngre bi f kos Wēnde, la f bānge: ti nebã fãa sã n naag taaba n na naf foom ne bũmbu, b pa na n naf foom rēnda ne bũmb ninga Wënd sën guls n kō foomã, b sã n leb n tigim taaba n na n nams foom ne bũmbu, b pa tōe n nams foom rēnda ne bũmb ning Wënd sën guls n doglg foomã, guls-mxod zēkame, sebã me kvume». [A manegame] - [A At-turmiziy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

A Abbaas kōta kibare, (Wënd yard be a yīnga)ti yē rag n yaa bi-bilfu, n lagem Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) t'a yeel-a (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga): ti m na yeel-f-la yela ti Wënd naf-f ne-ba:

Gūus Wēnde, ti tūud ne fo sēn na n gūus A saglsã n naag A sēn gıdgã, ne A sēn na n mik foom A tūud-rãmbē wã la A ra yãnd foom Wënd kuskē wã la zunuub-rãmbē wã ye, fo sã n maan rēnda, fo rolbã yaa ti Wënd na n gū-f lame n yi dūni la laahr yel-kiti la A gū foom fo yelã pugē, fo sēn teesē fãa.

F sã n rat n kos bũmbu, bi f ra kose, rēnda Wēnde, bala yaa Yēnda A Yembr bal la sēn sakd bōosdbã boollã.

La f sã n wa rat sōngre, bi f ra kos sōngr ti sã n ka Wēnde.

La f tall bāng-n-wãaka ti ad nafa ka tōe n paam foom, baa ti tēngã neb fãa gill sã n tigim taaba n rat n na n naf-fo sã n ka Wënd sēn guls n kō foom, la nang kōn n tol n paam foom me, baa ti tēngã neb gill tigim taaba n rat n nams foom, rēndame ti yaa Wënd sēn kord bũmb ningã ti na n paama foomã.

La ad yel-kãngã, Wënd guls-a lame, A Naam yu wagelle la A kord-a n zems ne Wënd Minimã sēn tvll bũmb ningã, la Wënd sēn guls bũmb ning me ka tedgde.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiisã wilgda tulsem kāsēng sën be koam bāanegã la koam-bi, b wilg-ba b dīinã yellã sën yaa Wënd yembgo la zugd-rãmba la zēng sën ka rēnda.
2. Rolbã yita wala tuumdã buudu.
3. B sagendame tu f tik Wēnde, la f bobl-f meng ne Wēnde la f bas zēng sën ka Wēnde, Wënd me la bobendbã sën yud sōmblem.
4. A wilgdame tu b kō sīda ne Wënd buvdã la A pulengã, la f yard ne rē la f bāng tu Wënd korda bũmbã fãa.
5. Ned ning sën yeεba Wënd sagellã, rēnd Wënd yeεbd-a lame, la Wënd ka na n gũus-a ye.

(4811)

wilgd maam gomde, lıslaangã puga, m sën kōn n le sok-a ned baa a yembr sã n ka foom, t'a yeεle: yeεle: m kōo sđ ne Wēnde, rē poorē, tēeg turga

(81) – عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: «قُلْ: **أَمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمَّ**». [صحيح] - [رواه مسلم وأحمد]

(81) – Yii a Sufyaan [bn ‘Abdułlaah At-takafiyyi nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: M yeelame: yaa Wënd Tēn-tuvmã, wilgd maam gomde, lıslaangã puga, m sën kōn n le sok-a ned baa a yembr sã n ka foom, t'a

yeele: «yeele: m kōo sid ne Wēnde, rē poorē, tēeg turga». [A manegame] [A Muslim la a Ahmad n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Sahaabg a Sufyaane [bn Abdullāh, (Wēnd yard be a yīnga) a soka Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) t'a wilg-a gomde, sēn tigim lslaangā maanā zānga, tū yē gād rēnda, n ka le sokd-a nin-zēng ye. Tū Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) yeel-a: yeele: "m yeema Wēnde, la m kōo sid t'A yaa mam Wēnde, la m Soaba, la m Naanda, la m Tūudā sid-sida, lagem-n-taag ka be ne-A ye", rē poorē bī a sak ne Wēnd tūudumā n kōo Wēnd faril-rāmbā la a bas Wēnd sēn harem ye l ninsā la a kell n duum ye l-kāngā zugu.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Dīinā yēgr yaa sid-kūun ne Wēnde, A Wēndlemē wā, la A Sobendā, la A yuy wā la A Suf-rāmbā.
2. Wilgda tēeg turga, la kell n duum wakat fāa n be tūudmā pugē la tablg woto zugu, b yellā sēn be suka lumaoong poorē.
3. Sid-kūuna n yaa sart tū b yaool n reeg tuumā.

4. Kõ-sud ne Wēnde, a tigimda būmb ning sēn yaa tlae ti b loe wā, sēn yaa lumaoongā loeese la a yēga la būmb ning sēn tūud rēnda sēn yaa tuumā, la sak n pug rē, la sak n tū Wēnde, sēn solg la sēn vēnege.
5. Tēeg turgā yaa būmb sēn tab ne sorā, ne waagib-rāmbā maanego la yel nins sēn gudgā basbo.

(65018)

Muumin-rāmbā bilgri, b nong-taabā la b yols-taabā la b nim-bāan-zoεεgā pugē, b yaa wala yīnga, yīn-will sā n zīnd beenē n zabdē, la yīngā fāa gill sēn boond taab n lagem-a ne gōeem basbo la yīn-zabre

(82) – عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

[صحيح] - [متفق عليه]

(82) – Yii a An-nu’maan [bn Bašiir nengē, (Wēnd yard be a yīnga), ti Wēnd Tēn-tuuma, (Wēnd puvsug la A tilgr be a yīnga) yeelame: «**Muumin-rāmbā bilgri, b nong-taabā la b yols-taabā la b nim-bāan-zoεεgā pugē, b yaa wala yīnga, yīn-will sā n zīnd beenē n zabdē, la yīngā fāa gill sēn boond taab n lagem-a ne gōeem basbo la yīn-zabre**». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsq la A tulgr be a yĩnga) vënegdame n wilgdë, ti yaa tilae ti lıslaambã halhaalã bãmb ne taaba, a yi sën yaa sōma nonglem la yolsqo, la sōng-taaba, la namsd ned fãa ti bũmb sã n paam lıslaambã sën yaa nango, a bilg-n-taar yaa wala yĩnga a yembre, ti yĩn-will sã n bē la yĩngã fãa sën lagem taab n bē.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Sōmbame ti b zısg lıslaambã hake-rãmbã, la b pirs taaba sōng-n-taar la yols-taaba.
2. Sōmbame ti zĩnd sıd-kōtbã ne taab suka, nonglem la sōngre.

(4969)

Ned ning sën yōka koom, n maneg a koomã yōkre, a tvvm tuuti wã yıtame n bas-a a yĩngē wã, halı n wa tũ a nug-yēesã tēngrã n yi

(83) – عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ حَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(83) – Yii a ‘Usmaan [bn ‘Affaan nengē - Wënd yard be a yĩnga-: a yeelame: Wënd Tën-tvvmã, (Wënd puvsq la A tulgr be a yĩnga) yeeleme: «Ned ning sën yōka koom, n maneg a koomã yōkre, a tvvm tuuti wã yıtame n bas-a a yĩngē wã, halı n wa tũ a nug-yēesã tēngrã n yi» [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yïnga) kôta kibare, ti ned ning sên yôka koom, n gũus a sun-rãmbã la a zvgd-rãmbã, a yita sabab n yaaf a yel-wêense la a lub a yel-beedo, halı t'a zũnuub-rãmbã wa tũ a nug-yêesê wã la a nus a yiibã la a nao a yiibã n yi.

Sên be Hadiisã yôod-rãmbê:

1. Pirsdame ti b ning b toaag ne koomã yôgb yell karengo la a sun-rãmbã la a zvgd-rãmbã, n tum ne rênda.
2. Wilgda koomã yôgb yudlem la a yaafda zũnuub bãanegã, la sã n yaa ne zũnuub bedã, yaa tlae ti b tuubi.
3. Zũnuub-rãmbã yiibã sartã yaa ti koomã yôgb pidi, la b maan-a wala sên sômb to-to ningã, ti boogr ra zïnd be ye, wala Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yïnga) sên vëneg n wilgã.
4. La zũnuubã yaafg wala hadiis-kãngã sên togsã, a yaa bũmb sên za ne fo sên na n zãag ne zũnuub bedã, la f tuub n yi-a, Wënd yeelame, (A Naam zêk yã): (Ad y sã n zãagd zũnuub bedã b sên gudgd yãmb n yi wã D na bas ti loog yãmb yïnga y yel-wênsã).[An-nisaa'u: 31].

(6263)

Wënd pa reegd yāmb yem kvsgo, t'a sã n rēgme, halı t'a wa yōk koom

(84) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا

يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(84) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wënd yard be a yīnga), ti yii Nabiyaamã nengē, (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) yeelame: «**Wënd pa reegd yāmb yem kām fāa puvsgo, t'a sã n rēgme, halı t'a wa yōk koom**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) vēnegdame ti sart-rāmb nins sēn be Puvsgã manegr pugē wã, yaa yulgrã, rēnd yaa tilae ne ned ning sēn rata n puvse, t'a yōk koom, sã n mikame ti sēn kaood koom n paam-a, wala we-kεnga, la ruudem, la gōeem, la zēng sēn ka rē.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgdame ti ned koom sēn kao Puvsg ka reegd halı t'a wa yulge, zem ti yaa koom soobo: ti sã n mikame ti yaa rēg bedre (wala Mani la Pekre...), la koom yōgbo: sã n mikame ti yaa rēg-bāanego (wala sēedo la we-kεnga la ruudem).
2. Koomã yōgbã yēnda la yāk koom n ning noorē n wugsi, n lebg n yiis-a, rē poorē ti fōog koomã n lebg

n yiis-a, rē poorē tu b pek nengā noor a tāabo, n pek nusā n tu tāag kāntusā noor a tāabo, rē poorē t'a saag a zugā fāa gilli, vugri, rē poorē t'a pek a nao a yiibā n lagem ne na-kugā noor a tāabo.

(3534)

Nabiyaamā (Wënd pvsug la A tigr be a yīnga) ra yume n yōkd koom Pvsug fāa wakato

(85) – عن عَمْرُو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزَى أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُجْدِثْ. [صحيح] - [رواه البخاري]

(85) – Yii a ‘Amr [bn ‘Aamir nengē, tu yii a Anass [bn Maalik nengē, t'a yeelame: Nabiyaamā (Wënd pvsug la A tigr be a yīnga) ra yume n yōkd koom Pvsug fāa wakato, tu mam yeele: la yāmb rag n maanda wān-wāna? T'a yeele: koom yōkr a yembr sekda tōndo, tu koomā sã n ka kao. [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamā (Wënd pvsug la A tigr be a yīnga) ra yume n yōkd koom Pvsug fāa wakato, sēn yaa farila, baa t'a koomā sã n ka kao, la rēnda yaa sēn na yl n paam keoor la yudlem Wënd nengē.

La sakdame tu b pvs faril-rāmb wvs go ne koom yōkr a yembre, tu koomā sã n ka kao.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Yaa tu Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga), a sën rag n maand n yuda, yaa t'a yõkda koom Puvsg fãa gill wakato, rënd yaa tuum ning sën tug n pid n yudã raab yïnga.
2. Wilgdame tu b buv nonglem tu b yõk koom Puvsg fãa wakato.
- 3-Hadiisã wilgdame tu sakdame tu b maan Puvsrãmb wusg ne koom yõkr a yembre.

(65080)

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga) yõga koom vugr-vugri

(86) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً. [صحيح] - [رواه البخاري]

(86) – Yii a [bn ‘Abbaas nengë, (Wënd yard be b yiiibã yïnga), a yeelame: Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga) yõga koom vugr-vugri. [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga) ra yume t'a wakat-rãmb sãnda, a sã n na n yõk koom, a pekda yïn-will fãa gilli, sën yaa koomã yõgb yïn-wilã, yembr-yembre, rënd a pekda a nengã -la sën be nengã pekrë- yaa noorã wugsgu la yõorã vëesgo-, la a pek nus a yiiibã la nao a yiiibã vugri, la wãnde la sën yaa tilae wã.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Būmb ning sën yaa tulae yīn-wilā pekr pugē, yaa vugri, la sën na n paas vugrã poorē wā, b buu rē nonglem.
2. Wilgdame ti koomã yōgbo, yōkda vugr-vugr wakat sānda.
3. Sāri wā maaname ti zugã saagd vugri.

(65081)

Ti Nabiyaamā (Wënd pvvsg la A tigr be a yīnga) yōka koom noor a yīib-yīibu

(87) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. [صحيح] - [رواه البخاري]

(87) – Yii a Abdullaah [bn Zayd nengē (Wënd yard be a yīnga): Tı Nabiyaamā (Wënd pvvsg la A tigr be a yīnga) yōka koom noor a yīib-yīibu. [A manegame] [A Al-buhaarīy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamā (Wënd pvvsg la A tigr be a yīnga) ra yume t'a wakat-rāmb sānda, a sã n na n yōk koom, a pekda yīn-will fāa gilli, koomã yōgb yīn-wilā, noor a yīibu, rēnd a pekda a nengā, la sën be a pugē me -yaa noorā wugsgu la yōorā vēesgo-, la a pek nus a yīibā la nao a yīibā noor a yīibu.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Būmb ning sën yaa tulae yīn-wilā pekr pugē, yaa vugri, la sën na n paas vugrã poorē wã, b buu rē nonglem.
2. Wilgdame ti koomã yōgbo, yōkda noor a yiiib yiiibu wakat sānda.
3. Sāri wã maaname ti zugã saagd vugri.

(65082)

Ned ning sën yōga mam koomã yōgb buudu, rē poorē, n pws rakaar a yiiibu, n ka tags dūni yel a pugē, Wënd yaafda a zūnuub sën reng taore

(88) – عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوُضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِثَائِهِ، فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَمَضَّمَصَّ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(88) – Yii a Hūmraan sën yaa a ‘Usmaan [bn ‘Affaan neemã-lalldã, a yeelame ti yē yāa a ‘Usmaan [bn ‘Affaan t'a kit ti b wa ne Pwvs laaga, t'a kull n kiig a nus a yiiibã n pek-b noor a tãabo, rē poorē t'a rik a ritgã n tum koomã pugē, n yāk n wuk a noorã la a fēes a yōyã, la a fēes n yiisi, rē poorē t'a pek a nengã noor a tãabo la

a nus a yiiḃā n ti tāag kāntusē wā, noor a tāabo, n yaool n saag a zugā, rē poorē t'a pek nao a yiiḃā fāa gill noor a tāabo, n yaool n yeele: mam yāa Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) t'a maand wala mam sēn yōgd koomā to-to wā, la a yeele: «**Ned ning sēn yōga mam koomā yōgb buudu, rē poorē, n puvv rakaar a yiiḃu, n ka tags dūni yel a pvgē, Wënd yaafda a zūnuub sēn reng taore**». [A manegame] [A Al-Bvḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

A ʿUsmaane, (Wënd yard be a yīnga) a wilga Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) koomā yōgb bilgr sēn yaa a soaba, sēn tū ne maan ti b gese, sēn na yilē ti vēnegrā ta teka, rēnd a kitame ti b wa ne Puvv-laag ne koom, t'a pvdg n kiig a nus a yiiḃā noor a tāabo, rē poorē a rika a ritg nugā n tum laagē wā, n yiis koomā n ning a noorē, n lebg n pursi, rē poorē t'a fōog koomā ne a yōorā, rē poorē, n yiis-a n fēese, rē poorē t'a pek a nengā noor a tāabo, rē poorē t'a pek a nus a yiiḃā n ti tāag kāntusā, noor a tāabo, rē poorē t'a saag a nusā ne a zugā t'a nusā yaa sēn madag ne koom vugri, rē poorē t'a pek a nao a yiiḃā, n tvḡ n tāag nao-kugā noor a tāabo.

La a sēn wa n sē wā, (Wēnd yard be a yīnga) a kō-b-la kibare, ti yē yāa Nabiyaamā (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga) t'a yōk wala ko-kāngā yōkrā bilgri, la a kō-b kiba-noogo (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga) ti ned ning sēn yōka koomā wala yē koomā yōkr bilgri, n puvs rakaar a yiibu, ne Wēn-zoεga, la ning-m-yamē, a Soabā taoore, A Naam yī wagell n zēke, rakaar a yiibā pugē, rēnd Wēnd rond-a lame, a sēn yōk koomā ti pidā la Puvs-kāngā sēn yaa Wēnd bal yīngā, Wēnd rond-a lame keoore, n yaaf a zūnuub-rāmbā sēn reng taorā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. B buv nonglem ti b pek nus a yiibā taor ti b na n ka kēes-b laokā pugē ye, koomā yōgb sungr sasa, baa ti f sā n ka yik f goēmē, la sā n mikame t'a neka gōeemē yungo, rēnd yaa tlae t'a pek-ba taor t'a na n ka ning-b koomē wā ye.
2. Sōmba ne karen-saamba t'a rik sor sēn yaa koεga, sēn tōe n fasem, la bāngrā leb n tabend karem-biigā nengē, sēn be rē pugē, a wilgd-b lame sēn tū ne tuumde, ti b gese.
3. Sōmba ne puvsda t'a rig yel nins sēn gaamd a sūurā, sēn yaa dūni soagla, bala Puvsgā pidbā la a taabā, tūuda ne sūurā meng sēn na n yag

- ne-a, sã n ka rē, tagsgã yaa toogo ti b tōog n tulg n yi-a, rēnd sã n yaa woto yaa tulae ti f zab ne f yōorã la f ra saag n pug f yōorã, yamleoog yel-kãngã pugē ye.
4. B buv nonglem ti b maan tayaamun (ritg-ritgo) koomã yōgb pugē.
 5. Sãri wã maaname ti sakdē ti b tōe n tūnug noorã wugsgu la koomã fōogr yōorē wã la a fēesgã ne taaba.
 6. B buv nonglem ti b pek nengã la nus a yiibã la nao a yiibã noor a tãabo, la tulae wã yaa vugri.
 7. Wënd yaaf zūnuub-rãmb nins sēn loogã wã tūuda ne yel a yiib sēn na n tigim taaba: koomã yōgbo, rakaar a yiib Puusgo, n tū ne bilgr ning sēn togs hadiisã pugē wã.
 8. Koomã yōgb yīn-will fãa tara toaaga: Rēnd nengã toaaga, yaa sēn sung zugã zoobdã sēn minim n bundē wã teka, n tug n tãag sēn na n sig n wa toεngē wã la lemdē wã sã n yaa woglem. La a yalmã sungda tubrē wã n tug n tãag tubr a to wã. La nugã toag sungda nus-biisã rudē, n tug n tãag kãntugã, yē me la soak

ning sēn be lullā la kangā suka. La zugā toaag
 sungda zoobdā sēn minim n bund zīg ningā
 kuremse, n kēng yublā yīngri, la tub a yiibā
 saagre. La naorā toaaga, yē yaa naorā fāa gilli,
 n lagem ne rudr ning sēn be yē la kargā suka.

(3313)

Yāmb yembr fāa sā n na n yōk koom, bt a ning koomā a yōorē wā, rē poorē bt a vées n yiisi, la ned ning sēn
 na n yées a seeg bt a maan noor a tāabo

(89) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْتَرْ، وَمَنْ اسْتَجَمَرَ
 فليوتر، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي
 وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

ولفظ مسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْسِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
 حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(89) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wēnd yard be a
 yīnga), ti Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd pvsug la A tulgr be
 a yīnga) yeelame: «Yāmb yembr fāa sā n na n yōk
 koom, bt a ning koomā a yōorē wā, rē poorē bt a
 vées n yiisi, la ned ning sēn na n yées a seeg bt a
 maan noor a tāabo, la yāmb yembr fāa sā n nek a
 gōemē, bt a reng n pek a nugā taoor t'a na n ka
 ning-a koomā laok pugē ye, ad yāmb yembr fāa ka
 mi a nugā sēn gāandē ye».

La a Muslim gom-bilā: «**Yāmb yembr fāa sā n wa yik a gōoemē bi a ra bōr a nugā koomā pugē ye, halı t'a pek-a noor a tāabo, bala yē ka mi a nugā sēn gāandē ye**». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) vēnegda yulgrā buvd sānda n wilgdē, la sēn be a pugē: Rēnem: yaa ti ned ning sēn yōka koom yaa tulae ne-a t'a kēes koomā a yōorē wā ne fōogre, rē poorē t'a lebg n yiis-a ne tusbu. Yiib soaba: yaa ti ned ning sēn rat n yulg rēgd ning sēn yita yē nengē wā ti ka tū ne koom, wala kugā la sēn wōnd rē, rēnd yēnda yulgrā sōmb n yu lugum, sēn paood n yuda yaa noor a tāabo, la sēn tvg n zēk n yuda yaa būmb ninng sēn na n yēes rēgdā la a yulg zīigā. Tāab soaba: yaa ti ned ning sēn wa n yik a gōoemē yungo, bi a ra sui a nugā koomē wā n na n yōk ye, rēndame t'a reng n pek-a noor a tāabo yunga, bala yē ka mi a nugā sēn gāand zīig ning ye, rēnd yē ka tar bas-m-yam ti rēgd ka be beenē ye, tōe meng t'a svitāan reema ne yē nugā, n rik bōn-yood sēn namsd ninsaala n wa yē nugē wā, maa sēn sāamd koomā.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Koomã fōogr yaa tlae koomã yōgbē, yē me: yaa koomã kēesg yōorē wā, sën lagem ne fōogre, leb n yaa tlae tu b tus-a n yiisi, yē me: yaa koomã tus n yiisi, sën tū ne fēesgã.
2. B buv nonglem tu b yēes rēgdã zīig witre (lugum).
3. Sāri wā sën maan tu b pek nus a yiibã noor a tāabo, f sën wat n yik gōeemē wā yungo.

(3033)

Ad b yiibã b namd-b lame, la ad b ka namd-ba yel bedr poorē ye, b yiibã yembrã, yēnda rag ka yu n gūusd a ruvdmã tu ra mat a mengē ye, la sã n yaa yembrã, yē rag n kēnda ne tēng-kān-wēendo nebã ne taab ovka

(90) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّحِيْمَةِ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْبَسَا».

[متفق عليه] - [صحيح]

(90) – Yii a [bn ‘Abbaas nengē, (Wēnd yard be b yiibã yīnga), a yeelame: Nabiyaamã (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) puusga yaad a yiibu, n yeele: «Ad b yiibã b namd-b lame, la ad b ka namd-ba yel bedr poorē ye, b yiibã yembrã, yēnda rag ka yu n gūusd a ruvdmã tu ra mat a mengē ye, la sã n yaa yembrã, yē rag n kēnda ne tēng-kān-wēendo nebã

ne taab svka», rē poorē Nabiyaamā rika ra-maasre, n wedg-a yiibu, n rik yembr fāa n sel yaoog zugu, ti b yeele: Wënd Tën-tvuma bōe ti fo maan woto? T'a yeele: «**tōe ti b boog nangā b yīnga, ti b sã n na n ka kvu**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zema taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) puvsga yaad a yiibu, n yeele: Ad yaad a yuib-kāensã rāmbā, b namsda b yuibā, la b ka namsd b yuibā yell sēn yaa bedre yāmb gesg pugē ye, baa ti sã n mikame ti yaa bedr Wënd nengē, la sã n yaa b yuibā yembrā, a rag ka yi n ningd a toaaga la a gūus a menga la a futā n yi a ruvdmā, a sēn wat n maand we-keeng ye, la a yembrā, yē rag n yume n kēnd ne tēn-kān-wēendem, nebā ne taa svka, rēnd a rag n rikda nebā goam n taasd taaba, ti yaa sēn na n nams-ba la yōs-taaba, la a kēes zaba nebā ne taab svka.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Tēn-kān-wēendā, la bas n ka yulgd n yit ruvdmā, a bee zūnuub bedā pugē, a leb n yaa sabab-rāmb n kēesd ned yaoog nango.

2. Wënd pãrgame, (A Naam yulgame), yel-soaandi-rãmb sãnda, sën yaa wala yaooḡã nango, n wilḡ Nabiyaamã ti yaa sën na vēneg a nabiyaamdemã tagmase (Wënd puvsḡ la A tulḡr be a yĩḡḡa).
3. Tuum-kãḡã Nabiyaamã sën maanã, n wedḡ ra-maasr a yiibã n ning-b yaooḡã zugã, yaa sën welḡ zall ne Nabiyaamã (Wënd puvsḡ la A tulḡr be a yĩḡḡa) bala Wënd vēneg-a lame t'a yã yaooḡã rãmb halhaalã, rënd ka rukd n mak ne nin-zēḡḡa, bala ned baa a yembr ka mi yaadã rãmb halhaal sën yaa a soab ye

(3010).

Nabiyaamã (Wënd puvsḡ la A tulḡr be a yĩḡḡa), a sã n kēḡḡ we-kēḡḡḡa, a yetame: «Allaahumma, inni Avvzv bika minal huḡsi wal habaa'is =M Soab A Wēnde, m kota ḡũudem ne Foom n yi svutãan roapa la svutãan pogse

(91) – عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ

الْحَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(91) – Yii a Anas nengẽ, (Wënd yard be a yĩḡḡa): Nabiyaamã (Wënd puvsḡ la A tulḡr be a yĩḡḡa), a sã n kēḡḡ we-kēḡḡḡa, a yetame: **«Allaahumma, inni Avvzv bika minal huḡsi wal habaa'is =M Soab A Wēnde, m kota ḡũudem ne Foom n yi svutãan roapa la svutãan pogse»**. [A manegame] [A Al-Buḡhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), ra yume t'a sã n rat n na n kē zīg ning a sēn lokd a tulsmã, zem ti yaa ruvdem maa yaa we-kεεnga, a kota gūudum ne Wēnde, la a rell Wēnde, t'A gū-a, n yi svutãambã wēnga, b roap la b pagba, b leb n welsa "hubs" la "Al-habaa't", (svutãan roapa la svutãan pogse) ti yaa wēnga la rēg-rãmbã.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Wilgda b sēn bu nonglem ne doaag-kāngã, b sã n wa rat n kēng we-kεεnga.
2. Bōn-naandsã gilli, b tara tulsem ne b Soabã, t'A gū-ba n yi būmb ning sēn namsd-ba, b halhaal-rãmbã fãa pugē.

(3150)

Ra-wãbdgã yaa yulgr ne noorã, n yaa yarda ne Soabã

(92) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: «السَّوَالُكَ مَظْهَرَةٌ لِلْفَمِّ، مَرَضَةٌ لِلرَّبِّ». [صحيح] - [رواه النسائي وأحمد]

(92) – Yii a Aaisa nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: ti Wēnd Tēn-tvumã yeelame (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga): Ra-wãbdgã yaa yulgr ne noorã, n yaa yarda ne Soabã». [A manegame] - [A An-nasaa'iy la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsɔg la A tulgr be a yĩnga) kōta kibare tɪ yēnã yulgr ne (Araak) tugã ra-wābdgã la sēn wōnd rē, a yilgda noorã n yi rēgd-rāmbã la yū-yoodã, la a be sabab-rāmb nins sēn maand tɪ Wënd yar A yambã; bala Wënd ne A Tēn-tuvmã tūudum n be beenē, n leb n yaa Wënd sagellã sakre, n leb n paas sēn be a puvgē sēn yaa yulgre Wënd ne A tēn-tuvmã sēn nongã A naam zēkame.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Ra-wābdgã yudlem, la Nabiyaamã(Wënd puvsɔg la A tulgr be a yĩnga) sēn pirsd a zāmã wã tɪ b wusg-a.
- 2- sōma sēn yude yaa b wãb Araak tugã ra-wābdse, la patã la sēn wōnd rēnda ledgda a zīgē.

(3588)

Yaa hake n zao Iuslaam fãa giilli t'a so rasem a yopoe puvgē fãa raar a yembre, n pek a zugã la a yĩngã

(93) – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(93) – Yii a Abuu Hurayrat nengē (Wënd yard be a yĩnga) a yeelame: Wënd-tēn-tuvmã (Wënd puvsɔg la A tulgr be a yĩnga) yeelame:- «**Yaa hake n zao Iuslaam**

fãa gilli t'a so rasem a yopoe pugē fãa raar a yembre, n pek a zugā la a yīngā». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Wënd-tëntuum (Wënd puusg la A tigr be a yīng) kōo kibare ti yaa hake, sēn keng lislāam zugu, sēn yaa baalik n tar yam t'a so koom rasem a yopoe pugē fãa gilli, raar a yembre, rānd ra-kāngā a pekda a zugā la a yīnga ti yaa sēn na n bao yilgre la yolgemde, la rakānsā sēn sōmb n yud yaa arzūm raare, wala d sēn na n fasēm togs-rāmb sānda pugē, la so arzūm raar taor ti Puusgā na n ka ta wā, b bu-a-la nonglem sēn kenge, baa ti sã n mikame t'a soo lamusa raare. La bumb ning sēn wēnems arzūmā koom soob t'a ka tilae wā, yaa a 'Aaiša koεεg sēn yeele; Wënd yard be a yīnga: "ti ad nebā rag n yume n tumd b mens tuuma, ti b ra yume ti b sã n na n wa kēng arzūmā, b kēngda ne b tumā teedo, ti b yeel-ba: yāmb sã n da yume n soē koom, rēnda n são". A Al-buhaarī n reeg-a. La togsg a to yeelame ti b tara yūugu, rat n na n yeele: tvulgā la sēn wōnd rēnda yūugu, la sēn lagem ne rē fãa b yeel-b lame: "yāmb sã n dag n so koom rēnd n são", rēnd zēng sēn pa bamba n yud ne ra yī tilae.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Bee hadiisã puga lıslaamdã ning toaag ne yulgrã la yolgemdã.
2. Arzũm koom soobo, b bu-a-la nongelem sën kenge Puusgã yĩnga.
3. La a sën tēeg zugã yellã, baa tu sã n mikame tu sã n yeel tu yĩngã gũbg-a lame; yaa sën na ylẽ n ning toaag ne-a.
4. Koom soob yaa tlae n zao ne ned ning fãa b sën wat n wumd yũ-wēnga a nengē, sën namsd nebã.
- 5- Raar sën be t'a koom soob keng n yuda, yaa arzũma, a yudlemã yĩnga.

(65084)

Lıslaangã rog-n-mikã yaa nu, yaa bõng koom, la pend põmbo, la no-kõbd wõrsgo, la no-yees wõrsgo, la bāgd vōobo

(94) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْحِثَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْتُفُ الْأَبَاطِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(94) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wënd yard be a yĩnga): m wõma Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) t'a yetē: «Lıslaangã rog-n-mikã yaa nu, yaa bõng koom, la pend põmbo, la no-kõbd wõrsgo, la

na-yēes wōrsgo, la bāgd vōobo». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) vēnegda yel a nu, sēn yaa līslaangā yela la tēn-tuumbā na-kēndre:

Rēnem: yaa bāng kōom, yē me la gōng ning sēn toogā zakarā zugē wā kuvgre, la gōngā kuvgr pag taorē, a kēed-n-taarā zīigē yīngri.

Yiib soaba: yaa pendā pōngre, yē me la kōbd nins sēn be pendā zugā.

Tāab soaba: yaa no-kōbd wōrsgo, yē me la kōbd ning sēn bōeega yīngr no-gānga zugā, n maan ti no-gāngā vēnege.

Naas soaba: yaa nug-yēes wōrsgo.

Nu soaba: yaa bāgd tōsbo.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Tēn-tuumbā sūnn-rāmbā no-kēndr nins Wënd sēn nong la A yardē, la A sagl ti b maanā, b boondame n tugd pidsgu la ylgre, la neerem.
2. Wilgdame ti yaa sāri ti ned minim yel-kāensā la a ra maan yam yaal-yaal n yi-b ye.

3. Yel-kāensā tara yōod-rāmb dīin la dūni wēengē, sēn be a pugē, yaa a sēn manegd ninsaal yale wā, la a yulgd yīngā, la a leb n maandē ti yulgr be beenē, n leb n yaa būmb sēn yōsgd kuf-rāmbā, n leb n yaa Wēnd yellā gādbo.
4. B togsa hadiis-rāmbā sānda pugē luslaangā rogem-n-mika yel sānda, sēn ka bāmba b nu wā, wala toεeng basbo la sigdre, la zēng sēn ka rēnda.

(3144)

Mam da yume n yaa raoa sēn yāt mazi wsgo, la mam ra yume n zoet yānde, n na n sok Nabiyaamā (Wēnd pvsrg la A tulgr be a yīnga) a bi-puglā sēn yaa mam pagā yīnga, ti mam tvma a Al-Mikdaad [bn Al-aswade t'a sok-a, t'a yeele: «Ad a pekda a taoorā la a yōk koom».

(95) – عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنُ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ». وَلِلْبُخَارِيِّ: فَقَالَ: «تَوَضَّأُ وَأَغْسِلُ ذَكَرَكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(95) – Yii a ‘Ali nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Mam da yume n yaa raoa sēn yāt mazi wsgo, la mam ra yume n zoet yānde, n na n sok Nabiyaamā (Wēnd pvsrg la A tulgr be a yīnga) a bi-puglā sēn yaa mam pagā yīnga, ti mam tvma a Al-Mikdaad [bn Al-aswade t'a sok-a, t'a yeele: «Ad a pekda a taoorā la a yōk koom». La a Al-buhaari nengē: a yeeleme: «Yōk koom la f pek f taoorā». [A manegame] [A Al-Buḥaari ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

A ‘Ali [bn Abuu Ṭaalibe (Wënd yard be a yĩnga) kōta kibare ti ad mazi wã yita yē nengē wusgo -rē me yaa koom, sēn yaa peelle, sēn yaa faoogo, n yaa tabende, a yita taorē wã wum-noogã sasa, maa taor ti ned na n ka maan kēed-n-taare-, la yē rag n ka mi a sēn na n maan to-to ne a yiibã ye, t'a zoe yānd n na n sok Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga), bala yēnda yaa a Faatima sɔda, Nabiyaamã bi-pugla (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga), t'a kosa a Mikdaad [bn Al-aswade, t'a sok Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) yel-kāngã buɔdo, ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) loek-a t'a pek a taorã rē poorē t'a yōk koom.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgda Seenna Ali yudlemã (Wënd yard be a yĩnga) bala yāndã ka gidg yēnda n yi sōkrã ye.
2. Wilgdame ti fo tōeeme n leds ned a to f zīgē t'a sok masaalle.
3. Sakdame ti ninsaal togs a mengã sēn zoet yānd ne būmb ninga, sã n yaa manegr n be be.

4. A wilgda mazi wā sēn yaa rēgdo la a pekrā sēn yaa tlae yīngē wā la fuugē wā.
5. Wilgdame ti Mazı wā yıib yaa bumb sēn kaood koom.
6. Yaa tlae ti f pek taorā la lan-biis a yıibā, a sēn wa hadiis a to pugē wā yīnga.

(3348)

Ra yume t'a sã n na n so genaabo, a pekda a nus a yıibã, la a yök koom wala a sēn na n puvse, rē poorē t'a so

(96) – عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَبَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يَحْلِلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ، أَقَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَعْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا. [رواه البخاري]

(96) – Yii Muumin-dãmbã ma wã a 'Acuša nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: Wënd Tën-tvuma (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) ra yume t'a sã n na n so genaabo, a pekda a nus a yıibã, la a yök koom wala a sēn na n puvse, rē poorē t'a so, rē poorē t'a tēg a zugã zoobd ne a nusã, halı t'a sã n wa tēed t'a yīngã madgame la a sēn kiigd a mengã koomã noor a tãabo, rē poorē t'a pek a yīngã gilli, a leb n yeelame: maam la Wënd Tën-tvuma (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) d ra yume n sood laok a yembr pugē, d fãa lagemda taab n tumd beenē. [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) ra yume t'a sã n rat n na n so genaabo, a singda a nus a yiibã pekre, rē poorē t'a yōk koom wala a sēn na n puuse, rē poorē t'a kiig koomã a yĩnga zãnga, rē poorē t'a tēg a zugã zoobd ne a nusã, halı t'a sã n wa tēed ti koomã taa zoobdã yēgē, t'a yĩngã madg zãnga, a kiigda koomã a zugã noor a tãabo, rē poorē t'a pek a yĩngã sēn ketã zãnga. La 'Aciša yeelame (Wënd yard be a yĩnga) mam ra soodame, maam la Wënd Tēn-tuuma (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) laok a yembr pugē, d fãa yōngda beenē.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Koomã soob yaa kōbg a yiibu: sēn sekde la sēn pidi, la sã n yaa koom soob ning sēn sekdã, ninsaal maanda Anniy t'a na n yulgame, rē poorē t'a gūbg a yĩngã gill ti madg zãnga, n lagem ne noorã wukru la yōyã fēesgo, la sã n yaa koom soob ning sēn pidã, a sooda wala Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) sēn maan hadiis-kãngã pugē wã.
2. Genaabã, b yet-a-la ned fãa mani sēn yi, maa a maana kēed-n-taare, baa ti mani wã ka yi.
- 3-Wilgdame ti yi-kãadb a yiibã ned kam fãa tōe n gesa a to yãnde, b tōe n naaga taab n so laok a yembr pugē.

(97) – عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّعْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجَّهَهُ. [صحيح] - [متفق عليه]

(97) – Yii a ‘Ammaar [bn Yaasir nengë, (Wënd yard be a yïnga) a yeelame: Wënd Tën-tvumã tvmsa maam (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga) ti m tvug n maneg yelle, ti Genaab paam maam la m ka paam koom ye, ti mam gãand n bilm tomã pugë wala rüng sën bilm to-to ningã wã, rë poorë ti mam wa Nabiyaamã nengë (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga)

n togs-a mam sën maan rë wã, t'a yeele: «ad ra seka foom ti fo maan ne f nus a yiibã woto» rë poorë t'a rik a nus a yiibã n wë Tëngã vugri, n saag a goabgã ne ritgã la a nus tal a yiibã kudgu la a nengã. [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga) tvmsa a ‘Ammaar [bn Yaasir (Wënd yard be a yïnga) t'a tvug n maneg yeł sãnda, ti Genaab paam-a, sën tũ ne kēed-n-taare, maa mani n yi ne wvm-noogo, t'a ka paam koom n na n so ye, la a rag n ka mi genaab soab

tɛɛmã wēeb buvd sēn yaa a soab ye, la a rag n mii a buvdã sã n yaa wala rēg-bāanego, wala we-kɛɛng la sēedo, Rēnd a nidga pānga, n tēed ti yē sēn da wēed tɛɛmã, n saagd koomã yōgb yīn-wilã ti sã n yaa wala rēg-bāanegã, rēnd sã n mikame ti yaa sēn na n wē genaab tɛɛmã, yaa tɪlae ti yēnda gūbg a yīngã fãa ne tom, n rik n mak koomã sēn sood to-to, t'a na n bilim tomã puga halı n gūbg a yīngã gilli, n yaool n puvse, a sēn wa Nabiyaamã nengē wã (Wēnd puvsg la A tɪlgr be a yīngã) a togs-a-la rēnda, n na n gese zemsame bi ka zemse? Tı Nabiyaamã (Wēnd puvsg la A tɪlgr be a yīngã) vēneg n wilg-a a sēn sōmb n yɪlg to-to ninga n yi koom kaoobo sã n yaa bilã wala ruvdem, la koom kaoob sēn yaa kasengã, wala Genaabo: la rēnda yaa rik nus a yiibã n wē tomã vugri, la a rik ritgã n saag goabga, la a tal a yiibã poayã la a nengã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa tɪlae ti b bao koom taor ti b na n ka wē tɛɛm ye.
2. Yaa sãri wã sēn kō sor ti b wē tɛɛm ned ning sēn tara genaab la a ka paam koom.
- 3- Yaa ti tɛɛm wēeb ne koom kaoob sēn yaa a bedrã a yaa wala tɛɛm wēeb ne koom kaoob sēn yaa a bilfã

Bas-ba ti mam wid-b lame ti b yaa yulma

(98) – عَنْ الْمُعِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ حُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [صحيح] - [متفق عليه]

(98) – Yii a Al-Mugiirat nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: Mam da bee ne Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) so-tookē, ti mam sulg n na n foog a na-wuud a yiiḃã, t'a yeele: « **Bas-ba ti mam wid-b lame ti b yaa yulma** » ti Nabiyaamã saag b yiiḃã. [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) ra yume, a so-toagsã sãnda n yōgd koom, la a sēn wa n ta nao wã pekrē wã, la a Mugiira (Wënd yard be a yīnga) tēeg a nusã n na n foog na-wuudã, sēn na yil ti Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) pek a nao a yiiḃã! Ti Nabiyaamã yeel-a (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga): bas-ba, la f ra yāk b yiiḃã ye, ti ad mam kēesa m nao a yiiḃã na-wuudē wã, ti mam yaa yulgemde, ti Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) saag a na-wuud a yiiḃã, n ka pek a nao a yiiḃã ye.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgda sãri wã sën kō sor ti b tōe n saag na-wuud a yiibã koom yōgb sasa, ti koom sã n kao ne rēg-bila, la sã n mik ti yaa sën na n so koom rēg bedr sababo, yē yaa tlae ti b pek nao a yiibã.
2. Saagrã yita vugri, ne fo sën na n saag ne f nugã, t'a yaa maasre, na-wuudã zugu, yīngrã, ka tēngrã ye.
3. B maana sart ti na-wuud a yiibã, yaa ti b ningrã yī koom sën yōg ti pid poorē, b sën pek nao a yiibã koomã yōgbē, yaa ti na-wuugã me yī yulenga n lud zīig ning sën yaa tlae ti b pek naoorē wã, la saagrã me yī rēg-bil poorē, ka yit genaabo maa būmb ning sën yaa tlae ti ned so koom ye. Saagrã leb n yī wakat ning sãri wã sën yāk toaaga a pugē, yē me yaa raar la yungo, ti f sã n yaa zīida, la rasem a tãabo n lagem ne b yundã fãa ti f sã n yaa so-toagda.
4. La d rikda na-wuud a yiibã n make būmb fãa sën lut nao wã, zīig ning sën yaa tlae ti pekã, sën yaa susetse la sën ka rē, rēnd sakdame ti d saag-ba.
- 5- Wilgda Nabiyaamã (Wënd puusg la A tūgr be a yīnga) zug-sōngã la a wilgrã, a sën gūdg a Mugiira t'a ra

foog a na-wuudã, la a vëneg n wilg tu sababã: yë këesa b
yiybã tu b yaa yulma; buul yĩng t'a Mugiira sũurã yõgne la
a bãng buud ning yĩng Nabiyaamã sën gıdg t'a ra foogã.

(3014)

ad rēnda yaa bāaga, la bas Puvsgã sën zems rasem-rāmb nins fo sën rag n yāt Pekarã teka, rē poorē bu f so la f pvvse

(99) – عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي
حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَظْهَرُ،
أَفَادُعُ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَّرَ الْأَيَّامَ
الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي». [صحيح] - [متفق عليه]

(99) – Yii a ‘Aaiša sën yaa muumin-rāmbã ma wã
nengē, (Wënd yard be a yĩnga), t’a Faatumat Bint Abu
Hubayš sok Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tulgr be a
yĩnga) n yeele: Ad mam yāta Pekre, tu ka wāagdē ye,
rē yĩnga, mam basda Puvsg bu? Tu Nabiyaamã yeele:
«ayo, ad rēnda yaa bāaga, la bas Puvsgã sën zems
rasem-rāmb nins fo sën rag n yāt Pekarã teka, rē
poorē bu f so la f pvvse». [A manegame] [A Al-
Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

A Faatuma Bintu Hubayš, soka Nabiyaamã (Wënd
puvsg la A tulgr be a yĩnga) n yeele: ad zumã ka basd
maam ye, a kelledame n tongdē halı rasem-rāmb nins
sën ka haydã wakatã fāa pugē, la rē yĩnga yē me
buudã yita pekarã buudo, tu m basd Puvsgã bu? Tu

Nabiyaamã (Wënd puvsɔ la A tulgr be a yĩnga) yeel-a, ad yēnda yaa kaadg (bãag) zum, t'a sababã yaa gĩindi n fãsg rogsē wã la ka Pekar zum ye, rënd haydã wakat ning fo sēn da yāt haydã a pugē wã, fo kiuugã fo sēn da mi, taoor tɪ kaadgã bãagã na n ka yōk foomã, bɪ f geel rē tək n bas Puvsɔgã, la no-loeerã, la zēng sēn ka b yīibã, sēn gɪdgd ne Pekar soaba, a Pekarã wakatã. La wakat-kãng sã n sɛ, rënd fo yulgame n yi haydã, bɪ f pek zumã zīgē, rē poorē bɪ f pek f yĩngã fãa gilli, n zēk Pekarã rēgdã, rē poorē bɪ f puvsɛ.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Wilgda koom soob sēn yaa tɪlae ne paga, t'a Pekarã rasem-rãmb sã n wa sɛ.
2. A wilgda Puvsɔ sēn yaa tɪlae n zao kaad (bãad) poaka.
3. Pekarã yaa zum sēn ka bãag zum, tɪ rogsã n tɪsd-a t'a yit pag taoorē a sēn wat n ta baalika, tɪ paamd-a rasem-rãmb pus sēn welge.
4. Kaadgã (bãagã): yaa zumã sēn na n kīigdē tɪ ka a wakat ye, la yē yita rogsã noorē, ka a yaangã ye.
5. Welgr sēn be Pekar zum la kaadg zum suka, yaa tɪ Pekarã zumã yaa sabelle, n yaa taoko, n tar yū-yooko, la sã n yaa kaadgã zumã yē yaa miuugu, n yaa faoogo, a ka tar yūug sēn yaa wēng ye.

(3029)

(100) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(100) – Yii a Abv Hurayrat nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tēn-tuum (pvsug la tulgr be a yīng) yeelame:- «**Yāmb yembr kām fāa sā n wwm būmb rāamd a pugē wā, t'a pa miē, būmb n yi bi pa yi, bi a ra yi miisrē wā, hal t'a wa wwm burgo maa yūgu**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a] **Hadiisā welsgo:**

Nabiyaamā (Wënd pvsug la A tulgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, ti sā n maan rāamde Pvsd pugē wā, t'a ka mi rē yīnga sēed n yi bi ka yi, bi a ra yi a Pvsugā pugē, n wāag n bas Pvsugā, n rat n na n lebg n yōk koom ye, sā n ka a wa n tug n paama bāng-n-wāakā, ti būmb sēn kaood koom n yi beenē, wala a sēn na n wwm sēedā rāamdā maa yūgā, bala būmb ning sēn yaa vēnegā, sik ka tōe n sām-a ye, ti yēnda yaool n tara vēneg ne koomā yōgbā la koomā kaoobā a tara sika.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiis-kāngā, yaa yēgr sēn be dīinā yēg pugē la zeng-raoog sēn yaa Fighu (fasengā) zeng-raad a yembre, yē me la: yaa ti vēneg ka sāamd ne sik ye, la yēgrā yaa ti f kell n bas būmb ning sēn yaa

ullallaah, (m maanda kaseto, ti soab hakuk pa be rēnda Wēnde). Rē poorē t'a yeele: "Ashadu Anna Mvhammadan rasulullaah, (m maand kaset t'a Mvhammad yaa Wēnd Tēn-tvuma).

T'a yeele: "Ashadu Anna Mvhammadan rasulullaah, (m maand kaset t'a Mvhammad yaa Wēnd Tēn-tvuma). Rē poorē t'a yeele: "Hayya 'Alaṣ-ṣalaat", t'a yeele: "laa hawla walaa kuwwata laa billaah". Rē poorē t'a yeele: "Hayya alal falaah", t'a yeele: "laa hawla walaa uvwata laa billaah". Rē poorē t'a yeele: "Allaah akbaru, Allaahu akbaru", t'a yeele: "Allaah akbaru, Allaahu akbaru". Rē poorē t'a yeele: laa'ulaaha ullallaah», t'a yeele : laa'ulaaha ullallaah». Ne a sūurā fāa. A kēeda arzān».

[A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Laandāanā yaa būmb sēn na n wilg nebā ti Puvsgā wakat taame, la laandāanā gom-biisā tigma ne sud-kūunā loεεga.

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) vēnegdame būmb ning sēn sōmb n maane, b sēn wat n wum laandāane, yē me yaa wumdā yeele wala laandāan boaandā sēn yetā, ti laandāan boaandā sā n yeele: "Allaah akbaru, Allaahu akbaru", wumdā yetame: "Allaah akbaru, Allaahu akbaru". Yaa woto bala, sā n ka laandāan boaandā sēn wat n yeele:

"Hayya' Alaṣ-ṣalaat, Hayya alal falaah". Rënd wumdā yetame: "laa hawla walaa kuwwata ulaa billaah".

La Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tilgr be a yīngā) vēnegdame, tī ned ning sēn togsa laandāan boaandā n yetē, n yulg ne a sūurā, a kēeda arzānā.

La laandāanā boolgā gom-biisā maanā: "Allaahu Akbaru": Rat n na n yeelame, tī Wēnde, (A Naam yulgame), Yē zislem la a bedrem yuda būmbā fāa gilli.

"Ašhadu an laa'ulaaha ulallaah": rat n na n yeel tī m maan kaset tī sēn na n tū n tilg sūd-sūda, ka be rēnda Wēnde.

"Ashadu Anna Muḥammadan rasulullaah": Rat n na n yeele, m reega m zugē la m maan kaset ne m zelemde, la m sūurē t'a Muḥammad yaa Wēnd Tēn-tūma, Wēnd tūms-a lame, (A Naam yi wagell n zēke), a tūub me yaa tilae.

"Hayya 'Alaṣ-ṣalaatu": Rat n na n yeele, wa-y n kēng-y Puvsgē wā. La wumdā yeel tī: "laa hawla walaa kuwwata ulaa billaah": Rat n na n yeel tī sulem ka be sēn na n pōsg yel nins sēn gidgd tūudumā, tōog ka be beenē yelā fāa pugē, sā n ka sēn tū ne Wēnd segl-sōngo, (A Naam zēkame).

"Hayya alal falaah" Rat n yeel tī wa-y n kēng-y pōsg sababē, yē me la sēn na n paam pōsg ne arzānā la tilgr n yi Bugmā.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1- , Yudlem ning sēn be yeel wala laandāan boaandã sēn yetã pugē, sã n ka goam a yiibã zīigē: "Hayya' Alaṣ-ṣalaat". "Hayya alal falaah", rēnda a yetame tu: "laa hawla walaa kuwwata uaa billaah".

(65086)

Yāmb sã n wum laandāan boaandã sēn boonde, bi y yeel wala a sēn yetã, rē poorē bi y puvs maam

(102) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(102) – Yii a ‘Abduullaah [bn ‘Ambr nengē (Wēnd yard be b yiibã yīnga) t'a wuma Nabiyaamã (Wēnd puvs la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: «Yāmb sã n wum laandāan boaandã sēn boonde, bi y yeel wala a sēn yetã, rē poorē bi y puvs maam, ad ned ning sēn puvs maam puvs a yembre, Wēnd rond-a lame ne puvs-kāngã, puvs piiga, rē poorē bi y kos Naab A Wēnd darge zēnkdgã n kō-ma, bala a yaa darge sēn be arzãn pugē, ned ka sōmb ne-a rēnda yamb a yembr sēn yi Wēnd yembsã pugē, tu mam nong n rat tu y maam, rēnd ned ning sēn kosa darge zēkdgã n kō maam, mam sugsgã na n paama a soabã». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga) a wilgda ned ning sën wumda laandãan boaandã, t'a yeel n pug-a wala a sën yetã, sã n ka: Hayya'alaa" a yiibã, a sã n yeel rãndã, yë yetame: " Laahawla walaa kuwwata ullaah billaah", rë poorë t'a puus Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga) a sën wat n se laandãanã, rënd ned ning sën puusa Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga) puusg a yembre, Wënd puusda a yïnga, puus-rãmb piiga, la Wënd puus A yambã vöore, yaa A sën na n pëgd a yambã Malegsë wã.

Rë poorë ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga) sagle ti b kos Wënde, darge zëkdgã n kō-a, yë me yaa darge sën be arzãnã pugë, yë n tug n yud ne zëkre, a ka sōmbe, rēnda ne Wënd sën yols darge-kāngã n kō yamb ningã, a yembr tãa Wënd yembsã fãa gill pugë, (A Naam zëkame), la mam tēedame ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga), a yeela rēnda gāneg m menga, bala sã n mikame ti darge zëkdg-kāng ka na n yī rēnda nin-yenga, nin-kāng soaba ka yt zēng rēnda yēnda, (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga) bala yaa yēnd la bōn-naandsã sën yud zislem.

Rë poorë ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga) vēneg n wilgd ti ned ning sën kos n kō

Nabiyaamã (Wënd puvsɣ la A tulgr be a yĩnga) dargε zēkdgã, yēnda sugsgã na n paam-a lame, (Wënd puvsɣ la A tulgr be a yĩnga).

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiisã kengdame ti b togs laandãanã n yeendē.
2. A wilgda Nabiyaamã (Wënd puvsɣ la A tulgr be a yĩnga) yudlem, b sēn puvsd-a laandãanã togsg poorē.
3. A pirsdame ti b kos Wēnde dargε zēkdg n kō Nabiyaamã (Wënd puvsɣ la A tulgr be a yĩnga) b sēn şall-a poorē.
4. Hadiisã wilgda dargε zēkdga (roadgã) sēn yaa a soaba la a yellã sēn zēk n ta to-to, bala a ka sōmbe rēnda yamb a yembr tãa.
5. A wilgda Nabiyaamã (Wënd puvsɣ la A tulgr be a yĩnga) yudlemã, bala Wënd welga dargε zēkdg-kãngã n kō-a.
6. Wilgdame ti ned ning sēn kos dargε zēkdgã, n kō Nabiyaamã (Wënd puvsɣ la A tulgr be a yĩnga) sugsgã paamd-a lame.
7. A wilgda Nabiyaamã (Wënd puvsɣ la A tulgr be a yĩnga) gãneg-m-menga, ne a sēn bao a poorē

rāmbā ti b kos darge-kāngā n kō-a, n lagem ne
a pus n na n yu yē nengē wā.

8. Wënd yudlemā la a yolsgā sēn yalmā, bala
tuum-sōng a yembr yaoob yaa yel-sōmd piiga

(65087)

Fo wvmda laandāanā bu?» T'a yeel ti n-ye. T'a yeel-a: «bu f sake

(103) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ
أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا ولى دَعَا، فَقَالَ:

«هَلْ تَسْمَعُ التَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(103) – Yii a Abu Hvrayat nengē (Wënd yard be a
yīnga) a yeelame: Rao sēn yaa zoang n wa
Nabiyaam nengē (Wënd pvvsg la A tilgr be a yīnga)
n yeele: Wënd Tēn-tuvmā, ad mam pa tar tat sēn na
n tall maam n kēng misrē wā ye, t'a kos Wënd Tēn-
tuvmā (Wënd pvvsg la A tilgr be a yīnga) t'a yols n
kō-a t'a pvvsd a zakē wā, t'a kō-a sore, la a sēn wa n
wēnemdā a bool-a lame, n yeele:

« **Fo wvmda laandāanā bu?**» T'a yeel ti n-ye. T'a yeel-
a: «**bu f sake**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Rao sēn yaa zoang n wa Nabiyaam nengē (Wënd
pvvsg la A tilgr be a yīnga) n yeele: Wënd Tēn-tuvmā m

pa tar sōngda sēn na n tall-m n kēng misrē wā, wakat a nu wā Puvsgē ye, ti yaa sēn rat ti Nabiyaamā kō-a sor t'a bas zāmā wā lagm n puvsa, ti Nabiyaamā yols n kō-a, la a sēn wa n gūd a zān-kuidgā, a bool-a lame n yeele: rē yīnga fo wumda b sēn boond ti b wa Puvsa bu? T'a yeel ti n-ye, t'a yeele: bi f sak n wa Puvsgā boaandā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa ti zāmā wā lagm n puvsa yaa tulae; bala yols n kō wā a pa yut rēndame ti yaa būmb sēn yaa tulae.
- 2- A sēn yeel tu: «**sakā**» ned ning fāa sēn wumda boollā wilgdame ti zāmā wā naag n puvsa yaa tulae; bala yēgrā yaa ti sagelle yaa tulae ti f maan-a.

(11287)

Yāmb yāame, lak kvulg sā n be yāmb yembr fāa zak noore, t'a sood a pvgē, raar fāa noor a nu, fo yetame ti rēgd na n paa a yīngē wā baa kudg bu?

(104) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟» قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَدَلِّكَ مِثْلَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(104) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga): m wuma Wēnd Tēn-tvumā (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: «**Yāmb yāame, lak kvulg sā n be yāmb**

yembr fāa zak noore, t'a sood a pugē, raar fāa noor a nu, fo yetame tu rēgd na n paa a yīngē wā baa kudg bu?» La b yeel yā: baa fū ka na n pa a rēgdē wā ye. La a yeel yā: «**ad rēnda yaa wala Puv̄s-rāmb a nu wā, Wēnd yēesda tuv̄m-tuuti wā ne rēnda**». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puv̄sg la A tulgr be a yīnga) a wōnesa wakat a nu wā, a sēn yēesd la a yaafd zūnuub bāanegā la yel-tuuti wā, ne kuv̄lg sēn be ned zak noore, t'a sood beenē, raar fāa noor a nu, rēnd rēgdā ka na n kell baa fū ye.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yudlem-kāngā yaa sēn welg ne zūnuub bāanegā yaafgo, la sā n yaa zūnuub bedā, yaa tlae t'a tuub n bas-ba.

2- A wilgda wakat a nu wā kūuni, yudlem sēn be a pugē, la a gūusg ne a sart-rāmbā la a zeng-raadā la yel nins sēn yaa tlae la a sūnn-rāmba fāa.

(105) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَفِيهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «تُحَبُّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَرَدَدْتُهُ لَرَأَدَنِي. [صحيح] - [متفق عليه]

(105) – Yii a ‘Abdullaah [bn Mas'ud nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: M soka Nabiyaamā (Wënd puvsug la A tilgr be a yīnga). Yaa tvum budo n noom Wënd n yuda? T'a yeele: «yaa Puvsgo, a wakatē wā». T'a yeele: rē poorē yaa bōe? T'a yeele: «rē poorē yaa roagd a yiibā manegre». T'a yeele: rē poorē yaa bōe? T'a yeele: «**yaa zab Wënd Sorā poorē**». A yeelame: Nabiyaamā n yēs maam gom-kāngā, la mam sā n rag n sok-a n paase, a rag n na n loeka maam n paase. [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

B soka Nabiyaamā (Wënd puvsug la A tilgr be a yīnga): yaa tvum bud n noom Wënd n yuda? T'a yeele: yaa Farilā Puvsgo a wakat ning sāri wā sēn yāk n rıglā, rē poorē yaa roagdb a yiibā manegre, n maneg n tug-ba la f yik ne b hake wā la f bas n da nams-b ye, rē poorē yaa Guhaadi Wënd Sorā pugē, n na n zēk Wënd Gomdā, (A Naam yı wagell n zēke), la f tus wēng n yi lslaangā la lslaambā, la f vēneg lslaangā tagmas-rāmbā, la rēndā yaa sēn tū ne fo mengā la f arzekā.

A [bn Mas'ud yeelame (Wënd yard be a yĩnga) a togsa maam tuum-käensã, la mam sã n rag sok-a rē poorē yaa bõe? A rag n na n paas-m lame.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgda tuumã sën yud taaba, bãmb ne taab suka, n zems Wënd sën nong tuumã to-to.
2. A pirsã lıslaam t'a sōmb n tara yã-beedo ne tuum ning sōmblem sën yudã, rē poorē t'a ges sën le yudã wã.
3. Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) loegsgã yōsa taaba, sën kēed ne tuumã sën yudã, sën zems ne nebã sën yōs taabã la b halhaal-rāmbã yōs-taabã, la būmb ning nafã sën yud ne ned fãa b pugē.

(3365)

(106) – عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبَلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(106) – Yii a 'Usmaan nengē (Wënd yard be a yĩnga) a yeelame: Mam wuma Wënd Tën-tuumã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) t'a yetē: «**Lıslaam ka be sën na n wa faril Puusgo, n maneg a koomã yōgbo, la a maan yĩn-yōgnego a Rukuu wã, rëndame ti Puusgã yi n yaa**

zūnuub yaafgo, zūnuub-rāmb nins sēn reng Pvusgā taorā, t'a sā n ka tum zūnuub bedre, la rēnda yaa a vumā gill pugē. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pvusg la A tilgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, ti lɪslaam ka be, ti Pvusgā wakatā, sēn yaa farilā sēn na n ta, t'a maneg a koomā yōgbo, n pids-a, rē poorē n pvus ne Wēnd zoεga, t'a sūurā yaa sēn be, t'a yīn-wilā fāa yaa sēn toglg Wēnde, n wa ne Wēnd zɪslēmā, n pids Pvusgā tum gilli, wala Rukuu la Suguud la sēn wōnd rē, rēndame ti Pvus-kāngā yɪ yaafa ne zūnuub sēn reng taore, sēn yaa zūnuub bāanego, t'a sā n ka tum zūnuub bedre, la kūun-kāngā, a yaa sēn wogend zamaanā woglem fāa la Pvusg fāa pugē.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Pvus-rāmb nins sēn yaafd zūnuub-rāmbā, bāmb la yamb sēn na n maneg Pvusgā koomā yōgbo, la a pvus-ba ne Wēnd zoεga, n baood Wēnd yel-sōmdā a pugē, (A Naam zēkame).
2. A wilgda duum ne Pvusgā yudlem ning sēn be a pugē, la a yaa sabab n yaafd zūnuub bāanegā.

3. A wilgda koomã yōgb manegrã yudlem ning sēn be a pugē, la Puvsgã manegre, la Wënd zoεεga a pugē.
4. A wilgda zoe n zāag zūnuub bedā a sōmblemā sēn ta zīg ninga, bala a yaafda zūnuub bāanego.
5. Wilgdame ti zūnuub bedā, b ka paamd yaafgo sã n ka ne tuubgu.

(6254)

Wakat a nu wã, la arzūm n ti tāag arzūma, la Ramadaan n ti tāag Ramadaane, b yaafda sēn be b svkā ti ned sã n zāag zūub bedā

(107) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «الصَّلَاةُ الْحَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(107) – Yii a Abu Hurrayrat nengē- Wënd yard be a yīnga- ti Wënd Tēn-tvuma(Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) a ra yu n yetame: «**Wakat a nu wã, la arzūm n ti tāag arzūma, la Ramadaan n ti tāag Ramadaane, b yaafda sēn be b svkā ti ned sã n zāag zūub bedā**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã(Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) kōta kibare, ti firila a nu wã sēn puvsd yung la wīndgã, la arzūmã Puvsg rasm a yopoe fãa, la Ramadaana no-loeerã yvum fãa wã, a yaafda

zũnuub bãanegã sën be b svkã, la yaa sart ti b zãag zũnuub bedã, la sã n yaa zũnuub bedã, wala yoobã la rãamã yũubã yē pa yaafde sã n pa tuubgu.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Zũnuub-rãmbã b tara bãanego la bedã.
2. Zũnuub bãanegã yaafgã sartã yaa bedã zãagre.
3. Zũnuub bedã bãmb la zũnuub nins sãri wã sën rēglg sbgr a pugē dũni kaanē, maa pulen-wēng n wa a pugē Laahr raarã; ne namesgo, maa gēega, maa bugsgu, maa a soaba kãabgo, wala yoobo la rãam yũubu.

(3591)

Sagl-y y koambã ti b pvvse, ti b sã n wa tar yvwm a yopoe, la y pãb-ba Pvvsgã yĩnga ti b sã n wa yaa yvwm piig koamba, la y welg-b-ne taab svka, gãasē wã

(108) – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ

عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». [حسن] - [رواه أبو داود]

(108) – Yii a ‘Amr [bn Šv‘ayb nengē, ti yii a baabã nengē, ti yii a yaab nengē: a yeelame: Wënd Tēn-ntvumã, (Wënd pvvsg la A tigr be a yĩnga) yeelame:

«Sagl-y y koambã ti b pvvse, ti b sã n wa tar yvwm a yopoe, la y pãb-ba Pvvsgã yĩnga ti b sã n wa yaa

yuum piig koamba, la y welg-b ne taab svka, gāasē wā». [A be neere] - [A Abuu Daawuud n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puusg la A tigr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, tu zaoo ne baaba t'a sagl a koambā -roaop la pagba- tu b puuse, b yuumā sēn wat n ta yopoe, la a wilg-ba būmb ning sēn tar tulse ne-a sēn na n yals ne Puusgā. La b sēn wat n ta yuum piiga, yellā paasdame, rēnd b pābd-b lame b sā n maan n kuvg a pugē, la b welg-b taaba pī-gāagē wā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa kom-bāanegā wilgr dīinā yela taor tu b na n ka lebg baaligs ye, la sēn tug n pak n yude, yaa Puusgā.
2. Pābrā yaa sēn na zuglge, ka sēn na n nams ye, b sōmb n pāb-a-la pābr ning sēn tog ne a halhaalā.
- 3- Yaa sāri wā sēn ning a toaag ne būrkīndā gūusgu, la a pag sor sēn tōe n tall n kēng sāangā.

(5272)

(109) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمَدِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ}، قَالَ: حَمَدِي عَبْدِي، - وَقَالَ مَرَّةً: قَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، - فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(109) – Yii a Abu Hurayrat nengê, (Wënd yard be a yînga): m wuma Wënd Tën-tvumâ (Wënd puvsg la A tilgr be a yînga) t'a yetê: «Wënd yeelame, (A Naam zêkame); Mam pvu Puvsgâ Maam la M yambâ svka, boog a yiibu, la Mam yambâ, a sên kos bûmb ningâ fâa, M na kô-a, rënd Mam yambâ sâ n yeele: {Al-Hamdu lullaahu Rabbil- 'aalamiin, =Pêgr tiging be ne Wênde sên yaa bôn-naandsâ Naabâ}. la Wënd sên yete: Mam yambâ pêga Maam. La a sâ n yeele: {Ar-Rahmaani Arrahumi, =Sên yaa dûni gûbg-n-yols Naabâ, n yaa yaoolem raar welg-n-yols Naabâ}, La Wënd sên yete: Mam yambâ soesa Maam. La a sâ n yeele: {Maaluki yawmu addiin, = n yaa dîinâ rolb raar Naabâ}, la A sên yete; Mam yambâ waoga Maam. La Nabiyaamâ

yeela noor a yembre: Mam yambã ruka a yellã n boblg Maam. La yambã sã n yeele: {Iyyaka na' 'abudu wa iyyaka nasta' 'iin= Foo bal la d tũuda, la Foo bal la d kot sõngre}, la A sën yete: wã yaa Maam la M yambã svka, la Mam yambã sën kos bũmb ningã a na paame.

La a sã n yeele: {Ihdinaa'ş-şuraatã al-mustakum Şiraatã'lladuna an' amta 'alayhim, gayril-mag duubi 'alayhim wala'dđaaallun =kãndg-d n tvg so-turgẽ wã; Fo sën maan neemã n kō-b rãmbã sorã, zëng sën pa b sën gẽ-b rãmbã la sën menemdbã sorã ye}, la Wënd sën yete: wõnde yaa Mam yambã nengẽ, la Mam yambã sën kos bũmb ning n rat fãa gilli, a na paame».

[A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yĩnga) kōo kibare ti Wënde, (A Naam zëkame), A yeela hadiis Al-kudsy puga: M puı alhamdã svura Puvsgẽ wã, Maam la M yambã svka puvuk a yiiba, puvuka a yembr yaa Maam n so, ti yënda so puvuk a to wã.

Rënd rënem puvukã yaa pëgbo la soeesgo la zısg ne Wënde, ti M na n rol-a gom-kãngã rolb sën be neere.

La puvuk a yiib soaba: yaa lebs-m-menga la doaag bõosgo, ti Mam na n reeg-a la M kō-a a sën kos-a.

Rënd Puvsd sã n yeele: (Al-Hamdu lillaat Rabbil-
 ‘aalamiin.(Pëgr tiging be ne Wënd sën yaa bõn-naandsã
 Naabã). La Wënd sën yete: Mam yambã pëga Maam. La
 a sã n yeele: Ar-Rahmaani Arrahumi. (Sën yaa dūni
 gūbg-n-yols Naabã, n yaa yaoolem raar welg-n-yols
 Naabã, la A sën yete: Mam yambã pëga Maam la a reeg
 a zugē ne Mam sën maan neemã n gūbg bõn-naandsã. La
 a sã n yeele: Maalkı yawmı addiin. (n yaa dīinã rolb raar
 Naabã), la Wënd sën yete: Mam yambã zısga Maam, yē
 me la zugund la zıslem sën yaa yalengã.

La a sã n yeele: iyyaka na' ‘abudu wa iyyaka
 nasta'‘iin (Foo bal la d tūuda, la Foo bal la d kot sōngre),
 la Wënd sën yete: wāndı yaa Maam ne M yambã soka.

Rënd rēnem puvkã Aayar-kāngã pugē yaa
 Wënd n so rēnda, la rēnda la "iyyaka na' ‘abudu"
 (Foo bal la d tūuda) yē me yaa reeg-m-zugē tı sobēnd
 tūudgã yaa Wënd, la sak n maan a tūudumã, rēnd zī-
 kāngã la pëgr ning Wënd sën so wã seta.

La Aayarã puvk a yiibã soabã yē yaa yambã n so:
 iyyaka nasta'‘iin (la Foo bal la d kot sōngre). Yaa sōngr
 kosgo Wënd nengē, la A sën pulem t'A na n sōngame wã.

La yambã sã n yeele: (Ihdinaa'sşıraata al-
 mustakum Siraata'lladuna an‘amta ‘alayhim, gayril-
 mag duubi ‘alayhim wala'ddaallun) kändg-d n tug so-

turgē wā*; Fo sēn maan neemā n kō-b rāmbā sorā, zēng sēn pa b sēn gē-b rāmbā la menemdbā sorā ye). Wēnd yetame: wōndı yaa lebs-m-menga la bōosg sēn yi yambā nengē, la Mam yambā sēn kos būmb ningā a na paame, rēnd M reega yambā kosgo.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Alhamdā suura yellā sēn ta to-to, la Wēnd pud-a lame, (A Naam zēkame) tı (Puusgo).
2. Yaa vēnegr ne Wēnd ning-m-toaagā ne A yambā, A sēn pēg-a, a pēgrā la a soeesgā la a zısgrā yīnga, la A pulm-a t'A na n kō-a lame a sēn kosā.
3. Suur wagell-kāngā gūbga Wēnd pēka la lebenga zīig yell tēegre, la Wēnd bōosgo, la A tūuduma yulge ne Wēnd A yembre, la kāndgr kosgo n tug sor turga, la bugs n yi soy nins sēn yaa zīri-beedā.
4. Puusd sā n tēeg hadiis-kāngā, a sēn wat n karemd Alhamdā, paasd-a-la Wēnd zoεega a Puusgā pugē.

(65099)

Ad alkaool ning sēn be tōnd ne b svka, yaa Puvsgā, rēnd ned ning sēn bas-a, a kɩflame

(110) – عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». [صحيح] - [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]

(110) – Yii a Bvrayda nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tvumā, (Wēnd puvsg la A tɩlgr be a yīnga) yeelame: «Ad alkaool ning sēn be tōnd ne b svka, yaa Puvsgā, rēnd ned ning sēn bas-a, a kɩflame». [A manegame] - [A At-tirmiziy la a An-nasaa'iy la a Ibn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tɩlgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, tɩ ad alkaoolā ne no-rɩkra lɩslaambā la neb a taabā svka, sēn yaa kɩfr-rāmb la munaafigsā, yaa Puvsgo, rēnd ned ning sēn basa Puvsgā, a kɩflame.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wilgda Puvsgā yellā zɩslem sēn ta zīig ningā, rēnd wilgdame tɩ yaa yēnda la sēn welgd sɩd-kōt la kɩfr sukā.
2. Wilgdame tɩ lɩsloongā buvdā tabendame ne sēn vēneg nedā yung tɩ b neē wā, la ka sēn be a pugē wā ye.

(65094)

(111) – عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرِكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(111) – Yii a Gεεbir nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: m wvma Wēnd Tēn-tvuma (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) t'a yetē: «**Ad bũmb ning sēn be ne ned la lagem-n-taarā la kifēndā svka, yaa Puvsg basbo**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) bugsame n yi Puvsg a nu wã sēn yaa farilã basbo, la a kō kibare ti sēn be raoa la kifēndā la lagem-n-taarā svka yaa Puvsgã basbo, rēnd Puvsgã la zeng-raad a yiib soaba sēn be lɪslaangã zeng-raad pusē, rēnd a yellã yaa zɪsgo, rēnd ned ning sēn bas-a n kUSD t'a yaa tɪlae wã, yē soaba kɪflame, woto yaa lɪslaambã no-sure. La a sã n bas-a zãnga, n ka puvsdē, ti yaa a yellã faagre la kvungo yē me yaa kifre, togsg waame ti sahaabsã suga taab noor ne rēnda. La sã n mikame t'a basda wakat ninga la a puvsd wakat sãnda, rēnd yē soaba sã n ka gũusi, a paamda pɪlen-wēng sēn yaa kεgenga.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgda Puvsgã yellã sën ta zïig ningã la a gũusgã, ti yaa yēnda la sën welgd kifēnd la lumaoong sukã.
2. Hadiisã maanda bugsg kegenga n yi Puvsg basbo la a yeebgo.

(65093)

A Bilaale, yals Puvsgã, pems-d ne-a

(112) – عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل: ليتني صَلَّىتُ فاسترحتُ، فكأنهم عابوا ذلك عليه، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «يا بلالُ، أقم الصلاة، أرحننا بها». [صحيح] - [رواه أبو داود]

(112) – Yii a Saalim [bn Abu Ge'id nengē, a yeelame, ti raoa n yeele: m sã n paam n puvse, n vuuse, ti yaa wala neb nins sën be ne-a wã, b zanga yel-kāngã t'a yeele : m wuma Wënd Tën-tvuma, (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: «**A Bilaale, yals Puvsgã, pems-d ne-a**».

[A manegame] - [A Abuv Daawvud n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Rao n zīnd sahaabsē wã n yeele: m sã n paam n puvse, n vuus yã, ti yaa wala neb nins sën be ne-a wã, b zanga yel-kāngã, t'a yeele: mam wuma Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: Bilaale! Tak laandāanã la f yals Puvsgã ti d paam n vuus ne Puvsgã, la sën yet rēndã wã yaa būmb ning sën be Puvsgã pugē sën yaa sōsg ne Wēnde, n leb n yaa vuusg ne yōorã la sūurã.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Sūurã vvusgã a yita ne Pvusgã, bala Wënd sōsg-n-taar n be beenē, (A Naam zēkame).
2. Bee hadiisã pugē kisgri ne ned ning sën tara kvung ne Pvusgã.
3. Wilgdame ti ned ning sën wa n maan waagib ning sën be a zugã, la a rok būmb ning sën be a zugã n base, a paamda vvusgo la yīn-yōgnego.

(65095)

Pvusg pa be ne ned ning sën pa karma Gafã pakdgã ye

(113) – عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(113) – Yii a ‘Ubaadat [bn Şaamit nengē, (Wënd yard be a yīnga) ti Wënd Tën-tvumã (Wënd pvusg la A tulgr be a yīnga) a yeelame: «**Pvusg pa be ne ned ning sën pa karma Gafã pakdgã ye**». [A manegame] [A Al-Bvħaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd pvusg la A tulgr be a yīnga) vñegdame n wilgdē, ti Pvusg ka manegde, rëndame ti b karema Al-Hamdo, rēnda yaa zeng-raoogo sën be Pvusgã zeng-raadē, rakaar fāa pugē.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Kareng zēng ka be sën tōe n sek Al-Hamdã zīigē ye, ti f sã n tōe n karem-a.
2. A wilgdame ti rakaar ning Al-Hamdã sën ka kareme ti sãamame, ti sã n yaa pu-toogo, maa f yaa zita, maa f yīmame, bala a yaa zeng-raoogo, zeng-raad me pa lute sën wa n yaa yale ninbg fãa.
3. Al-Hamdã kareng lutame n bas Al-maamuuni (sën be b poorē wã) t'a sã n paam limaamã t'a surē.

(5378)

m wften ne mam yōard ōn be A Soab Nigħ wā, ad maam pwoğ n yor wōng ne Wënd Tñn-bwim3 (Wënd pwoğ la A tñgr be a yñga) Pwoğ, ne yñmbo, lo ad a Pwoğ rag n do yaa woto bala, hali 'a wa bas dñe

(114) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يَكْبَرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يَكْبَرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَكْبَرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يَكْبَرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِتْنَتَيْنِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ، حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَقْرُبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. [صحيح] - [متفق عليه]

(114) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wënd yard be a yñga): T'a ra yume (Wënd pwoğ la A tñgr be a yñga) n

maan "Allaahu Akbaru" Puvsg fãa sën yaa tilae la zëng sën ka tilae, Ramadaanã pugë la zëng sën ka Ramadaane, rënd a yetame ti "Allaahu Akbaru" a sën wat n yik n yalsã, rë poorë t'a yeel "Allaahu Akbaru" a sën wat n tiuul rukuë wã, rë poorë t'a yeel "Sami Allaahu luman Hamidah", rë poorë t'a yeel "Rabbanaa walakal hamdu" taoor t'a na n ka maan suguudu, rë poorë t'a yeel « Allaahu Akbaru" a sën wat n sulgdë n na n maan suguudã, rë poorë t'a yeel "Allaahu Akbaru" a sën wat n rōogd suguudë wã, rë poorë t'a yeel "Allaahu Akbaru", rë poorë t'a yeel ti "Allaahu Akbaru" a sën wat n roog n yit suguudë wã, rë poorë t'a yeel "Allaahu Akbaru" a sën wat n zīnd rakaar a yīibã n na n yikã. A maanda woto rakaar fãa gill pugë, halt ti Puvsgã wa sɛ.

Rë poorë t'a Abuu Hurayrat yeel a sën wa n rat n loogã: "m wëen ne mam yōorã sën be A Soab Nugë wã, ad maam puvsgã n yud wōneg ne Wënd Tën-tumã (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) Puvsgã, ne yãmba, la ad a Puvsg rag n da yaa woto bala, halt t'a wa bas dūni". [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

A Abuu Hurayrat kōta kibare, pedg sën yi Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) Puvsgã bilgri, la a kōt kibare ti Nabiyaamã ra yume t'a sã n na n puvse, a yetame ti "Allaahu Akbaru" a sën wat n yik n yalsã, ti

yaa Puvsgã pakr Allaahu Akbaru la rē, rē poorē a yetame ti "Allaahu Akbaru" a sēn wat n rabd rukuu wā, la a sēn wat n na n maan suguudu, la a sēn wat n roogd suguudē wā, la a sēn wat n maan yiib soab suguudā, la a sēn wat n roogd a zugā n yi beenē, la a sēn wat n yikd rēnem rakaar a yiibā a sēn zīnd poorē n na n kēng tāabā, zem ti yaa Puvsg sēn tar rakaar a tāabo, maa a naasā, rē poorē t'a maan woto Puvsgã fāa gilli, halı t'a tug n se, la a ra yume n yetē a sēn wat n roog a poorā rukue wā: "Sami‘ Allaahu luman Hamidah", rē poorē t'a yeele t'a yaa sēn yase: 'Rabbanaa walakal hamdu".

Rē poorē t'a Abuv Hurrayrat yeel a sēn wa n rat n loogā: m wēen ne mam yōorā sēn be A Soab Nugē wā, ad maam puvsgã n wōnd Wēnd Tēn-tuvum (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) Puvsgã n yud yāmb, ad a Puvsg rag n yaa woto bala, halı t'a wa bas dūni.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. "Allaahu Akbaru" wā yta sulgr la roogr fāa wakat, sã n ka a sēn wat n na n roog n yi rukuu wā, beenē a yetame: "Sami‘ Allaahu luman Hamidah".
2. Şahaabsã sēn tar nong kegenga ne Nabiyaamã (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) tikrã la a Sūnnah gūusgu.

(65098)

B sagla maam tu m maan suguud kōb a yopoe zugu

(115) – عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكُفَّتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(115) – Yii a [bn ‘Abbaas nengē (Wënd yard be b yیبā yīngā), tu yii Nabiyaamā nengē, (Wënd puvsg la A tulgr be a yīngā) a yeelame: «**B sagla maam tu m maan suguud kōb a yopoe zugu: rīrē wā, la a rik a nugā n tees a yōorē, la nus a yیبā, la rūm a yیبā, la na-kugā kuremse, la d ra kool d futā la d zoobdā ye**». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tulgr be a yīngā) vēnegame ti Wënd sagl-a lame t'a maan suguud yīn-wil a yopoe zugu, la bāmba me:

Rēnem: yaa rīrā: yē me la nengā, sēn be yōora la nin a yیبā yīngrā, La Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tulgr be a yīngā) rik a nugā n tees a yōorā, n wilgdē ti rīrā la yōorā yaa yīn-will a yembr sēn be yīn-wil a yopoe wā pvgē, la leb n kengd ti suguud maan yōorā sōmb n susa tēngā.

Yĩn-wil a yĩib soab la tãab soaba: yaa nus a yĩibã.

Naas la nu soaba: yaa rũm a yĩibã.

Yoob la yopoe soaba: yaa na-kãdem a yĩibã no-biisã.

La a sagl tõnd ti d ra sēbg d zoobdã maa d kool d futã
suguudã maaneg sasa, n rat n na n gũus-a ti ra ta tēngã ye, b
basd-b lame ti b ta tēngã n maan suguud n lagem yĩn-wilã.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Wilgdame ti yaa tilae ti b maan suguud yĩn-wil a yopoe wã zugu.
2. Kisame ti ned wa kool a fuugu la a kok a zoobd Puusgē wã.
3. Yaa tilae ne puusda t'a tall yĩn-yōgneg Puusgē wã, la rēnda yaa a sēn na n rıgl Puusgã yĩn-wil a yopoe wã tēngã, n tabl beenē, halı n wa tug n yeel kareng ning sēn yet be wã gilli.
4. Sēn gidg ti b ra kok zoobdã yaa raoapã bala, ka lagem pagbã ye, paga a Puusg pugē, b sagla yēndã t'a lud a yĩnga.

(10925)

(116) – عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَزَّرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً -يَعْنِي الْبَدْرَ- فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأَ: «رُؤْيَاكُمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ الْغُرُوبِ» [صحيح] - [متفق عليه]

(116) – Yii a Gerur [bn ‘Abdullaah nengē, (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Tōnd rag n bee Nabiyaamā nengē, (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) t'a ges n tvg kiuugā yvngo -rat n yeel t'a rasem piig la a naasā raare-n yeele: « Ad yāmb na n yāa y Soabā, wala yāmb sēn ne kiu-kāngā wā, la yāmb ka maand sik a yāabā pugē, la yāmb sā n tvlla t'a ra wa pōsg yāmbā, bi y puvsg taoor tu tu wīndgā na n ka puki la taoor t'a na n ka lvi, bi y maane». Rē poorē t'a kareme: «{la f yulg f Soabā yvvrā ne pēka, taoor tu wīntoog na n pa puki, la taoor t'a na n pa lvi ye}». [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Sahaabsā (Wënd yard be b yīnga) ra yume n be ne Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) yvng a yembre, t'a ges kiuugā -rasem piig la a naas yvngo- n

yeele: Ad muunim-rāmbā na n yāa b Soabā, sid-sıda, ne nini, ti ka tū ne liibg ye, la ad ka na n yi sēk ne bāmba, yaams ka n paam bāmba, toog ka na n paam-ba A gesgā wakatā (A Naam zēkame). Rē poorē tu Wēnd Tēntuma, (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) yeele: Tu yāmb sā n tōog n wāag sabab-rāmb nins sēn na n gudg yāmbā n yi Fagir la Laansar Puusg bi y maane, la y puus b yiibā ti b yaa sēn pidi, b wakatē wā ne zāma, ti ad rēnda yaa sabab-rāmb nins sēn kut ti y tōog n tug n yā Wēnd Nengā (A Naam yi wagell n zēke), rē poorē tu Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) karem Aayarā: {La f yulg f Soabā yvvrā ne pēka, taoor ti wīntoog na n pa puki, la taoor t'a na n pa lvi ye}.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa sū-noog kūuni ne sid-kōtbā ti b na n yāa Wēnde, arzānā puga, (A Naam zēkame).
- 2- Sēn be Da'wa wā na-kēndrē: yaa sū-noog kūuni la masaal-rāmbā bilgr ne makre.

(5657)

(117) – عن جُنْدُب بن عبد الله القَسْرِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبُكَمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(117) – Yii a Gundub [bn Abdullaah Alkvsayry nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tvumā (Wēnd pvs̄sg la A tlḡr be a yīnga) yeelame: "Ned ning sēn wa n pvs̄sa fagirā, yē soab bee Wēnd gūudum pvgē, sã n yaa woto, b̄i y modg t̄i Wēnd ra wa bao yāmba A alkaoolē wã n ka yã ye, t̄i ad ned ning Wēnd sēn wa n bao A alkaoolē, A paamd-a lame, rē poorē t'A fūgun a nengã Gēhannem Bugmē wã". [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wēnd pvs̄sg la A tlḡr be a yīnga)kōta bikar t̄i ned ning sēn pvs̄sa Fagirā, a soab bee Wēnd gūudum la A gūub pvgē, t̄i Wēnd t̄usd wēng n yit-a la A sōngd-a.

Rē poorē t̄i Nabiyaamã (Wēnd pvs̄sg la A tlḡr be a yīnga) bugs nebã, t̄i b ra wa tv̄g n yidg alkaool-kāngã ye, zem t̄i yaa fagirā Pvs̄sg basgo, maa yaa fagir pvs̄sd la fo na n tv̄g n maan wēnga, ad ned ning sēn maana rēnda a soaba pargã gūudum-kāngã, n sōmb ne puleng wēng

ning sēn yaa kegenga, rē la Wēnd sēn na n kut t'a wa ne bumb ninga a sēn maan kvung Wēnd hakeē wā, la Wēnd sēn bao a soab me, A na n paam-a lame, rē poorē t'A rik-a n fūgun a nengā zugu Bugmā pugē.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wilgda fagir Pvusg sēn pak n ta zīg ningē la a yel-sōmdā.
2. A maanda bugs kegenga, tū b ra wa tug n maan wēng ne ned ning sēn pvusd fagir ye.
3. A wilgda Wēnd sēn maan n rond ned ning sēn wat n yekd Wēnd nin-sōmbsā ne wēnga.

(5435)

Ned ning sēn basa Laasar Pvusgo, a tvvm lvume

(118) – عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: بَكَّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(118) – Yii a Bvrayda [bn Al-haşub nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Yāg-y n pvus Laasare, tū Nabiyaamā (Wēnd pvusg la A tūlgr be a yīnga) yeelame: «Ned ning sēn basa Laasar Pvusgo, a tvvm lvume» [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yĩnga) bugsame ti b ra wa yaoolg Laasar Puvsg n yi a wakatã ye, pu-toog yĩng ye, la ned ning sën maana rënda, a tumã sãamame n lebg zaalem.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa pirsg ti b gūus Laasar Puvsgo, a wakat rëengã, la b yãg n maan rënda.

2- Puleng kegeng ning sën be bēenē ne ned ning sën basa Laasarã Puvsgo, la a wakatã pōsg-a, yēnda yel-bedr n yud wakatã fāa sën na n pōsg foom, bala yaa yēnda la tēng-n-sugr Puvsg ninga Wēnde -A Naam yu wagelle- sën sagl ti b puus-a, A koεεg sën yeele: {Gūus-y Puvsg-rāmbã la Tēng-n-sugr (Laasarã) Puvsgã la y yānes ne Puvsgã Wënd A Ye yĩnga ti y yaa gāneg-m-mens rāmba} [Albakara: 238].

(6261)

Ned ning sën yīma Puvsgo, bi a puvs-a a sën wa n tēege, a ka tar sën na n maan n role, sã n ka woto ye

(119) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤]». [صحيح] - [متفق عليه]

(119) – Yii a Anass [bn Maalik nengē (Wënd yard be a yĩnga): ti yii Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tulgr be

a yĩnga) t'a yeelame: «**Ned ning sēn yīma Puvsgo, bu a puv-s-a a sēn wa n tēege, a ka tar sēn na n maan n role, sã n ka woto ye: {yãnes Puvsgã Mam yuvrã tēegr yĩnga}: [Tohhaa: 14]**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tilgr be a yĩnga) vënegame ti ned ning sēn wa n yīma farila Puvsgo, a wakatē wã, bee ne yēnda t'a yãge a sēn wat n tēeg-a, rënd yēesg ka be, sēn tōe n yēes yē basgã zūnuuba, sã n ka a puv-s-a a sēn wat n tēeg-a, Wënd yeela A Gaf Wagellã pugē: {yãnes Puvsgã Mam yuvrã tēegr yĩnga}: [Tohhaa14]". Rat n na n yeele: Yals Puvsg ning fo sēn yīmã, ti fo sã n wa tēege.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. A vënegda Puvsgã yell sēn ta to-to, la b ra maan yam yaal-yaale, a puvsgē wã la a rolbē wã ye.
2. Ka sōmb ti b yaoolg Puvsg n yi a wakatē wã ne pu-toogo, ti ka tū ne padang ye.
3. La wilgdame ti yaa tilae ne ned ning sēn yīma Puvsgo, bu a rol-a a sēn wat n tēege, la gōeta t'a sēn wat n neke.
- 3- Wilgdame ti yaa tilae ti b yao Puvsg nins sēn pōsa tuul-tuulle baa ti yaa wakat-rãmb nins b sēn gidg ti b puv-sã.

(120) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُنْطِيقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ نُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(120) – Yii a Abu Hurayrat nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd-tëntvum yeelame (Wënd pwvs A la tilgr be a yīnga): «Ad Pwsg sēn yud toog munaafigsā zutu, yaa Sāaf la Fagiri, la b sã n dag n mi sēn be b yiibã pugē, b rag n na wa n pwvs-ba, baa b na n vūnumame, la mam rag n saagame n na n kut ti b yals Pwsgā, rē poorē ti m sagl ned t'a pwvs ne nebā, la m loog ne neba ti b zāad bug-vulense, n kēng neb nins nengē sēn ka wat n seed Pwsgā, n yōog-ba ne b rotā». [A manegame] [A Al-Bvḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd pwvs la A tilgr be a yīnga) kōta kibare, n togsd munaafigsā yelle, la b sēn maan kvungo ne Pwsgā waoongē, sēn tvug n yuda, Sāaf la Fagir Pwvsgo, la b sã n rag n miē keoor la yel-sōmd nins sēn be b yiibã pugē, wa lagem lɪslaambā zāma n Pwvsā, b rag n na waē, baa b na yīgimd wala biig sēn yīgimd ne a nusā la a rūmā.

La sid la hakuka, Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yïnga) saagame n na n sagl ti b yals Puusgã, t'a ning ned t'a yï lumaam n leds Nabiyaamã, n puus nebã, rë poorë t'a looge, ti neb be ne-a, n zãad ra-kila, n këng neb nins sën ka seet zamã wã Puusgã, n tvg n yöog b zagsã ne bugmã, b sën maan bumb ning sën yaa zũnuubã keelem, la a ka maan rënda ye, bala bee zagsë wã sën yaa bãad-rãmba, la koamba, sën ka tar zũnuuba la zëng sën ka bãmba, sën yaa padams rãmba, zũnuub ka be b zug ne zãma Puusg paab ye. La sid la hakuka, Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yïnga) saagame n na n sagl ti b yals Puusgã, t'a ning ned t'a yï lumaam n leds Nabiyaamã, n puus nebã, rë poorë t'a looge, ti neb be ne-a, n zãad ra-kila, n këng neb nins sën ka seet zamã wã Puusgã, n tvg n yöog b zagsã ne bugmã, b sën maan bumb ning sën yaa zũnuubã keelem, la a ka maan rënda ye, bala bee zagsë wã sën yaa bãad-rãmba, la koamba, sën ka tar zũnuuba la zëng sën ka bãmba, sën yaa padams rãmba, zũnuub ka be b zug ne zãma Puusg paab ye.

Sën be Hadiisã yöod-rãmbë:

1. Wilgda bas Puusg ne zãma misrë wã, yell bedr ning sën be a pugë wã.

2. Munaafigsã, b ka rat ne b tūudmã rēnda maan-ti-b wume, la maan-ti-b-yã, rēnd b ka wat Pvusgē rēnda wakat ning nebã sēn wat n ne-ba.
3. Wilgda yel-sōmdã bedrem sēn be sãanfã la Fagirã lagem zãma n pvusã, la b yiibã sōmbame ti b wa-ba baa ti sã n yaa yīgimdgu.
4. Wilgdame ti tōog n gūus Sãanf la Fagir Pvusgã a tulgda ned n yi munaafiglem, la pa n ka wa b yiibã yaa munaafigsã zugdo

(3366)

Wënd Tën-tvmã (Wënd pvsg la A tulgr be a yīnga) ra yume t'a sã n roog a poorã n yi rukuē wã Pvusgã pvgē, a yetame: «(Sami' Allaah luman hamidahv

(121) – عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(121) – Yii a [bn Abu awfaa nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tën-tvmã (Wënd pvsg la A tulgr be a yīnga) ra yume t'a sã n roog a poorã n yi rukuē wã Pvusgã pvgē, a yetame: «(Sami' Allaah luman hamidahv, Allahumma Rabbanaa lakal-hamd, mil'v-ssamaawaatu wal Ardi, wa mil'v maa si'ta min say'in ba'ad». = Wënd wuma ned ning sēn pēg-A wã, d Soab a Wēnde pēgr be ne Fo, sēn pit saasã la tēngã, la Fo sēn tvll bumb ning fãa gilli». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) ra yume t'a sã n roog a poorã n yi rukuu wã Puusgã pugẽ, a yetame: (Sami´ Allaah luman hamudahuv), rat n yeele, ti ned ning sën pëga Wënde, (A Naam zëkame), Wënd reegda rënda a yĩnga, la A reeg a pëgrã la A kō-a yel-sōmde, rë poorë, Nabiyaamã rag n yume n pëgd Wënde, n yetë: "Allaahumma rabbanaa lakal-hamdu, mil'v-s-samaawaati wal Ardi, wa mil'v maa s'ita min say'un ba'ad= d Soab a Wënde pëgr be ne Fo, sën pit saasã la tēngã, la Fo sën tull bumb ning fãa gilli".

Sën be Hadiisã yōod-rāmbë:

1. A wilgda bumb ninga b sën bu nonglem ti puusd yeel-a t'a sã n wa roog a zugã n yi rukuu wã.
2. Sãri wã sën maan ti b tēeg turga la b yōgne b yĩnsi b sën wat n roog n yi rukuu wã, bala b ka tōe yeel Wënd yuurã tēegr-kāngã rënda a sën wat n yals n tēeg turga n yōgn yĩnsa.
3. Doaag-kāngã yeelgo b kōo sor ne-a, Puus-rāmbã fãa pugẽ, zem ti yaa faril maa naafula.

(65101)

(122) – عن حُدَيْفَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي». [صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد]

(122) – Yii a Huzayfat nengē, (Wënd yard be a yīnga): Tı Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tılgr be a yīnga) ra yume n yet suguud-rāmb a yیبā svka: «**Rabbı ıgfır lu, Rabbı ıgfır lu= (M sooba! Yaaf-ma. M Sooba! Yaaf-ma)**». [A manegame] - [A Abuv Daawuvd ne a An-nasaa'iy la a Ibn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tılgr be a yīnga) ra yume n yetē, a sēn wat n zīnd suguud a yیب ne taab svka: "Rabbı ıgfır lu, Rabbı ıgfır lu,= M Sooba! Yaaf-ma. M Sooba! Yaaf-ma" la a yilemd-a.

La "Rabbı-gfır lu" wā maana: yaa yambā sēn baood a Soaalā nengē t'A yēes a zūnuub-rāmbā la A lud a zamsā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa Sāri wā sēn maan doaag-kāngā tı b yet-a suguud a yیبā ne taab svka, farilā Puvsg pugē la naafilā.
2. Yaa sēn wilgd tı b buv nonglem tı b yilem yeelg: "Rabbı-gfır lu", (M Sooba! Yaaf-ma), la a tulae wā yaa vugri.

(123) – عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدين: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وارْحَمْنِي، وعافني، واهديني، وارزقني». [حسن بشواهده] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(123) – Yii a [bn Abbaas nengē, Wënd yard be b yīibā yīnga: Nabiyaamā ra yume (Wënd pvsug la A tilgr be a yīnga) n yet Suguud a yīibā svka: «Allahumma lgrf-lu, warham-nii, wa ‘aafi-nii, wahdi-nii, warzuk-nii». [A bee neere, sã n na n ges a taabã] - [A Abuv Daawvud la a At-turmiziy la a [bn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamā ra yume (Wënd pvsug la A tilgr be a yīnga) n kot suguud a yīibā svka a Pvsugē wã ne kos-kãensã b nu wã, lslaam sën tar tolsem ne-ba tolsem sën yaa wvsgo, a tigma dūni la Laahr yel-sōmã, sën yaa yaafa kosgo la zūnuub-rãmb svtra la gãndg n bas-ba, la yolsgã kiigri, la laafi n yi yel-gēdse la yōor yamleedo la bãasã la zabdmã, la kos Wënd t'A peeg n tvug sidã la tablg sōngã zug, la ritlã sën yaa lumaango la bãngre la tvvm sōmbse, la arzek sën yaa halaal n yaa yilemde.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa sāri wā sēn kō sor ne doag-kāngā zīndg ning sēn be suguud a yiiibā sukā pugē.
2. Kos-kānsā yudlmā ne a sēn tigim dūni la laahr yel-sōmā.

(10930)

Yāmb sā n na n pwse, bu y tēeg y saf-rāmbā turga, rē poorē bu y yāk y ned tu y limaam, a sā n yeelē: "Allaahv Akbarv

(124) – عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْرَتِ الصَّلَاةُ بِالرِّبِّ وَالرَّكَاهِ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ فُلْتَهُمَا؟ قَالَ: مَا فُلْتُهُمَا، وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا فُلْتُهُمَا، وَلَمْ أَرُدْ بِهَا إِلَّا الْحَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَوْمِكُمْ أَحَدَكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمْ اللَّهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَعَيْتُكَ بِتَيْلُوكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَعَيْتُكَ بِتَيْلُوكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ»

التَّحِيَّاتِ الطَّيِّبَاتِ الصَّلَوَاتِ بِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(124) – Yii a Huttaan [bn Abdvllaah Ar-rafaasy nengē, a yeelame: mam puvsa ne a Abuv Muusa Al-as'ary Puvsg ninga, la a sēn wa n be zīndigā zīgē wā, n na n maan sahdā, la ned sēn zīnd nebā svka n yeele: " b tōka Puvsgā ne manegr la Zaka Alkurāanā pugē". La a Abuv Muusa sēn wa n se Puvsgā n ning sallemā, a wēnegame n yeele: " yaa āna la sēn yeel gomdā woto la woto wā?" Tī nebā sīnda. T'a leb n yeele:"yaa āna la sēn yeel gomdā woto la woto wā?" Tī nebā le sīndi. T'a Abuv Muusa yeele: " Tōeeme tī yaa foom la sēn yeelā Huttaane". T'a Huttaan yeele:" mam ka yeel-a ye, la mam ra yeesdame tī fo na n rik-a lame n rolg maam". Tī ned zīnd nebā svk n yeele: "yaa maam la sēn yeel-a wā, la mam rag n ka rate rēnda neer bala". T'a Abuv Muusa yeele: "Yāmb ka mi būmb ning yāmb sēn yet Puvsgā pugē laa? Ad Wēnd Tēn-tumā (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) a goma ne tōndo, n vēneg tōnd d na-kēndrā n kō-do la a wilg tōnd d Puvsgā, n yeele: «**Yāmb sā n na n puvse, bi y tēeg y saf-rāmbā turga, rē poorē bi y yāk y ned tī yī limaam, a sā n yeele: "Allaahv Akbarv" bi yāmb me yeele: " Allaahv akbarv". A sā n yeele: {Ṣiraatall-lazuna an-'amta 'alayhim gayril-magdvbi 'alayhim wala-dḍaallun (La pa Nasar-dāmba la Yahuud-rāmba sor ye)}** [Ṣvratv

Al-faattha : 7], bi y yeel: "Aamiina". Tı Wënd reegda y yĩnga. A sã n yeele Allaahv Akbarv n maan Rukuu, bi yãmb me yeel Allaah akbarv n maan Rukuu wã. Bala limaamã a rengda yãmb n zõondë, la a leb n reng yãmb n rooge, ti Wënd Tën-tvumã (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga) yeele: "rënd wãnde yaa wa wãnde". la a sã n yeele: «Sami‘a Allah luman hamudah», bi y yeel: "Allaahumma Rabbanaa wa lakal-hamdu", ti Wënd wumda y yĩnga. Bala Wënde, (A Naam yulgame n zëke), A yeelame, sën tũ ne A Nabiyaamã zelemde, (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga): «Sami‘a Allah luman hamudah» (Wënd wuma ned ning sën pëg-A, la a sã yeel Allaahv Akbarv n maan Suguudu, bi yãmb me yeel Allaahv akbarv n maan Suguudu, bala limaamã a rengda yãmb n sulgi la a reng yãmb n rooge, ti Wënd Tën-tvumã (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga) yeele: "rënd zĩ-kãngã maanegã yãmb me maanda maan-kãngã", la a sã n be zĩndigë wã bi yãmb rëenem koεg y: Attahı yaatv, atıybaatv, aṣṣalawaatv lillaahi, Assalaamu Alayka Ayyvhanabiyyv wa rahmatullaah wabarakaatvuvv, Assalaamv ‘Alaynaa, wa ‘alaa ‘ibaadillaah Aṣṣaalihuna, Aṣṣhadv an laa'ulaaha ıllallaah, wa Aṣṣhadv Anna Mvhammadan ‘Abdvuvv Warasvuvvuvv, (m maanda kaseto ti soab sën na n tũ n tigr ka be ti sã n ka Wënde, la m maanda kaset t'a Mvhammad yaa Wënd yamba la A Tën-tvuma)».
 [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Şahaabga a Abuu Muusa Al-as'ary (Wënd yard be a yĩnga) a puusa Puusg ninga, a sën wa n be zĩndigã zĩigẽ wã, b sën maandẽ sahdã, la ned sën zĩnd poorẽ wã n yeele: "b tōka Puusgã ne manegr la Zak Alkurãanã pugẽ". La a Abuu Muusa sën wa n se Puusgã, a togl puusdbã n sok-ba: "yaa ãna la sën yeel ti b tōka Puusgã ne manegr la Zak Alkurãanã pugẽ wã?! Tı nebã sĩnda, ned baa a yembr ka gom ye, t'a leb n yilem sokrã, rënd ned baa a yembr sën ka loekã, la a Abuu Muusa sën yeele: " Tōeeme ti yaa foom la sën yeelã a Hittaane". Bala a yaa a pēt-n-taaga la a tōk-n-taaga, rënd a Abuu Muusa rōdb pa namsd-a ye, la yaa sën na yl ti ned ning sën maanã hakukã sak n reeg a zugẽ ti yaa yẽ, rënd a Hittaan kusame t'a ka yeel ye, la a yeele: "la mam ra yeesdame ti fo na n sãbsa maam n tēed ti yaa maam n yeele. Tı ned zĩnd nebã suk n yeele: "yaa maam la sën yeel-a wã, la mam rag n ka rate rēnda neer bala". T'a Abuu Muusa yeele, n na n wilg-ba: "Yãmb ka mi bũmb ning yãmb sën yet Puusgã pugẽ laa?" Wãnde yaa b halhaalã kusgo, n neẽ ti woto rag n ka sōmb n yı ye, rē poorẽ t'a Muusa togs-ba ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) a goma ne bãmbã raar a yembre, n vëneg n wilg bãmbã

b sãri wã la a karem bãmbã b Puvsgã sën yet to-to, n yeele, (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga):

"Yãmb sã n na n puvse, bı y tēeg y saf-rãmbã turga, rē poorē bı ned zīnd yãmb svkã n puvus-ya, rënd limaamã sã n yeele: "Allaahu Akbaru", ninga sën kēed Puvsgã ne-a wã, bı yãmb me yeele: "Allahu akbaru" wala a sën yetã. A sã n karem Alhamdã n wa tãag: {Şuraatall-lazuna an-‘amta ‘alayhim gayril-magduubi ‘alayhim wala-d̄daallun (La pa Nasar-dãmba la Yahuud-rãmba sor ye)} [Suuratv Al-faatıha : 7], bı y yeel: "Aamiin". rënd yãmb sã n maan woto, Wënd reegda y kosgã la y tũudmã. A sã n yeele "Allaahu Akbaru" n maan Rukuu, yãmb me yeel Allaah akbaru n maan Rukuu wã. Bala limaamã a rengda yãmb n zõonde, la a leb n reng yãmb n rooge, bı y ra yãg ye, bala wakat ning limmamã sën reng yãmb n maan Rukuu wã, yaoogda yãmba tı y paam n yaoolg ruukuu wã, a sën roogã poorē bilfu, rënd reng-kãnga rolb la yaool-kãngã, tı yãmb rukuu wã woglem leb g wala yē rukuu wã woglem. La limaamã sã n yeele: «Sami‘a Allah lıman hamıdah», bı y yeele: "Allaahumma Rabbanaa wa lakal-hamdu". Rënd puvusbã sã n yeel woto, ad Wēnde, (A Naam yulgame), A wumda b kosgã la b koεgã. Bala Wēnde, (A Naam yulgame n zēke), A yeelame, sën tũ ne A Nabiyaamã zelemde: «Sami‘a

Allah luman hamıdah» (Wënd wuma ned ning sën pëg-A, la limaamã sã n yeel Allaahu Akbaru n maan Suguudu, bı sën be-b poorë wã me yeel Allaahu akbaru n maan Suguudu, bala limaamã a rengda bãmb n sulgi la a reng bãmb n rooge, rënd zĩ-kãngã maanegã bãmb me maanda maan-kãngã, ti limaamã suguudã woglemã me yı wala maa'muun-rãmbã suguudã woglem, rënd a sã n wa be zındigë wã, n na n maan sahdã, bı puvsdã rëenem koεeg yı: Attahı yaatv, atıaybaatv, aşşalawaatv lillaahi, Assalaamu 'Alayka Ayyvuhannabiiyv wa rahmatullaah wabarakaatvuvv, 'Assalaamv 'Alaynaa, wa 'alaa 'ıbaadullaah Aşşaalıhuna, Aşşadv an laa'ılaaha ulallaah, wa Aşşadv Anna Mvhammadan 'Abdvuvv Warasvuvvuvv, (Puvv-rãmb sën yaa yılgemd be ne Wënde, rënd Naamã la Kelgã la Zıslemã, fãa sõmba ne Wënd A Yembre, woto bala Puvv-rãmb a nu wã gilli, yaa Wënd A Ye yınga. Bı y kos laaftı n yı zang la boogr la sãang fãa, ad tõnd welga d Nabiyaamã a Mvhammad (Wënd puvvg la A tılgr be a yınga) ne puvvg la tılgre, rë poorë tı d puvv d mense, rë poorë tı d puvv Wënd yemb sõmsã, sën yas ne bũmb ning sën yaa tılae n zao b zugã, sën yaa Wënd hake-rãmbã, la A yembsã hake-rãmbã, rë poorë, d manda kaseto tı soab sën na n tũ n tılg ka be tı sã n ka Wënde, la d maanda kaset t'a Mvhammad yaa Wënd yamba la A Tën-tvuma.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Hadiisã wilgda buk sën yaa sahdã buk-rãmbã a yembre.
2. Puvsgã tuumã la a goamã yaa tlae ti yi ne bumb ning sën tablg n yi Nabiyaamã nengë (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga) rënd ka sakd ne ned baa a yembr t'a wa tug n sung bumb Puvsgã pugë, zem ti yaa koεega maa tuumde, sën ka tablg Sünnaħ pugë.
3. Wilgdame ti ka sakde ti b reng limaamã maa b yaoolg n pa tũ-a ye, la bumb ning säri wã sën kō sore ne sën be-b poorë wã, yaa b pugd limaamã a tuumë wã.
4. A togsda bumb ninga Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yïnga) sën da be a zugã, sën yaa ning-m-toaaga ne dïinã taasgo la a wilg a poorë rãmbã dïinã buvd-rãmba.
5. Limaamã yënda la tikda ne poorë rãmbã, rënd ka sōmb ne-a t'a reng limaamã Puvsgã tuumë, la pa sōmb ne-a me t'a wa tug n yeğend-a, ka sōmb ne-a me t'a wa yaoolg n bas-a ye, rënd a pugba sungr yta a sën wat n bång ti limaamã kēe tuum ning yë sën rat n maan-a pugë, la Sünnaħ yaa a pug-a a sën maan tuum ninga pugë.

6. A wilgda sãri wã sën maan tu b tēeg saf-rãmbã
Puusgã pugě.

(65097)

Wënd Tën-tvwmã (Wënd pvvsg la A tlgř be a yĩnga) wilga maam -tu mam tallã be a tal a yĩbã svka- Sahdã wala a sën wilgd maam svvrã Alkurãanē wã

(125) – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَّنِي بَيْنَ كَفَيْهِ، التَّشَهُدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وفي لفظ لهما: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(125) – Yii a [bn Mas‘vvd nengě, (Wënd yard be a yĩnga), a yeelame: Wënd Tën-tvwmã (Wënd pvvsg la A tlgř be a yĩnga) wilga maam -tu mam tallã be a tal a yĩbã svka- Sahdã wala a sën wilgd maam svvrã Alkurãanē wã: «**At-tahiyaatu Lillaahu, waş-şalawaatu waţ-ţaybaatu, assalaamu alayka Ayyuhannabiyu wa rahmatullaahu abarakaatuhu, assalaamu alaynaa wa ‘alaa ‘ubadullaah Aş-şaalihuna, ashadu anlaa-**

ulaaha ulallaahu, wa Ashadu anna Muḥammadan Abdūhūu wa rasūlūhūu».

La waa Al-buḥaari la Muslim pugē gom-biis a taaba, yeelame: «**Ad Wēnde, Yē la Tulgrā (Assalaamu) rēnd yāmb yembr fāa sā n zīnd Pūsgē wā, bi a yeele: «At-tahyaatu lillaahu, waṣṣalawaatu waṭ-ṭaybaatu, Assalaamu Alayka Ayyūhannabiiyu wa rahmatullaah abarakaatūhūu, Assalaamu ‘Alaynaa, wa‘alaa ‘baadullaah Aṣ-ṣaalthuna»**, rēnd a sā n yeel-a a yel-sōmdā tata Wēnd yamb sōng fāa sēn be saasē la tēngē, ashadu anlaa-ulaaha ulallaahu, wa Ashadu anna Muḥammadan Abdūhūu wa rasūlūhūu, rē poorē, a tūus yē sēn rat n na n bōos būmb ning fāa, n kose» [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pūsg la A tulgr be a yīnga) wilga a [bn Mas'ūde, (Wēnd yard be a yīnga) Sahd ning b sēn yet Pūsgē wā, la Nabiyaamā ninga a nugā a [bn Mas'ūd nus a yiibā svka, sēn na yulē t'a kelg sōma, wala a sēn wilgd-a svura Alkurāanē wā, ti yaa būmb sēn wilgd Nabiyaamā (Wēnd pūsg la A tulgr be a yīnga) ning-m-toagā sēn ta zīg ning ne Sahdā, a gom-biisā la a maanā

wā. T'a yeele: "Attahyaatv Lillaahu". Yēnda yaa gomd maa tvumd fāa sēn tees zisgrā, a fāa gill yaa būmb sēn sōmb ne Wēnde, (A Naam yt wagell n zēke). "Aṣ-ṣalawaatv": La yēnda la Pvus-rāmb nins ned fāa sēn mi wā, a farila la a naafula, a fāa yaa Wēnd A Yembr n so, (A Naam yulg n zēke). "Aṭ-ṭaybaatv": Yē yaa gom-biisi, la tvuma, la suf-rāmb sēn yulge n wilgd pidb tēkē, a fāa gillā yaa Wēnd n sōmb ne-a, (A Naam zēkame) "Assalaamv 'alayka Ayyvḥannabiyv wa rahmatvllaahu abarakaatvḥv": Yaa kosgo n kō Nabiyaamā, tī Wēnd tlg-a n yi zang la wēng fāa, la A paas wvsg n kō-a būmbā fāa gill sēn yaa sōma. "Assalaamv alaynaa wa 'alaa 'ibaadillaah Aṣ-ṣaalihuna": Yaa kosgo ne tlgre n kō pvusd la yamb sōng fāa sēn be saasē la sēn be tēngē. "Ashadv anlaa-ṭlaaha ṭlallaah": Rat n na n yeelame tī m reega m zugē, reegr sēn kenge, tī soab tūudg sūd-sūd ka be tī sā n ka Wēnd ye. "Wa anna Muḥammadan Abdvḥv wa rasvṭvḥv": M reegda m zugē ne-a ne Wēnd yemba la A Tēn-tvmdā sēn Pidsā.

Rē poorē Nabiyaamā (Wēnd pvusg la A tlgre be a yīnga) pirsā pvusdā t'a tūus doaag ning yē sēn tvll n kose.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Sahd-kāngā zīiga yaa fo sēn wat n zīnd suguud baasdgē wā poorē, Pvusg fāa pugē, la rakaar a

yiibā poorē, Puus-rāmb nins sēn yaa tāabā la sēn yaa naasā pugē.

2. Wilgda At-tahiyyaatā sēn yaa tlae sahdā maanegē wā, la sakdame ti yēnda maan sahdā ne gom-bill ning yē sēn tulle, sēn yaa sahdā gom-biisā, sēn yaa gim-biis nins sēn tabl ti yii Nabiyaamā nengē (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga).
3. Wilgdame ti sakdame ti b kos Wēnde, Puusgā pugē, fo sēn nong būmb ninga ti beegre yell sā n ka be beenē.
- 4-,Buu nonglem ti f reng n sung ne f menga kosgē wā

(3096)

Allaahumma unnu a'vzv bka min 'azaabi l-kabri, wa min 'azaabi annaaru, wa min fitnati l-mahyaa wa l-mamaatu, wa min fitnati l-masuh d-daggeel

(126) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشْهُدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(126) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tuumā ra yume (Wēnd

puusg la A tulgr be a yīnga) n kot n yetē:
**«Allaahumma unnu a’uuzv buka min ‘azaabu l-
kabri, wa min ‘azaabu annaari, wa min fitnati l-
mahyaa wa l-mamaati, wa min fitnati l-masuh d-
daggeel».** = (M Soab a Wēnde, m kota Foom gūudum n
yi yaoogā namsgā, la Bugmā mansgo, la vum la kūum
zarb-n-gesgā (fitna), la α-Masuh ddaggeel zarb-n-
gesgā). La bee Muslim gom-biisā pvgē: **«yāmb yemb
kam fāa sā n wa se sahd baasdgā, bi a kos gūudum
ne Wēnde, n yi yel a naase: n yi Gēhannem namsgā,
la yi yaoogā namsgā, la vumā la kūumā namsgā, la
α Masuhi addaggeeli wēnga».** [A manegame] [A Al-
Bv̄haariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) ra
yume n kot gūudum ne Wēnde n yi yel a naase, sahd
baasdgā poorē, la taoor t'a na n ka ning sallem Puusgē
wā, la a sagla tōndo, ti d kos gūudum ne Wēnde, n yi-
ba, Rēenem: yaa yaoogā nango.

Yiib soaba: yaa Bugmā nango, la rē yaa Al-
kiyoom raarā.

Tāab soaba: yaa vumā zarb-n-gesgā, sēn yaa dūni
yamleood nins sēn yaa haraamā, la dūni yel-gēdgds nins
sēn menesd nedā. la yi kūum zarb-n-gesga, rat n yeel ti

kūumã wakato, n yi kedgre n bas lıslaango, maa Sūnnah, maa yaoogã zarb-n-gesgã, wala malegs a yiibã sokrã.

Naas soaba: yaa masuhtı addageelı zarb-n-gesgã, sēn yit zāmaan yaoolem sasa, tı Wēnd zarbd yembsã ne-a, la b welga yēnda yellã n togse, a fitnã wã la a menengã sēn tvg n yaa bedr n yudã yīnga.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Gūudum kos-kāngã, a bee doos nins sēn be sukã, n leb n tigim yel-wusgo, bala a tigma gūudum kosgo n yi dūni yel-wēnse la laahr yel-wēnse.
2. Hadiisã wilgda yaoogã nang sēn tabe, la a yaa būmb sēn yaa suda.
3. Hadiisã wilgda zarb-n-gesgã yell sēn ta zīig ninga, la kos gūudum ne Wēnd n yi-a wã sēn ta zīig ningē, la kos Wēnd n paam pōsg n yi-a.
4. A tabenda Adageelı yiibã la a zarb-n-gesgã bedrem sēn ta zīig ninga.
5. B buv do-kāngã nonglem sahd baasgã poorē.
6. B buv nonglem ne doaag maanego tuvm sōng poorē.

Pvvsq ka be ti rub sã n rıgl ye, pa we-keeng me sën na sêk-a ye

(127) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «**لَا صَلَاةَ بِمَحْضَرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَتَانِ**».
[صحيح] - [رواه مسلم]

(127) – Yii a ‘Aaiša nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: ad mam wuma Wënd Tën-tvumã, (Wënd pvvsq la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: «**Pvvsq ka be ti rub sã n rıgl ye, pa we-keeng me sën na sêk-a ye**».
[A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Wënd Tën-tvumã, (Wënd pvvsq la A tulgr be a yīnga) a gıdga Pvvsqo, ti rub sã n wa, rub ning pvvsdã sën tar yamleog ne a rubã, t'a yamã be beenē.

Yaa woto bala la a gıdg Pvvsqo, t'a sã n wa sēdg rēgd a yiibã -bãmb me la rvvdem la we-keenga-, ne a sën maand soagla n rat n na n wık b yiibã.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Sōmba ne pvvsda t'a zãag bũmb fãa sën maand-a soagla Pvvsqã pugē, taoor t'a na n ka kē Pvvsqē wã.

(3088)

(128) – عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَانْقُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي. [صحيح] - [رواه مسلم]

(128) – Yii a ‘Usmaan [bn Abu ‘Al-aaş nengē (Wēnd yard be a yīnga): T'a waa Nabiyaamā nengē (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) n yeele: Wēnd Tēn-tvumā, ad a svutāan gidga maam ne m Puvsgā la m karengā svka, n liibd maam, ti Wēnd Tēn-tvuma (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) yeel-a: «**Yāwā yaa svutāan b sēn boond ti Hinzib, fo sā n wa paam-a f Puvsgā pvgē, bi f kos gūudum ne Wēnd n yi-a la f tvbs f goabgā weengē noor a tāabo**», a yeelame, ti mam maan woto, ti Wēnd rig-a n yi maam. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

A ‘Usmaan [bn Abu Al-‘aase, (Wēnd yard be a yīnga), a waa Nabiyaamā nengē (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) n yeele: Wēnd Tēn-tvumā, ad a svutāan gida maam ne m Puvsgā svka, ti mam ka tar Wēnd zoεeg a pvgē, n gaam maam m karengē wā, n

maan maam sik a pugē, ti Wënd Tën-tvumã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) yeele ad yē yaa svutāan ti b boond-a ti Hinzab, rënd fo sã n wa yã yel-kāngã f Puvsgã pugē, bi f kos gūudum ne Wēnde, t'A gū-f n yi-a la f fuvsg f goabgã wēngē, n lagem ne kolkot bilfu noor a tãabo. A 'Usmaan yeelame, ti mam maan būmb ninga Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) sēn sagl maam ne wã, ti Wënd rig-a n bas maam.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgda yīn-yōgneg la sūurã tagsd Wënd yell Puvsgã pugē wã, a sēn ta zīig ninga, la a svutāan nidgda pānga ne maan liibg la sika, Puvsgã pugē.
2. A wilgda sēn bu nonglem ti b kos gūudum ne Wēnde, n yi a svutāana, a sēn wat n maan ninsaal liib-liib a Puvsgē wã, n lagem ne tubsg goabg wēngē noor a tãabo.
3. A wilgda sahaabsã sēn dag n be būmb ninga zugã, (Wënd yard be b yīnga), b sēn lebgd n ti sokd Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) būmb ning sēn paamd bāmbã, sēn yaa yēla, sēn na yul t'a wels-b n wilg-ba.
4. A wilgda sahaabsã sūy sēn vɪ la b sēn leb n tar ning-m-toaag ne laahrã.

(129) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ» قَالَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا». [صحيح] - [رواه ابن حبان]

(129) – Yii a Abvv Hurayrat nengẽ (Wënd yard be a yĩnga) a yeelame: Wënd Tën-tvum (puvsg la tulgr be a yĩng) yeelame:- «**Nebã sên yud wëng ne wagdem yaa ned ning sên zuuda a Puvsgã pugẽ**».. Tı b yeele: a na n zu a Puvsgã wãn-wãnã? T'a yeele: «**a ka pidsda a rukuu wã, ka a suguudã**». [A manegame] - [A [bn Hibbaan n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yĩnga) vënegame ti ad nebã sên yud wënga zuub pugẽ yaa ned ning sên zuuda a Puvsgã, bala reeg nin-zëng ligdi, a tõe n nafa ne-a dũni, la woto yõsgda ne wagdem-kãngã, bala yënda zu a meng pvure sên yaa yel-sõmd la keore, ti b yeele: Wënd Tën-tvumã, ned na n zu a meng wãnã? La a yeele, bala a ka pidsd Puvsgã rukuu wã, ka a suguudu, la rë yaa a sên na n yãgdë, a rukuu wã la a suguudë wã, n ka wat ne-ba wala b sên sõmb n yı wã ye.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbê:

1. Hadiisã wilgda Puvsgã manegr yellã sën ta zïig ninga, la wa ne-a zeng-raadã ne yïn yõgnego la Wënd zoεεga.
2. A sifa ned ning sën ka pidsd a rukuu wã la a suguudã t'a yaa wagdre, rënda yaa sën na n bugs nebã tu b zãag rë, n leb n nek nebã n wilg t'a yaa haraam.
3. A wilgda sën yaa tulae tu nebã pids rukuu wã la suguudã b Puvsgẽ la b tẽeg turga a pugẽ.

(65100)

Yãmb yembr fãa ka yeesd t'a sã n reng limaamã n roog a zugã, ti Wënd na n maan a zugã ti lebg bõang zugu, maa A maan a yïngã ti lebg bõang yïnga

(130) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَّا يَخْشَى أَحَدَكُمْ - أَوْ: لَا يَخْشَى أَحَدَكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ». [صحيح] - [متفق عليه]

(130) – Yii a Abu Hurayrat nengẽ, (Wënd yard be a yïnga), ti yii Nabiyaamã nengẽ, (Wënd puvsg la A tulgur be a yïnga) yeelame: «**Yãmb yembr fãa ka yeesd t'a sã n reng limaamã n roog a zugã, ti Wënd na n maan a zugã ti lebg bõang zugu, maa A maan a yïngã ti lebg bõang yïnga**». [A manegame] [A Al-Buħariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) vënega puleng wëng kegeng ning sën be ne ned ning sën roogd a zugã, taoor ti limaamã ka roogã, ti Wënd na n maana a zugã bõang zugu, maa A maan a yĩngã ti lebg bõang yĩnga.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Ma'amuun la limaam tara halhaal a naase: tãabã gidgame, bãmb me: yaa rengre, la yeglggo, la yaoolgo, la sãri wã sën kõ sor ne ma'amuuna (sën be a poorë wã) yaa a pug limaamã.
2. Wilgda sën yaa tlae ti ma'amuunã pug limaamã Puusgã pugë.
3. Puleng wënga ne ned ning sën rengd n roog a zugã ti limaamã na n ka roogã, ti b na n tedg-a lame t'a lebg bõangã yaa bũmb sën tõe n yi, la yë yaa Wënd gëega sën tũ ne yalë wã toeengo.

(3086)

(131) – عن ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»، قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْأَسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. [صحيح] - [رواه مسلم]

(131) – Yii a Tawbaan nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tēn-tvum ra yume (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) t'a sã n sa a Puvsgã a maanda Astagfiru-Llaah noor a tãabo, la a yeele: «**Allaahvmma Antas-salaam, wa minkas-salaam, tabaarakta zal-gelaah wal-ikraam**», a Walud yeelame: ti mam yeel a Awzaa'y: Astagfiru-Llaah wã yita wãn-wãna? T'a yeele: yetame: astagfiru-Llaah, astagfiru-Llaah. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) ra yume n yetē t'a sã n wa sa a Puvsgã, astagfiru-Llaah, astagfiru-Llaah.

Rē poorē t'a zısg a Soabã n yeele: " M Soaba A Wēnde Foo la Tulgre, Tulgr yita Fo nengē, F Naam tar barka, A waoglem Naaba la A waoor Naabã" Rënd Wënd la sēn tilge n pidi A sıf-rãmbã pugē, sēn tilg n yi zang fãa la boogre, la f kos-A -A Naam

yılgame- tilgr n yi dūni la laahr yel-wēnse, pa zēng sēn pa Yē nengē la f kot ye, la A sōmā wā wusga zags a yiibā pugē, yaa zislem la manegr Naaba.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa b sēn bu nonglem ti b maan Astagfiru-Llah Pvusgā baasgē la b duum ne-a.
2. B buu nonglem ti b maan Astagfiru-Llah sēn na yul n pids boogrā tūudumā pugē, n leb n sīd tūudumā la maan-koεεgā a pugē wā.

(10947)

ēn-tvma, (Wēnd pvsg la A tilgr be a yīnga) rag n yume n yet bāmbā Pvusg fāa poorē

(132) – عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ التَّعَمُّدُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الْغَنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلُلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(132) – Yii a Abu Az-zubayr nengē, a yeelame: A [bn Az-zubayr rag n yume n yet Pvusg fāa poorē, a sēn wat n ning sallem "Laa ulaaha ulallaahu, wahdahuu, laa šaruka lahuu, lahuvmulku wa lahuhamdu, wa huwa ‘alaa kulli šay-un kadur, laa hawla walaa kuwwata ulaa billaah, laa ulaaha ulallaahu, walaa na‘abudu ulaa tyyaahu, luhu-

anii' matv, wa lahv l faḍlv, wa lahv at-tanaa'v al-hasanu, laa ulaaha ullallaahv muhliṣiina, lahv-ddiina, wa law kariha Al-kaafirvna= soab sēn na n tū n tlg ka be rēnda Wēnde, Yē n so Naamā la Pegrā, A yaa Tōogd ne būmbā fāa gilli, sēn na n maaneg ka be, pāng ka be, rēnda ne Wēnde, soab sēn na n tū n tlg ka be rēnda Wēnde, d ka tūud rēnda Yēnda, Yē n tar neemā wā, Yē n tar yudlemā, Pēgr sēn be neer yaa Yē n so, soab sēn na n tū n tlg ka be rēnda Wēnde, d yulga dīnā ne-A baa ti kifr-rāmbā sā n kisa" La a yeele: «**Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd pvsug la A tlggr be a yīnga) rag n yume n yet bāmbā Pvsug fāa poorē**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Wēnd Tēn-tvumā, (Wēnd pvsug la A tlggr be a yīnga) rag n yume, a sēn ning sallem faril Pvsug poorē fāa, n maand zikr-kāngā sēn yaa zisgā, la a maanā wā yaa:

"Laa ulaaha ullaallaahv": Rat n yeel ti soab sēn na n tū n tlg ne sīd ka be rēnda Wēnde.

"Wahdahv, laa šaruka lahv" rat n yeel ti: Yēnda, lagem-n-taak ka be ne A Sobendlemē wā la A Wēndlemē wā, la A Yvyē wā la A Sīf-rāmbē wā ye.

"Lahvmlkv" rat n yeel ti: Naam sēn ka tar to, sēn gūbg zānga, sēn yalem saas la tēng la sēn be b yiibā svka.

"Wa lahuḷḷhamdu" Rat n yeel ti: b sēn sīfd a soab ne pidbu, pidb zānga, b sēn pēgd A Soaba ne pidbu, ti yaa ne nonglem la zisgre, halhaal fāa pugē, sēn noom la sēn yaa toog wakat sasa.

"Wa huwa 'alaa kullī šay-in kaḍur": A tōoga yaa sēn pid wēng fāa gilli, būmb ka koangd-A ye, yell ka be n gidgd-A yelā pusē ye.

"Laa hawla walaa kuwwata ullaah billaah" Rat n yeel ti: fo ka tōe n toem n yi halhaal n kēng halhaale, n yi Wēn-kusg n kēng Wēnd tūudum, pāng ka be rēnda ne Wēnde, bala yaa Yē la Sōngda, boblgā bee ne Yē.

"Laa ulaaha ulallaahu, walaa na'abudu ullaah tyyaahu": wānde yaa kengr ne Sobendā maanā la lagem-n-taarā basbo, la ned ka sōmb ne tūudmā rēnda Yē bala.

"Luhu-anii' matu, wa lahuḷḷ faḍlu": A soo neema la yudlem, yaa Yēnda la sēn naand neemā wā la A so-a la A kōt-a A sēn tull a soaba, A yembsā pugē.

"Wa lahuḷḷ at-tanaa'u al-hasanu": A tara Pēg-sōngo, A Mengā wā la A Suf-rāmbē wā la A Tuvmē wā la A meemā wā la A Halhaal fāa gilli.

"Laa ulaaha ulallaahu muḥlisiina, lahuḷḷ-ḍdiina": rat n yeel ti: tōnd yaa sēn yembd-A, ti ka maan-ti-b-yā, ka maan-ti-b-wume, Wēnd tūudmā pugē ye.

"Wa law kariha Al-kaafirunna" rat n yeel ti: tōnd tabenda ne Wēnd yembgā la A tūudmā, baa ti kīfr-rāmbā sā n kisgi.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa b sën bu nonglem tu b gūus zıkr (yōk) - kängã, faril fãa poorē.
2. Lıslaam nonga a meng ne a dīinã la a vënegd a tagmas-rāmbã, baa tu kıfr-rāmbã sã n kisgi.
3. Sã n wa hadiisã pugē, b sën yeel tu "Puusgã poorē" rënd sã n mikame tu yuur tēegr n be hadiisã pugē tu b tõe n yōke, a yēgrã yaa t'a yi Puusgã poorē, la sã n mikame tu yaa doaaga, yēnda ytame taoor tu b na n ka ning sallem, n yi Puusgē wã ye.

(6203)

Tı Nabıyaamã (Wënd puvsq la A tılgr be a yīnga) a yume n rag n yet faril fãa Puvsq poorē

(133) – عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمَلِي عَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(133) – Yii a Warraad nengē, sën yaa a Mugura [bn Sv'vba tēn-tum-gvlsdã, a yeelame: a Sv'vba togsa maam goam tu mam na n gvls tu kēng a Mu'aawiya nengē: Tı Nabıyaamã (Wënd puvsq la A tılgr be a yīnga) a yume n rag n yet faril fãa Puvsq poorē: «**laa**

ulaaha ulla-Llaahu, wahdahuu, laa šaruka lahuu, lahuvmulku wa lahuhamdu, wa huwa ‘alaa kulli šay-in kadur, allaahumma laa maani-‘a lmaa a‘atayta, walaa mu‘vṭiya lumaamana-‘ata, walaa yanfa-‘v zalğaddi minka alğaddu». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) a yume n rag n yet faril fāa Puusg poorē: "laa ulaaha ulla-Llaahu, wahdahuu, laa šaruka lahuu, lahuvmulku wa lahuhamdu, wa huwa ‘alaa kulli šay-in kadur, allaahumma laa maani-‘a lmaa a‘atayta, walaa mu‘vṭiya lumaamana-‘ata, walaa yanfa-‘v zalğaddi minka alğaddu".

Rat n na n yeele: M reega m zugē la m sak ne Wēn-yembgā gomdā, sēn yaa: "laa ulaaha ulla-Llaahu" wā, rēnd tūudum sūd-sūda m maand-a-la Wēnd yīnga, rēnd tūudā sūd-sūd ka be sā n ka Wēnd ye, la m reeg m zugē ti Naam sēn pid sūd-sūda yaa Wēnd n so, la saasē la tēngē rāmbā pēgrā sōmbame ti Yaa Wēnd A Yembr n so, bala yaa Yēnda la Tōoda ne būmbā fāa, la Wēnd sēn kord (pulem) būmb ningā sēn yaa kūuni wala mongre būmb ka tōe n gūdg-a ye, la Wēnd nengē rakāagr rakāalem ka tōe n fāag-a beenē ye, la yaa tvum sōngo n nafde.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. A wilgdame tı doaag-kāngã yeelgo, b bu-a-la nonglem wakat-rāmbã poorē, ne a sën gūbg Wën-yembgo la pēgr gom-biisi.
2. Wilgdame tı b sōmb yāgame n gād Sūnn-rāmbã la b sēeg-a.

(65102)

M gūsa Nabiyaamã nengē (Wënd puvsg la A tulgr be a yīng) rakaar-rāmb piiga

(134) – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رُكْعَاتٍ: رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ، وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رُكْعَتَيْنِ. [صحيح] - [متفق عليه بجميع رواياته]

(134) – Yii a [bn ‘Umar nengē, (Wënd yard be b yiibã yīng), a yeelame: M gūsa Nabiyaamã nengē (Wënd puvsg la A tulgr be a yīng) rakaar-rāmb piiga: rakaar a yiibu taor tı Zafar na n ka ta, la rakaar a yiibu Zafar poorē, la rakaar a yiibu Magrib poorē a zakē wā, la rakaar a yiibu sāanf poorē a zakē, la rakaar a yiibu taaor tı fagir na n ka puvse, la a ra yaa wakat ned sën ka kēed Nabiyaamã (Wënd puvsg la A

tilgr be a yīnga) nengē sasa-kāngā, a Hafsa togsa maam ti laandāan boaalā sã n wa boole, ti fagirã sã n puki, Nabiyaamã puvvsa rakaar a yiibu, la gom-bila a to pugē a yeelame ti Nabiyaamã (Wēnd puvvg la A tilgr be a yīnga) ra yume n puvvd arzūm poorē rakaar a yiibu. [A manegame] - [A Al-bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu a togsã soay gilli]

Hadiisã welsgo:

A ‘Abdullaah [bn ‘Umar vēnegdame n wilgdē (Wēnd yard be b yiibã yīnga) ti naafil-rāmb nins yē sēn gūus Nabiyaamã nengē wã (Wēnd puvvg la A tilgr be a yīnga) yaa piiga, la b boonda bāmb ti As-Sunan Arrawaatb (Sun tūnugdsi), rakaar a yiibu taor ti Zafar na n ka ta, la rakaar a yiibu Zafar poorē, la rakaar a yiibu Magrib poorē a zakē wã, la rakaar a yiibu Sāanf poorē a zakē, la rakaar a yiibu taor ti Fagir na n ka puvvse, Ti rakaar piigã yaa sēn pidi. La sã n yaa arzūmã Puvvsgo, a maanda rakaar a yiibu a poorē.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgda b sēn bu nonglem ne naafil-kāensã tūnugrã la b tabl b zugu.
2. Sari wã sēn wilgd ti b maand Sūnnah zagsē wã

(3062)

(135) – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَبْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(135) – Yii a Abu Kataada As-salamiyy nengē, (Wënd yard be a yīnga) ti Wënd Tēn-tvuma, (Wënd pvvsg la A tlvgr be a yīnga) yeelame: «**Yāmb yembr fāa sã n kē miisri, bi a maan rakaar a yiibu taoor t'a na n ka zīnd ye**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tlvgr be a yīnga) kengame ti ned ning sēn waa miisrē, n kē miisrē wā, sēn yaa wakat ning fāa, la sēn leb n yaa tvlsem ning fāa, bi a maan rakaar a yiib taoor t'a na n ka zīnd ye, bāmbā b yiibā me yaa miisr pvvge kōom rakaar a yiibā.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgdame ti b buu nonglem ti b maan rakaar a yiibu, taoor ti f na n ka zīnd ye.
2. Rēnd sagl-kāngā yaa ned ning sēn rat n na n zīndā, la ned ning sēn kē miisrē, n lebg n yi taoor t'a na n ka zīndi, sagl-kāngā ka lagem yē soab ye.

3. A sã n kē miisrē, n mik ti nebã bee Puvsg pugē, t'a kell n lagem nebã n puuse, rē kell n sek-a lame n yi rakaar a yii bã maanego.

(65091)

Fo sã n yeel f yaka, arzūmā raare: "sīndi", tu limaamā maand hvtbā, sid la hakuka f reemame

(136) – عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعْنَتْ». [صحيح] - [متفق عليه]

(136) – Yii a Abu Huvrayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga) ti Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) yeelame: «**Fo sã n yeel f yaka, arzūmā raare: "sīndi", tu limaamā maand hvtbā, sid la hakuka f reemame**». [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, ti sēn be zvgd nins sēn yaa tilae ne ned ning sēn waa arzūmā wakato, bi a sīnd n kelg limaamā, sēn na yilē n paam n tags sōma n ges waazv wā saglsā, la a wilg ti ned ning sēn goama, baa ti yaa būmb sēn paoode, ti limaamā maand hvtbā, n yeel a to t'a sīndi, la a kelge, yāwā soabā, arzūmā Puvsg yel-sōmd pōsg-a lame.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. B gıdgda goam hutba kelgr wakato, baa tu goamdã yaa gıdgre ne yel-kiti maa yaa sallem leokre, maa yaa tısd leokre.
2. La tūusa yāwā pugē, ned ning sën gomd ne limaamã, maa limaamã sën gom ne a soaba.
3. Wilgdame tu goam sakda hutba a yiibã suka, tu tulsem sã n beē.
4. B sã n pud Nabiyaamã yvure (Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga) tu limaamã maan hutbã, f puvsda Nabiyaamã la f sall-a, n solge, la yaa woto bala, doaag sã n wa kotē, f tōe n yeela: " Aamiina", n solge.

(3107)

Pvvs tu f yaa sën yāse, f sã n pa tōe, bu f zīndi, f sã n pa tōe, bu f kulle

(137) – عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ التَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(137) – Yii a [mraan [bn Hıṣayn nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: mam da tara kooko, tu mam sok Nabiyaamã (Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga) Puvsugã yelle, t'a yeele: «**Pvvs tu f yaa sën yāse, f sã n pa tōe, bu f zīndi, f sã n pa tōe, bu f kulle**». [A manegame] [A Al-buḥaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yïnga) a vënegame n wilg ti yëgrã Puusgë wã yaa yãnesgo, rënda f sën wat n pa tõe t'a puus t'a yaa sën zï, la a sã n pa tõe n zïnd n puuse rënd a tõe killame n puusdë.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Puusgã pa rokde ti yamã sã n ketë, rënd a yi halhaal n long halhaal a to wã yaa sën zemsd ne pãng tōog teka.
2. Wilgda lslaangã bas-ti-loogã la a yol-yolã ne yamb sën maand a sën tõe tūudmë wã.

(10951)

Puusgo mam miis-kãngã pugë, a yel-sōmdã yuda Puus-rāmb tusri zëng sën ka miis-kãngã pugë, sã n ka Lohorem miisrã bala

(138) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(138) – Yii a Abu Hurrayrat nengë (Wënd yard be a yïnga) a yeelame: ti Wënd Tën-tuuma (Wënd puusg la A tilgr be a yïnga) yeelame: «**Puusgo mam miis-kãngã pugë, a yel-sōmdã yuda Puus-rāmb tusri zëng sën ka miis-kãngã pugë, sã n ka Lohorem miisrã bala**». [A manegame] [A Al-Buħariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsq la A tlgř be a yĩnga) vēnegame n wilgdē yudlem ning sēn be a miirē wã Puvsqã la a wilg ti yēndã yel-sōmd n yud noor tusri fo sēn na n puvs zēng sēn ka beenē, sēn yaa tēngã miisã wã sēn kellã, sã n ka lohorem miisrã sēn be Makã, rēnd yēndã Puvsq yel-sōmd yuda Naiyaamã miisrã, (Wënd puvsq la A tlgř be a yĩnga).

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgda Lohorem miisrã pugē la Nabiyaamã miisrã pugē Puvsq yel-sōmd sēn fāood to-to ningã.
2. Wilgdame ti fo sēn na n puvs Lohorem miisrē wã a yel-sōmdã yuda fo sēn na n maan puvs-rāmb tuskoabga zēng sēn ka beenē sēn yaa misa-rāmba.

(65090)

Ned ning sēn me miisr Wënd yĩnga, Wënd meta a buudu arzãnã pvga n kō-a

(139) – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَّرَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعُوهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(139) – Yii a Mahmuud [bn Labiid nengē (Wënd yard be a yĩnga): T'a ‘Usmaan [bn ‘Affaan rag n rat n mee miisrã, ti nebã kisp rēnda, la b nongame t'a kell n bas-a

a sēn yaa a soabã, t'a 'Usmaan yeele, m wuma Wënd Tēn-tvumã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: «**Ned ning sēn me miisr Wënd yīnga, Wënd meta a buudu arzānã puga n kō-a**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

A 'Usmaan [bn 'Affaan (Wënd yard be a yīnga), a rag n ratame n na n lebg n me Nabiyaamã miisrã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) t'a neeremã yug me-rēngã, tı nebã kışg rē, ne sēn mik t'a na n tedga miirã meeb n yi meeb ning a sēn dag n yaa a soab Nabiyaamã wakatã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) bala miisrã rag n da mee ne tãnkoeema la a beoongã rag n yaa tamar tusã raado. La a 'Usmaan rag n ratame n na n me-a ne kuga la sima, t'a 'Usmaan na n kō-b kibare, (Wënd yard be a yīnga) t'a wuma Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) t'a yetē, tı ned ning sēn me miisri, tı yaa Wënd yardã la a baooda (A Naam zēkame) ka maan-tı-b-yã ka maan-tı-b-wume, Wënd rond-a lame, ne rolb sōmblem sēn yud yē me tvumdã buudu, la rol-kāngã yaa Wënd sēn na n me a meoongã buudu n kō-a arzānã puga.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã kengda misã wā meebo la yudlem ning sën be a pugē wā.
2. A wilgdame tı miisr yalgre la a palmasgo kēeda a meebã yel-sōmb pugē.
3. Wilgda pu-peelem Wënd yīnga-A (Naam yı wagelle) a yellã sën ta zīig ninga, tuumã fāa pugē.

(65089)

Sara ka boogd arzék ye, la Wënd ka paasd yamba ne a sën na n maan bas tı looge rëndame tı yı zıslm bala la ned ka yı n na n gāneg a meng Wënd yīnga rëndame tı Wënd zék-a

(140) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا نَقَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(140) – Yii a Abu Hurayrat nengē -Wënd yard be a yīnga- yii Wënd Tën-tuumã nengē, (Wënd puvsug la A tılgı be a yīnga) a yeelame: "Sara ka boogd arzék ye, la Wënd ka paasd yamba ne a sën na n maan bas tı looge rëndame tı yı zıslm bala la ned ka yı n na n gāneg a meng Wënd yīnga rëndame tı Wënd zék-a". [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsug la A tılgı be a yīnga) vënegdame n wildgē tı ned sara maanego, a ka boogd arzék ye, a pıv n tusda zamse n yit arzkã, la Wënd tedgdame n kō a soabã, sōma wusgo. Rënd mikdame tı yaa paasga, a ka boogr ye.

La bas ti loogã n lagem ne tōog sēn zīnd b sēn tōe n maan n rolã, maa tōog n yōk bæegdã, a ka paasd rēnd pāngã la zıslēm.

La ned ka be sēn na n gāneg a menga la a faag a menga ne Wēnde, ka ned baa a yembr yeεsgo, ka sōm baoobo, ka nafa, ka būmb raabo, rēndame t'a rolb yı zēkr la zīiri.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Sēn be haadiisã pugē, yaa ti sōma la pōsbo a bee sari wã gādb pugē, la tuvm sōma maanego baa ti nebã sã n tēedame ti yōsga rēnda.

(5512)

Wēnd yeelame: Adam biiga, yāk n nafe, tu M na kō-fo

(141) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(141) – Yii a Abu Hvrayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga), ti Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) yeelame: «Wēnd yeelame: Adam biiga, yāk n nafe, tu M na kō-fo». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) kōta kibare, ti Wēnde -A Naam yı wagell n zēke- A yeelame: Adam biiga, yāk n nafe, nafa nins sēn zao fo zugã la b sēn bv nonglemã- ti Mam na yalg f rttlã la M kō-fo ledsgo n yud rēnda la M maan barka.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa pirsg ne sāra maanego, la yĕk n naf Wënd sorã pugĕ.
2. Yāk n naf sōma pugĕ, a bee albark sabab bedã pugĕ, rıtl wεengĕ la rıtl fāoobo, la Wënd leds yamba bumb ninga a sën yāk n nafe.
3. Hadiis-kāngã a bee Nabiyaamã (Wënd puvsɔg la A tulgr be a yīnga) sën reegd n yit a Soabã nengĕ, boondame tı Alhadiis Alkudsy (Hadiis ylenga, maa Wënd hadiisi) yĕ me la hadiis ninga a gom-biisã la a maanã wã yii Wënd nengĕ, la a ka tar yel-weendu nins Alkurāanã sën tarã ye, karengã sën yaa tūudum, la ylg f menga n yaool rik-a la a sën geesd nebã la zĕng sën ka yı ne rĕnda.

(5805)

Rao sã n rulg a zak rāmbã ne-a

(142) – عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.» [صحيح] - [متفق عليه]

(142) – Yii a ‘Abu Mas’uud nengĕ, (Wënd yard be a yīnga), tı yii Nabiyaamã nengĕ, -Wënd puvsɔg la A tulgr be a yīnga- a yeelame: «**Rao sã n rulg a zak rāmbã n tĕed a yel-sōmde, yĕnda yaa sāra ne-a**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare, ti ad ned sã n rulg a zak rãmba, neb nins rilgr sēn yaa tulae n zao-a wã, wala a pagã, la a roagdb a yiibã, la a biigã la zēng sēn ka bãmbã, ti yē sēn maan rē wã yaa sēn baood pēnegr ne Wēnde, -A Naam zēkame-la a tēed keoor Wēnd nengē, bumb ning yē sēn yãkdã n yaoodã, rēnd yēnd tara sãra keore.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Yaa keoor la yel-sōmd sēn paamde, ti ned sã n yãk n naf a zak rãmba.
2. Muumin baooda a tuumã pugē, yel-sōmd, la bumb ning sēn be Wēnd nengē, sēn yaa keoor la rolbo.
3. Sōmbame ti b maan Anniy sōngo tuum fãa pugē, la sēn be tuum-kãensã pugē, yaa fo sēn wat n na n rulg f zak rãmba.

(6460)

raarã, raar ning maasem sēn ka be ti sã n ka A maasmã

(143) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». [صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]

(143) – Yii a Abuḥ Ḥurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd-tēn-tuum -Wēnd puusg la A tilgr

be a yīng- yeelame-: «**Ned ning sēn kolla keelem soaba, maa a basa būmb ti lvi samdē wā, sam soabā yīnga, Wēnd kēesd-a-la Al-Arsā maasmē dūni yikr raarā, raar ning maasem sēn ka be ti sā n ka A maasmā**».

[A manegame] [A At-turmiziy la a Ahmad n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaama(Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) kōo kibare ti ned ning sēn maag a naoore ne sam soaba maa a yāka būmb samdē wā n bas taale, a rolbo: yaa ti Wēnd na n kēes-a-la A Al-Arsā tēngr maasmē wā dūni yikrā raare, raar ning wīndgā sēn pēnegd yembsā zutā, t'a tuvmā keng b zugu, ti ned baa a yembr ka na n paam maasem rēnda Wēnd sēn sool a soaba.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wīngda yols Wēnd yembsā a yel sōmdā sēn ta to-to, la a be sabab-rāmb nins sēn tulgd n yit dūni yikr raar yel bedā.
2. Rolbā yita wala tuumdā buudu.

(144) – عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **رَجِمَ**

اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا افْتَضَى. [صحيح] - [رواه البخاري]

(144) – Yii a Gæbr nengë (Wënd yard be a yïnga) tu Wënd Tën-tvuma, (Wënd pvvsg la A tigr be a yïnga) yeelame: «**Wënd na yols neda, sën yaa bas-ti-loog t'a sã n na n koose, la a sã n na n da, la a sã n na n sok a samde**». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã(Wënd pvvsg la A tigr be a yïnga) kosa yolsg n kō ned ning fãa sën yaa na-na n yaa kōta a koosem pvge; rënd a pa kengd raadã a ligdë wã, a leb n tvmda ne-a, ne zvgd sën manege, n yaa na-na n yaa yol-yol, t'a sã n na n da; rënd a pa boogde n paoogd laogã ye, n yaa kōta, n yaa yol-yole, t'a sã n wa sok a samã; rënd a pa kengd talg la tvlsem soab ye, la a sokd-a-la ne bvg-bvg la lom-lom, la a kolled keelem soaba.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbë:

1. Sën be sãri wã raab-rãmbã pvge, yaa b gūus būmb ning sën manegd nebã ne taab suk tvmd-n-taarã.
2. A kēesda yamleogo tu b maan zug wagla neba ne taab suk tvmd-n-taarã, sën yaa koosem, la raabo, la sën wōnd rē.

Ned n da be n pengd nebã, la a ra yeta a tvvm biigã: fo sã n kêng keelem soab nengê bi f bas-a, tu tõe ti Wënd yaaf n bas-do

(145) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجل يُدائِنُ الناسَ، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت مُعسِراً فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوزُ عنا، فلقني الله فتجاوز عنه». [صحيح] - [متفق عليه]

(145) – Yi a Abu Hurayrat nengê, (Wënd yard be a yĩnga), tu Wënd Tën-tvuma, (Wënd pvvsg la A tulgr be a yĩnga) yeelame: «Ned n da be n pengd nebã, la a ra yeta a tvvm biigã: fo sã n kêng keelem soab nengê bi f bas-a, tu tõe ti Wënd yaaf n bas-do, t'a wa maan kaalem ti Wënd yaaf-a». [A manegame] [A Al-Bvħaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tulgr be a yĩnga) a kōta kibare: ned sën da tvmd ne nebã ne pengre, bi a koosda ne-b sama, la a ra yeta a biig ning sën reegda samã nebã nengê wã: fo sã n ta sam soab nengê, t'a pa tar a sën na yao ne samdã "bi f gãndag n bas-a"; maa ti f yaool-a la f ra pëdemd-a samda sokrê ye, maa a na n deega sën be a nengê baa ti sã n pa ta, la rê fãa yaa sën na yul ti Wënd gãndag n bas-a la A yols-a, la a sën wa n ki wã, Wënd yaaf-a lame la A gãndag n bas a yel-wënsã.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbê:

1. Yaa tu maan neere nebã tvmd-n-taarã pugê, la yaaf n bas-ba, la gãndag n bas-b keelem soabã,

bee sabab bedã pugē, sēn pōsgd yamba dūni yikr daarã.

2. maneg n tug yembsã, la maan pu-peelem ne Wëndã, la A yolsgã tēebã, a yaa sabab-rãmb sēn yaafd zūnuubã.

(3753)

Ad neb n be beenē n fãood Wënd arzekã pugē, ti ka tū ne hake ye, ad b rãmb tara Bugum dūni yikr raare

(146) – عن حَوَلَةِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(146) – Yii a Hawla Al-ansaary nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: m wuma Nabiyaamã (Wënd puvsug la A tigr be a yīnga) t'a yetē: " Ad neb n be beenē n fãood Wënd arzekã pugē, ti ka tū ne hake ye, ad b rãmb tara Bugum dūni yikr raare". [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsug la A tigr be a yīnga) kōo kibare, ned sēn maan lɪslaambã arzek pugē ne zirī-beedo, la b yãkd-a ti ka tū ne hake ye, la wãnda gūbga arzekã pugē, sēn kēed a tigingã la a baoobã ti ka tū ne halaal ye, la leb n rik-a n kēes zīg ning sēn ka sōmb n kēesã, leb n kēeda rē pugē kubsã arzeys

rubo la wakf (arɛgs nins b rāmb sēn yānes tɪ yaa Wēnd sorā yīnga) la boablā kusgo, la reeg tɪ ka tū ne hake nebā arɛgsē wā, rē fāa kēeda a pugē.

Rē poorē tɪ Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) kō kibare tɪ bāmbā rāmb rolbo, dūni wā yikr raare, yaa Bugum.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Ligd ning sēn be nebā nusē wā, yaa Wēnd arɛka t'A leds-ba a pugē, tɪ b na rik-a n kēes soy nins pugē sari wā sēn ratā, la b zāag zirī-beedā maaneg pugē, la wānde yaa sēn gūbg taoor rāmbā la zēng sēn ka bāmba, sēn yaa nebā zānga.
2. Yaa sari wā sēn keng nimbuiidā arɛk pugē la ned ning sēn wa n tug n lvi a taoore, b na n gēela a soabā dūni yikr raarā, a sēn reeg-a wā to-to ningā la a sēn yāk-a n naf to-to ningā.
3. Kēeda puleng wēng-kāngā puga ned ning sēn wa n tug n maanda maaneg ning sēn ka zems ne sari wā arɛk pugē, zem tɪ yaa yē, maa a to arɛka.

(5331)

Ned ning sēn loe Ramadaanā, ne liimaoongo (sūd kūuni) la yel-sōmd tēebo, b yaafd-a lame, a zunuubā sēn reng taorā

(147) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [صحيح] - [متفق عليه]

(147) – Yii a Abuu Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tuuma -Wēnd puvsug la A tlg̃r be a yīng- yeelame: «**Ned ning sēn loe Ramadaanā, ne liimaoongo (sūd kūuni) la yel-sōmd tēebo, b yaafd-a lame, a zunuubā sēn reng taorā**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zug̃l].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā kōta kibare (Wēnd puvsug la A tlg̃r be a yīnga) ti ned ning sēn loe Ramadaanā kiuug ti yaa sūd kūun ne Wēnde, la Ramadaanā yaa tilae wā (farilā) sūdgre, la Wēnd sēn sēglg no-loetbā yīngā, sēn yaa yel-sōmb beda la keorā, t'a no-loerā yaa Wēnd yīnga, ka maan ti b yā, ka maan ti b wome, b yaafda a zunuub-rāmbā sēn loogā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wilgda pu-peelmā yudlem la a yellā sēn ta to-to Ramadaanā no-loerā pugē, la sēn ka rē sēn yaa tuum sōmbsā pugē.

(4196)

(148) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [صحيح] - [متفق عليه]

(148) – Yii a Abvū Hvrayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd tēn-tvūmā -Wēnd puvsg la A tlg̃r be a yīng- yeelame: «**Ned ning sēn yalsa ne Puvsgo Laylat Alkadrā (Pvlengā) raar yungo, t' yaa sūd-kūun la yel-sōmd tēbo, b yaafda a zunuub sēn reng taore**» [A manegame] [A Al-Bvḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tlg̃r be a yīnga) kōta kibare Pvlengā raar yung yalsg yel-sōmde, yē me la sēn yit Ramadānā rasem pi-yaoogā pugē wā, la ned ning sēn nidg pānga a pugē, ne Puvsgo la doaag kosgo la Alkurāan karengo, la Wēnd yvvrā tēegre, t'a yaa sēn kō sūd ne-a la būmb ning sēn wa sēn yaa hadiis-rāmb n wilgd a yudlemā, n tēed a tvūm-kāngā, Wēnd yel-sōmdā, ka maan-ti-b-yā, ka maan-ti-b-wume, ad b na n yaafa yēnda a zunuub nins sēn da reng taorā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wilgda Laylat Alkadr raar yung yudlemā la a leb n kengd nebā t' b yik ne-a.

2. A wilgdame ti tuum sōmbsā ka reegde, sã n ka mikame ti Anniy wã yaa sën sidge.
3. Hadiisã wilgda Wënd kũunã la A yolsgã, rënd ned ning sën yalsa Laylat Alkadrã, tı yaa sıd-kũun la yel-sōmd tēbo, b yaafda a zunuubã sën da reng taoore.

(4202)

Ned ning sën wa n kēng hagiimdu, n ka maan kēed-n-taare, n ka maan dīn-yiib tvvma, a yita a zunuubã pugē, n lebg wala a ma wã sën rog-a raar ningã

(149) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(149) – Yii a Abu Hurrayrat nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame mam wvma Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: «**Ned ning sën wa n kēng hagiimdu, n ka maan kēed-n-taare, n ka maan dīn-yiib tvvma, a yita a zunuubã pugē, n lebg wala a ma wã sën rog-a raar ningã**». [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tulgr be a yīnga) a vënegdame n wilgdē ti ned ning sën maana hagiimdu Wënd yīnga n pa maan kēed-n-taar ye, la kēed-n-taarã yaa rē la a yel-sungdsã wala mogsgã la saagrã, a lebg n

kēeda goam beedā, la a pa maan dīin-yiib tuvmā ne Wēnd kusgo la tuvm wēna. La sēn be dīin-yiibā tuvmā pugē yaa Hagiimdā sēn gıdg yeł ninsā maanego, a sā n maan woto, a lebgda hagiimdē wā t'a zunuubā yaa sēn yaafe, ti yaa wala biig sēn dogde t'a yaa sēn yulg n yi zunuub buud fāa.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. La dīin-yiibā tuvmā baa ti sā n mikame t'a gıdga wakat fāa, a gıdgrā kengda hagiimdā pugē ti yaa hagiimdā tuvm waoogr la rē.
2. Ninsaal rogdame t'a pa tar tuvm tuutu ye n zāag n yi zunuub-rāmbā; rēnd a pa tukd nin zēng tudgr ye.

(2758)

Rasem-rāmb ka be ti tuvm sōrmb noom Wēnd n yud rasem-kāensā ye» rat n yeel ti rasem piigā

(150) – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني أيامَ العشر، قالوا: يا رسولَ الله، ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: «ولا الجهادُ في سبيلِ الله، إلا رجلٌ خرَجَ بنفسِهِ وماله فلم يَرْجِعْ من ذلك بشيءٍ».

[صحيح] - [رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له]

(150) – Yii a [bn ‘Abbaas nengē, -Wënd yard be b yیبā yīnga-, a yeelame: Wënd Tēn-tuumā, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), yeelame: «**Rasem-rāmb ka be ti tuum sōmbs noom Wënd n yud rasem-kāensā ye**» rat n yeel ti rasem piigā, la b yeel yā: Wënd Tēn-tuumā, baa Gihaadı Wënd sorā pugā? T'a yeele: «**Baa Gihaadı Wënd sorā pug ka yud-a ye, sā n ka ned sēn yi ne a meng la a arzeka, n ka lebg ne baa fu rē pugē ye**». [Naşvn Şahuhvn (Gom-sikdem sēn Sūnnmanege)] - [A Al-Buḥariy la a Abuv Daawvud n togs-a la gom-bilā yii a Abuv Daawvud nengē]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) kōta kibare, ti ad tuum sōng rasem pi-rēeng Higiimdā kiuug pugē wā, yēnda sōmblem n yud rasem-rāmbā fāa gilli.

La Şahaabsā, -Wënd yard be b yīnga- sok Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) ti Gihaadı zēng sēn ka rasem pi-kāensā, rē yīngā yēnda sōma n yud bi yaa tuum sōms rasem-kāensā pugē? Bala bāmb rag n miime ti Gihaadı wā a bee tuum nins sēn yud yel-sōmdā pugē.

Ti Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) lok n yeele, ti ad tuum sōngo rasem-kāensā pugē, a sōmblem n yud Gihaadı zēng sēn ka rasem-kāensā pugē, sā n ka ned sēn yi, t'a yaa sēn zabde, la a kēes a menga la a arzeka

zabrã pugẽ, ti yaa Wënd sorã yĩnga, n kong a arzekã, la a mengã maan kaalem Wënd sorã poorẽ, yãwã soab yel-sõmd n yud tuvm sõng rasem-kãensã pugẽ.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Tuvm yudlem ning sën be Higiimdã rasem pi-rëengã pugẽ, rënd sõmba ne lslaam t'a zaεεg rasem-kãensã, la a wusg tũud-rãmb a pugẽ, la Wënd yuur tēegre -A Naam yı wagell n zēke- la Alkurãan karengo, la "Allaahu akbaru" la "laa laah ulallaah" la "Alhamdu lillah" maanego, la Puvsgo la sãra-rãmba la no-loeere, la tuvm sõmbsã fãa gilli.

(6255)

Ad Wënd ka get y naandã la y arzekã ye, la ad A geta yãmb sũyã la y tvvmã

(151) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى

قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(151) – Yii a Abu Hvrayrat nengẽ (Wënd yard be a yĩnga) a yeelame: Wënd tẽn-tuvm (Wënd puvsg la A tılgır be a yĩnga) a yeelame:- «Ad Wënd ka get y naandã la y arzekã ye, la ad A geta yãmb sũyã la y tvvmã. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) vēnegdame n vilgdē, tī Wēnde, A Naam yilgame n zēke, A ka get yembsã naandã la b yīnsã, a yaa neer bī a yaa wēnga, a yaa bedr bī a yaa kīdga, a yaa laafti bī a yaa bāadã, A ka get rē fāa ye. La A ka get b arzek me ye, a yaa wusg bī a yaa kīdga, rēnd Wēnde, A Naam yī wagell n zēke, A ka yōkda A yembsã, A ka geend-b yel-kāensã yīnga la b yōs-taab a pugē wā ye, la A sēn gete, yaa b sūyã la bumb ning sēn be sūy wā, sēn yaa Wēnd zoεega la sīd-kūuni la sīda la pu-peelem, maa sēn yaa maan-tī-b-yã la maan-tī-b-wum raabo, la ad Wēnd sēn getã yaa b tuumã, rē yīnga a manegame bī a sāmame, rēnd n ges beenē n kō-b yel-sōma la A rol-b rē zugu.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgdame tī b sōmb n loe b zugu ne sūurã manegre la sūurã yulgr n yi sifa b sēn sābse.
2. Hadiisã wilgdame tī sūurã manegr yīta ne pu-peelem la tuumã manegr yīta ne Nabiyaamã (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) pugbo, la yaa bāmba b yīibã me la gesgã zīigã Wēnd nengē, A Naam yī wagell n zēke.

3. Yaa tu ninsaal ra belg a meng ne arzeka, ka a neerem me, ka a yīnga, ka baa fu sēn yaa dūni-kāngā yelā ye.
4. A bugsdame ti b kull n bas yungā gesgo ti ka tū ne pugē wā manegr ye.

(4555)

Ad Wēnd zabda ra-taare, la muumim me zabda ra-taare, la Wēnd ra-taarā zabre yaa muumim sēn wat n maan Wēnd sēn gudgā

(152) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَعَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(152) – Yii a Abuu Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd-tēntuum (Wēnd puusg A la tilgr be a yīnga) yeelame:-«**Ad Wēnd zabda ra-taare, la muumim me zabda ra-taare, la Wēnd ra-taarā zabre yaa muumim sēn wat n maan Wēnd sēn gudgā**». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare ti Wēnd maanda ra-taare la a kisdē wala muumin me sēn maand ra-taare la a kisdē, la Wēnd ra-taarā zabr sababo, yaa sūd-kōt sēn na n maan būmb ning Wēnd sēn

gıdgã, sên yaa yel-beed-rãmbã, wala yoobo, la raoap ne taab kēed-n-taare, la wagdem la rãam yũub la zēng sên ka yi ne rēnda, sên yaa yel-beedã.

Sên be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Yaa bugsgu n yi Wënd gēebã la A sıbgřã, tı b sã n tug n maan A sên gidgã.

(3354)

Zoe-y n zãag-y yel-halkds a yopoe wã

(153) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْقَوْلِيُّ يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(153) – Yi a Abu Hvrayrat nengē -Wënd yard be a yĩnga- a yeelame: «Zoe-y n zãag-y yel-halkds a yopoe wã», la b yeele: « Wënd Tēn-tvuma, yaa bãmb la buse?" T'a yeele: yaa lagem-n-taar ne Wēnde, la tum, la yōor ning Wënd sên gidg tı b ra kv tı sã n ka tũ ne lıslaang hake wã kvubo, la rıbaag rubo, la kub arzek rubo, la gũd kuidg n zoe zabr raare, la Muumin pogsã sên yaa yōk-m-mensã rãmbã, sên pa ning b toag ne yel-beedã rōdbo». [A manegame] [A Al-Bvħariy ne a Muslim zemsa taab a zugı].

Hadiisã welsgo:

Tën-tvumã (Wënd pvvsg la A tulgr be a yïnga) a saganda a poorë rãmbã ti b zãag yel-wëns a yopoe la Wënd kusg sën halkd ninsaala, la b sën wa n sok-a ti yaa busã? A vëneg-b lame ti b yaa:

Rëenem: yaa lagm-n-taar ne Wënde, ne b sën baood mak-n-taase la bilg-n-taase ne Wëndã a sën yaa neng ning fãa, la rik tũudum a sën yaa soab fãa n tũ zëng sën pa Wënde, la a singa ne Lagm-n-taarã; bala, yë n yud zunuub-rãmbã fãa wënga.

Yiibu: yaa tum- yë me yaa yoada, la walma, la tito, la wvvd-rãmba-, t'a namsd b sën maan-a soab tumã yïnga, n kvvda, maa bãaga, maa welg yi-kãadb a yiibã ne taaba, la a yaa Svtãan tvvma, la a wvvsnga fãa pa tõe maan-a rënda ne lagm-n-taare la yũ-wënsã pënegre ne bũmb b sën nonge

tãabo: yõor ning Wënd sën gidg ti b ra kv wã, sã n pa sãri n kõ sor ti bv-bvvdã maan rë.

Naase: yaa rĩbaag reegre n rit-a maa b sën nafd neng ning fãa.

Nu soaba: yaa maan-n-zvuka bi-bilf arzea saamb sën ki n bas-a t'a pa ta kaseng (baalik) ye.

Yoobe: yaa zoe zabre b sën zabd ne Kĩfr-dãmbã.

Yopoe: yaa burkĩn pogsã sën yaa yõk-m-meng rãmbã rõdbo, woto bala la rapã me rõdbo.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa ti zunuub bedã pa tek a yopoe wã ye, la sën welg bãmbã b yopoe wã yaa b bedrmã la b yellã keelem yĩnga.
2. Sakdame ti b ku yōore ti sã n mikame ti tũ ne sār hakē wala maan-n-dolga, la tar-n-yi-dīini, la yoobo ned sën kē kãadem poorē, la yaa sãri bu-buuda n maand-a.

(3331)

m pa na n kō-y kibar ne zūnuub bedã sën yud bedrem?"

(154) – عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [صحيح] - [متفق عليه]

(154) – Yii a Abu Bakrata nengē (Wënd yard be a yĩnga) a yeelame: Nabiyaamã, (Wënd puvsug la A tilgr be a yĩnga) yeelame: "m pa na n kō-y kibar ne zūnuub bedã sën yud bedrem?" Tı tōnd yeele: n-yēe Wënd Tēn-tvuma, t'a yeele: yaa lagm-n-taar ne Wēnde, la roagdb a yiibã namsgo, la a ra kılame t'a zīndi n yeele: la zīri-beedo, la a pa bak n yulemd-a, hal ti tōnd wa yeele: a pa na n yaa n sīndī. [A manegame] [A Al-Bvħariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) kōta a Şahaabsã kibare zũnuub bed sën yudã, n togs bãmbã b tãabã:

1-Yaa lagm-n-taar ne Wënde: yë me yaa f sën na n wënems tũud-rãmbë wã, tũudum, n kō zëng sën ka Wënde, la fo sën na n mams zëng sën ka Wënd ne Wënde, tũudmã wëengë, la Sobëndã wëengë, la yuy wã la suf-rãmbë wã.

2-Yaa roagdb a yiibã namsgo: yë me yaa namsg buud fãa ne roagdb a yiibã, zem ti yaa gomde, maa yaa tumde, la fo sën na n bas maneg n tug b yiibã.

3-Yaa zĩri-beed koëga, sën be yë pugë me yaa kaset zĩri: yë me la gom fãa sën yaa zĩri-beedo, b sën yage, n rat n na n paoog ned ning b sën yag n roglgã, n na n reeg a ligdi, walla maan n zuyg a zugu, a burkĩndë la sën wõnd rë.

La Nabiyaamã, (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) a yulma bugsgã zĩri-beedã koëg zĩigë, ti yaa sën na n wĩnig a wëngã la a sën basd vũun wëns nins nimbuiidã pugë wã, hal ti Şahaabsã wa tug n yeele: d sã n da paam t'a sĩndi: ti yaa Nabiyaamã nimbãan-zoëga, la Şahaabsã sën leb n kis bũmb ning sën namsd Nabiyaamã yĩnga.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Sën be hadiisã yõod pugë, yaa ti zũnuub sën tug n yuda, yaa lagem-n-taar ne Wënde, bala yaa yënda la a rik n ning zũnuub bedã yãoogë, la bala yaa yë n leb n yuda, la bũmb ning sën kengd rë, yaa Wënd

- koεεg sēn yeele, (A Naam zēkame): {Ad Wënd pa basd ti loog ti b sã n maan lagm-n-taar ne-A ye, la A yaafda sēn pa ta rē, A sēn tull a soaba}.
2. Roagdb a yیبā hake zislem sēn ta zīig ninga, ne Wënd sēn rik b yیبā hake-rāmb n tōk ne Wënd hake wā, (A Naam zēkame).
3. Zūnuub-rāmbā, b puita beda la bānengo, la zūnuub bedrā yēnda la zūnuub fāa b sēn rogl namsg a zugu dūni kaanē, wala sāri wā maan-n-rolgā, maa kāabgo, maa pulen-wēng n be beenē alkiyaoom raare, wala sēn na n pulem t'a soabā kēeda Bugmē, la zūnuub bedā me yuda taaba, sānda wēng yuda sānda gıdgrā (Haraamā) wεengē, la sã n yaa zūnuub bānengā yaa sēn ka ta zūnuub bedā.

(2941)

Zūnuub beda: yaa lagem-n-taar ne Wēnde la roagdb a yیبā namsgo la yōor kvvbo la wēen bōrdga

(155) – عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(155) – Yii aʿAbdułlaah [bnʿAmbr [bn Al-ʿaaş nengē (Wënd yard be b yیبā yīnga): ti yii Nabiyaamā nengē, (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) a yeelame:

«Zūnuub bæda: yaa lagem-n-taar ne Wēnde la roagdb a yiibā namsgo la yōor kuvbo la wēen bōrdga». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare ne zūnuub bædã, bãmb me la b sēn pulem a maandã pulem beedo, dūni kaanē maa laahre.

Rēnem soaba: yaa lagm-n-taar ne Wēnde: yē me yaa f sēn na n wēnms tūud-rāmbē wã, tūudum, n kō zēng sēn ka Wēnde, la fo sēn na n zemsg zēng sēn ka Wēnd ne Wēnde, būmb ning sēn welg ne Wēndã pugē, A sobēndã wēengē la yuy wã la sif-rāmbē wã.

Yiib soaba: Yaa roagdb a yiibā namsgo: yē me yaa namsg buud fãa ne roagdb a yiibã, zem ti yaa gomde, maa yaa tuumde, la fo sēn na n bas manegr n tug b yiibã.

Tãab soaba: yaa yōor kuvbo, ti ka tū ne hake, wala sēn na n kv-a ne wēgdo la beem bala.

Naas soaba "yaa wēen bōrdga": yē me yaa zīri-beed wēnego n yaaol n miē ti yaa zīri, b pud-a-la woto, bala a bōrda a soabã zūnuubã maa Bugmã pugē.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wēen bōrdgã a ka tar tuum sēn maand maan n rol ti yaaf-a ye; a bedremã la a wēngã sēn ta zīig ningã yīnga, la sēn be a pugē, yaa tuub n bas bala.

2. Sēn kuvg koεεg n togs zūnuub bed-kāensā a naasā, hadiisā pugē wā, ti yaa b zūnuubā zuslem sēn ta zīig ninga, ka wilgd ti yaa b tēka la woto ye.
3. Zūnuub-rāmbā, b puita bēda la bānengo, la zūnuub bedrā yēnda la zūnuub fāa b sēn rogl namsg a zugu dūni kaanē, wala sāri wā maan-n-rolgā, maa kāabgo, maa pulen-wēng n be beenē alkiyoom raare, wala sēn na n pulem t'a soabā kēeda Bugmē, la zūnuub bēda me yuda taaba, sānda wēng yuda sānda gıdgrā (Haramā) wεengē, la sā n yaa zūnuub bānengā yaa sēn ka ta zūnuub bēdā.

(3044)

Rēenem b sēn na n bv nebā ne taab svka dūni yıkr raarā yaa zumē wā

(156) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(156) – Yii a ‘Abdullaah [bn Mus’uud nengē, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: Wēnd Tēn-tuvmā, (Wēnd puvsɡ la A tulgr be a yīnga) yeelame: **«Rēenem b sēn na n bv nebā ne taab svka dūni yıkr raarā yaa zumē wā»**. [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsq la A tilgr be a yĩnga) togsame ti rēnem b sēn na n bu nebã ne taab sukã dūni yikr raarã yaa b wēg-taabã, zumē wã, wala kuubã la sãmpoagã.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiisã wilgda zumã yell bedrem sēn ta zīg ninga, bala sung ne būmbu wilgdame t'a yaa kegeng n yuda.
2. Zūnuubã yta bedre n zems ne sãang ning sēn be beenē wã bedrem, la tug n yāk yōor sēn ka tar yelle, a yaa sãang sēn yaa bedre, sãang ka be t'a bedremã ta-a sã n ka kifēndem la lagem-n-taar ne Wēnde, (A Naam zēkame).

(2962)

Ned ning sēn wa n kv lslaambã sēn rik Alkaool ne a soaba, a kōn n wum arzãnã yūug ye, la a yūugã wvmdo yta yvwm pis-naas kēnd zīgē

(157) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(157) – Yii a ‘Abduullaah [bn ‘Amr nengē, (Wënd yard be b yiibã yĩnga), ti yii nabiyaamã nengē, (Wënd puvsq la A tilgr be a yĩnga) a yeelame: «**Ned ning sēn wa n kv lslaambã sēn rik Alkaool ne a soaba, a kōn n wum**

arzānā yūug ye, la a yūugā wumda yta yvum pis-naas kēnd zīgē». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pvvsg la A tigr be a yīnga) kōta kibare la a vēnegd n wilgdē, pvlong wēnga, sēn zao ne ned ning sēn wa n kv lslammbā sēn rik alkaool ne-a soaba, yē yaa kifr ning sēn wa n kē lslaambā tēngē ne alkaool la bas-m-yam kūuni, ti ad nin-kāngā soab ka na n wum arzānā yūug ye, la arzānā yūugā, a tata yvum pis-naas kēnd zīgē.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wilgdame ti kv Mu'aahad (b sēn rik alkaool ne-a soaba) la zimmy, la b sēn kō a soab bas-m-yam, a yaa zūnuub bedre.
2. Almu'aahad: yēnda la ned ninga b sēn maan zems-n-taar ne-a kifr-rāmbē wā, la a be a tēngē wā, n ka zabd ne lslaambā ti lslaambā me ka zabd ne-a. La zimmy: yēnda yaa ned ning sēn zī lslaambā tēngē la a kōt fadgo. La musta'aman: yēnda yaa ned ning sēn kē lslaambā tēngē ne alkaool la bas-m-yam kūuni n tug wakat sēn yāk toaaga.

3. Hadiisã bugsdame n yi alkaool-rãmbã zãmbgo ne zëng sën ka lıslaambã.

(64637)

Rog wãas ka këed arzãn ye

(158) – عن جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله

عليه وسلم يقول: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِيمٍ». [صحيح] - [متفق عليه]

(158) – Yii a Gvbayr nengë, (Wënd yard be a yīnga) t'a wuma Nabiyaamã (Wënd puvsɔg la A tulgr be a yīnga) t'a yetë: "Rog wãas ka këed arzãn ye". [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsɔg la A tulgr be a yīnga) kōta kibare, ti ned ning sën wa n wãag a rog pëtbã, bumb ning sën yaa tilae, ti yaa hake-rãmb t'a kō-ba, maa a nams-b lame la a wëng-ba, yë soaba sōmbame ti b ra këes-a arzãnã ye.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbë:

1. Wilgdame ti rogem wãagre, yaa zunuub bedr sën be zunuub bedã pugë.
2. Rogmã tōkre, a yitame n zems bumb ning nebã sën nimim ti yaa rogem tōkrã, rënd a yōsgdame ne zīsã yōs-taabã la zamaan-rãmbã la nebã.

3. Rogem tōkr tūuda ne kaagr la sara maanego la manegre la bāad-rāmb kaagre, la f sagl-b ne manegre la f gđg-b ne yel-kiti la zēng sēn ka rēnda.
4. La rogmā wāagr sā n wa yī sēn pē a n yudā, a zunuubā yīta kegeng n yuda.

(5367)

Ned ning sēn wa n tvlla tī b yalg a rītlā la b yaool a vūunā, bī a tōk a rogmā

(159) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(159) – Yii a Anas nengē (Wēnd yard be a yīnga) tī ad Tēn-tuvmā (Wēnd puvsg la A tūlgr be a yīnga) yeelame: "Ned ning sēn wa n tvlla tī b yalg a rītlā la b yaool a vūunā, bī a tōk a rogmā". [A manegame] [A Al-Bvḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tūlgr be a yīnga) kōta bikare, tī b tōk rog pētbā ne kaagre la b waoog-ba yīng wēngē la arzek wēngē la zēng sēn ka yī ne rēnda, t'a yaa sabab n yalgđ rītla la a tonged yōore.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Rogmā, bāmb la pētbā, maa ba wā la ma wā wēngē, la rogmā sēn wa n tug n pē n yud fāa, mikdame tī yē n sōmb ne tōkr n yuda.

2. Hadiisā wilgdame ti rolbā yta wala tuumdā buudu, rēnd ned ning sēn tōka rogem ne manegr la neer maanego, Wēnd tōkd-a lame a yōorā wolgem wεngē la a ritlē wā.
3. Wilgdame ti rogem tōkre, a yta sabab sēn paasd ritla la a yalgd-a, la sabab n wogend yōore, baa tu sā n mikame ti ritlā la yōorā yaa būmb sēn yāk toaaga, a maanda bark b pusē, t'a maan a vumā pugē yel wusgo la nafa, ti yud a taabā sēn maandā, sāndā pus n yeelame ti yta ne yōorā woglemā la ritlā paasg sud-sida. La Wēnd n yud minim.

(5372)

Ad rog tōkda pa sēn maanda neere n rondē wā ye, la ad rog tōkda yaa b sēn na n wāag a soab rogem, la a sēn tōkd-a

(160) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الْوَأْصِلُ بِالْمُكْفَى، وَلَكِنَّ الْوَأْصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَّهَا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(160) – Yii a Abdullaah [bn Amr nengē, -Wēnd yard be b yīibā yīnga-, ti yii Nabiyaamā nengē, (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) a yeelame: «**Ad rog tōkda pa sēn maanda neere n rondē wā ye, la ad rog tōkda yaa b sēn na n wāag a soab rogem, la a sēn tōkd-a**».

[A manegame] [A Al-buhaarīy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) kōta kibare ti ned ning rogem tōkr sēn pidi, la rog-pētb manegre, pa ned ning sēn yekd manegrã ne manegrã ye, la tōkd hakukã, rogem tōkr sēn pidã, yē la b sēn na n wãag a rogmã t'a tōk-a, baa ti b sã n maan-a wēnga; a yekd-b-la ne manegre, la maan neere.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Rogm tōkr ning sãri wã sēn datã, yaa fo tōk sēn wãaga foom b pugē wã, la yaaf sēn wēga foom, la f kō sēn mōnga foomã, la pa tōkr ning sēn yaa maane-m tu m maan-f ye.
2. Rogmã tōkr yita ne fo taas fo sēn tōe tēka, sēn yaa sōma fãa, ligdi, la doose, la saglg ne manegre, la gıdg-ba n yi yel-kiti, la sēn wōnd rē, la f tus wēngã, f pãng tōog tēka, n yi-ba.

(3854)

(161) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟»، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(161) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wënd yard be a yīnga), tı Wënd Tēn-tvuma, (Wënd puvsg la A tıgr be a yīnga) a yeelame: "Yāmb mii wıdg sēn yaa a sab bu?" Tı b yeele: Wënd la A Tēn-tvumā n yud minim, t'a yeele: " yaa fo sēn na n tēeg f saam-biig yelle, būmb ninga a sēn kisi", tı b yeele: la sã n mikame tı mam sēn yet būmb ningã be mam saam-biigē wã? T'a yeele: " fo sēn yetã sã n be a nengē fo wid-a lame, la sã n ka be a nengē, f yaga zīri-beed n rogl-a. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tıgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, wıdg sēn yaa haraamā a hakukā sēn yaa a soaba, yē me la fo sēn na n gom lıslaam sēn ka be yelle, a sēn kisi zem tı yaa a naanegã maa a zvgdã wængē, wala woabga, zam soaba, ziri-be-neda, la sēn wōnd rēnda sēn yaa sãbsg sıf-rãmba, baa tı sã n mikame tı sıfã be a nengē.

La sã n mikame tı sıfã ka be a nengē, rēnd yēnda keelem yuda wıdga, yē me la zīri-beedo, rat n yeele, tı pasg n rogl ninsaala būmb ning sēn ka be a nengē.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) wilg sōngã, ne a sën gom masaal-rāmba n tūnug ne sokre.
2. Yaa sahaabsã zug sōngã ne Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), b sën yeel ti yaa Wënd la A Tën-tuumã n yud minimã.
3. B sã n sok ned a sën ka mi bi a yeele: Wënd n yud minim.
4. Yaa sari wã sën bu nimbuidã ne a sën gū hake-rāmbã la ma-biir ning sën be bāmb suka.
5. Yaa ti wɪdga yaa būmb sën yaa haraam, sã n ka halhaal-rāmb sānda, manegr yīnga; sën be rē pugē yaa f sën na n tus wēgdo n yi f menga, ne b sën wēg a soabã sën na n togs wēgda yelle, ned ning sën reeg a hake wã n kō-a nengē, bilgr t'a yetē: a zagl wēga maam, maa a maana maam woto. La sën be a pugē ad yaa saawar maanego furi maa lagem-taab n tume, maa yak-n-taar wεengē la sën wōnd rēnda, a sã wa tug n sokd naag-n-taagã yelle, a tōe n togs-a lame.

(162) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَبِيَّ فِي الْحُكْمِ. [صحيح] - [رواه الترمذی وأحمد]

(162) – Yii a Abu Hvrayrat nengë, (Wënd yard be a yĩnga) a yeelame: Wënd Tën-tvumã (Wënd pvvsg la A tılgr be a yĩnga) a kãaba zãmb soaba la sên reegd-a n na n maan zãmbã buvd pugë. [A manegame] [A At-turmiziy la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tılgr be a yĩnga) kosa rigb la zãagre n yi Wënd yolsgo, (A Naam yi wagell n zêke), n kō ned ning sên kōta zãmbã la sên reegd-a wã.

La sên be rē pugë b sên kōt bu-kaoodbã sên na yilë ti b bu n wëg buvdã pugë: sên na yilë ti kōtã paam bumb ningã a sên rata ti ka tũ ne sid ye.

Sên be Hadiisã yōod-rãmbë:

1. Bee hadiisã pugë ti b gıdga zãmb kũuni, la a reegre, la kē suk t'a yi, la a sōngre; ne sên be a pugë sên yaa sōng-taaba ne zĩri-beedo.
2. Wilgdame ti kō ligdi n na n maan zãmbã a bee zũnuub bedã pugë, bala Wënd Tën-tvumã (Wënd pvvsg la A tılgr be a yĩnga) a kãaba a reegdã la a kōtã.

3. Zāmbā kūuni buudā wεengē wā, yēndā wēng n yuda, yē zūnuub n leb n yuda; bala be a pugē, sēn yaa wēgbo, la bu ne zēng sēn ka Wēnd sēn sikā.

(64689)

Gūus-y y mens ne sāmbse, ti ad sāmbāsā la gom sēn tvg n yud zīri-beedo

(163) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ»، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا». [صحيح] - [متفق عليه]

(163) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga), ti yii Nabiyaamā nengē, (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) a yeelame: «Gūus-y y mens ne sāmbse, ti ad sāmbāsā la gom sēn tvg n yud zīri-beedo, la y ra pēes n bānge, la y ra vees n bāng ye, la y ra maan taab sū-kiir ye, ra rabs-y taab ye, ra n gē-y taab ye, la y yī Wēnd yembse, n yaa ma-biisi». [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) a gudgdame la a bugsd yel sānda sēn yut sabab n kēng ne welgre la beem lūslaambā ne taab suka, la sēn be rē pugē:

Yaa (tē-wēnga) yē me yaa rōdb sēn zīndid sūurē wā ti ka tū ne daliil ye, la a wilgame ti yaa yēnda la goamā sēn yud zīri-beedo.

Yaa (pēesgo) yē me la baood nebā yāna n na n bānge, sēn tū ne nifri maā tubre.

Yaa (veesgo): yē me yaa bao n na n bāng yel sēn solg yelā pugē, la noor wusgo yaa sēn na n yaa wēng bao n bāng pugē.

La (sū-kīiri) yē me yaa fo sēn na n ka nong ti neb a taabā paam neemā.

La: (K₁s taab zā-kuidsi) ne b sēn na n ball n bas taaba, n ka pūvsd taaba, la ka kaagd a ma-bi-taag sēn yaa lūslaama ye,

La: (gē-taaba) la kisg-taaba la zoe-n-zāag taaba, wala neb a taabā namsgo, la nen-gānenga la yek-yooko.

Rē poorē ti Nabiyaamā yeel gomd sēn tigme, ti lūslaambā yalē wā bāmb ne taab sukā manegdē, sēn tū ne gom-kāngā, a yeelame: (Y₁-y Wēnd yembse, n yaa ma-biisi) Rēnd ma-biirā, a yaa tōkre, ti nebā ne taab kiid-n-taarā tabend ne-a, ti nonglemā la miningā paasd bāmb ne taab sukā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Tē-wēngā pa yooko ne ned ning wēngā tagmas-rāmb sēn vēneg a soab nengē ye, la sōmba ne muumin t'a y₁ yam soaba, n yaa pū-tē witg soaba, n ka belgd a menga ne nin-wēnsā la dīin-yitbā ye.

2. Sēn ratā yaa bugs n yi rōdb ning sēn tabend nebā menga, la a leb n gidg ti b ra kell n duum a zug ye, la sā n yaa būmb ning sēn balled a nengē, n ka tabendē, yē soabā b ka rogend ninsaal a yellā ye.
3. Yaa būmb ning sēn tōe n yī sabab ti lūslaambā zāma zab taab la b wāag taabā gidgre, la pēesg la sū-kiir la sēn wōnd b yīibā gidgre.
4. Yaa saglg ti b tum ne lūslaam ti yaa wala fo sēn tum ne f ma-biiga, saglg la nonglem wεengē.

(5332)

Gom rigsd ka kēed arzān ye

(164) – عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه

وسلم يقول: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ». [صحيح] - [متفق عليه]

(164) – Yii a Huzayfa nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: m wuma Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) t'a yetē: "Gom rigsd ka kēed arzān ye" [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare ti tēn-kān-wēeda sēn rikd goamā nebā ne

taab suka, tu yaa sēn rat n na n sām b ne taab suka, tu ad a sōmba ne sibgre ne b sēn ka na n kēes-a arzāna.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wilgdame tu tēn-kān-wēendā yaa zunuub bedr sēn be zunuub beda pugē.
2. Hadiisā gudgda tēn-kān-wēendo, bala be a pugē, sēn yaa sāanga la namsg sēn paamd nebā yembr-yembre la zāmā wā fāa gilli.

(5368)

Mam poorē rāmbā fāa yaa sēn yuof-b rāmba, sā n ka vēnegdbā

(165) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَاذِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(165) – Yii Abuu Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīng) a yeelame: mam wuma Wēnd Tēn-tuuma (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: «**Mam poorē rāmbā fāa yaa sēn yuaf-b rāmba, sā n ka vēnegdbā, la sēn be vēnegrā pugē, yaa ned sēn na n maan tuum yungo, n vēeg beoog tu Wēnd luda a bāngo, t'a tvg n yetē: zagla! Ad yungē mam maana woto la woto, ad**

yē rag n gāanda yungē t'a Soabā yaa sēn lud a bāngo, t'a vēeg beoong n pārgd Wēnd svtrā (bān-loerā) n basd a mengā». [A manegame] [A Al-Bv̄haariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd p̄v̄vsg la A tulgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē ti lslaam sēn yaa zūnuub soaba, a tēeda Wēnd yolsgā la A yaafgā a yīnga, sā n ka ned ning sēn wa n vēnegda Wēnd kulgā, n pugd ne-a la yaa yalamdo, yē soab ka sōmb ne yaafa ye, ne a sēn na n maan Wēnd kulg yungo, n vēeg beoog ti Wēnd yaa sēn lud a bāngo, t'a tug n yēsd ne nin-zēnga ti yē maana Wēnd kus-kāngā zaame, ti Wēnd yaool n da luda yē bāongo, ti yēnda vēeg beoog n pārgd Wēnd bāongā n basd a meng ne yānde!!

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wilgda Wēnd kulgā vēnegr wēng sēn ta zīig ninga, Wēnd sēn maan-f lubb poorē.
2. Maan Wēn-kulgā n vēnegdē wā, a sēegda yel-beedā muumin-rāmbā ne taab suka.
3. Wēnd sēn lud a soab dūni kaanē, A maand-a-la lubb yaoleem raarā, la woto yaa sēn be Wēnd yolsgā sēn yaa yaleng ne A yembsā, (A Naam yī wagelle).

4. Ned ning b sēn wa n zarb ne Wēnd kusgo, yaa tlae ne-a t'a lud a mengã, la a tuub n tug Wēnd nengē.
5. Wilgda vēnegdbã zūnuub bedrem sēn ta zīig ninga, sēn maand-b pu-toog ne Wēnd kuskã vēnegrã, n pōsgd b mens ne Wēnd yaafg la A laafi wã maanego.

(3756)

yāmb a neba! Ad Wēnd seesa zulem sasa yelā n bas yāmbã, la a wug-m-menga ne yaab-rāmbã

(166) – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيْةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظَمَهَا بِأَبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيَّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: ١٣]». [صحيح] - [رواه الترمذي وابن حبان]

(166) – Yii a [bn ‘Umar nengē (Wēnd yard be b yiibã yīnga): Tı Wēnd Tēn-tuvmã (Wēnd puvsug la A tilgr be a yīnga) a goma ne neba, Mak pakrã raare, n yeele: «yāmb a neba! Ad Wēnd seesa zulem sasa yelā n bas yāmbã, la a wug-m-menga ne yaab-rāmbã, rēnd nebã yaa neb a yiibu: manegda sēn yaa Wēn-zoeta n yaa turg Wēnd nengē, la nin-wēnga sēn yaa zu-be-neda n yaa yaalg Wēnd nengē. La nebã yaa a Adam koamba, la Wēnd

naana a Adam ne tom. Wënd yeelame, A Naam zêkame: {yâmb a nebã ad Tõnd naana yâmb n yi rao la pagê, la D maan yâmb ti yaa zâmaan fãa ne a neb, la buu-rãmba bui ying ti y bång taaba, ad yâmb waoor sên yuda Wënd nengê yaa sên yuda ne Wên-zoεg yâmb pugê, ad Wënd yaa Mita n yaa Minim-têng-n-biiga} [Al-Hugraat: 13]». [A manegame] - [A At-turmiziy la a]bn Hibbaan n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puug la A tilgr be a yinga) goma ne neba, Mak pakrã raare, n yeele: yaa yâmb a neba, ad Wënde, A zêkame n yêes n bas yãmba, zulem sasa waoog-m-mengã la a puglgã ne barãmba, la ad nebã yaa kôbg a yiibu:

maa ti yaa sid-kôta n yaa manegda n yaa Wên-zoeta, n yaa tûuda ne Wënde, (A Naam yi wagell n zêke), rënd yãwã soaba a yaa waagell Wënd nengê, baa t'a soab ka bu-bedr soaba, la nin-bedr nebã nengê.

Maa ti yaa kifre, n yaa wënga, n yaa zu-be neda, yãwã soaba yaa yaalg Wënd nengê, a ka zem baa fu, baa ti sã n mikame ti yaa buud soaba, n yaa nin-bedr nebã nengê, n yaa naam soaba.

La nebã yaa a Adam koamba, la Wënd naana a Adam ne tom. Rënd ka sômb ne ned ning yagr sên yaa tom, t'a waoog a menga la a maan yel-solemd ne a

meng ye, la gom-kāngā sidgre, yaa Wënd koεεgā sēn yeele, (A Naam zēkame): { yāmb a nebā ad Tōnd naana yāmb n yi rao la paga, la D maan yāmb ti yaa zāmaan fāa ne a neb la buud-rāmba bul yīng ti y bāng taaba, ad yāmb woor sēn yuda Wënd nengē yaa sēn yuda ne Wēn-zoεεg yāmb pugē, ad Wënd yaa Mita n yaa Minim-tēng-n-biiga} [Al-Hugraat: 13]».

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa gidgr ti b ra pug ne buud la arzεgs ye.

(65074)

Ad nebā sēn yud gēeg Wënd nengē, yaa zab-to neda

(167) – عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «إِنَّ أَبْغَضَ الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْحَصِيمُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(167) – Yii Aasa nengē (Wënd yard be a yīnga) ti yii Nabiyaamā nengē (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) a yeelame: "Ad nebā sēn yud gēeg Wënd nengē, yaa zab-to neda". [A manegame] [A Al-Bvḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) kōta kibare ti Wēnde, A Naam yī wagell n zēke, a gēeda nebā pugē ned ning zabr sēn yaa kegenga n yaa wvsgo, n ka sakda n na n tū sīda, n rat n na n tōdga ne no-koεema,

maa a zabda ne sida la a maandē ti looge zabrā pugē n yit tēeg trg pugē, n maan tak-n-taare ti ka tū ne bāngre.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Ka kēed zab-zabd sābsgā pugē ned sēn na n wa baood a hake ne sēn tū sari wā sore.
2. Wilgdame ti no-koemā la zabā, b bee zelemā wā bāas pugē, sēn yit sabab n maand welgre la rabs wēnga lɪslaambā ne taab suka.
3. Tak-n-taarā sakdame ti sā n mikame ti yaa sɪd pugē n leb n tū ne sor sēn yaa sōma, la a yaa būmb b sēn sābse sā n wa mikame ti yaa sɪd tōdgre la zīri-beed tablgo, maa a yume ti ka tū ne daliili.

(5474)

Lɪslaamb a yɪib sā n yek taab ne b svvsā, nin-kvvdā la kiidā fāa bee Bugmē

(168) – عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول: «إِذَا التَّمَّى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ

حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(168) – Yii Abu Bakr nengē- Wēnd yard be a yīng- a yeelame: mam wuma Wēnd Tēn-tvuma (Wēnd pvvsg la A tɪlgr be a yīnga) t'a yetē: « **Lɪslaamb a yɪib sā n yek taab ne b svvsā, nin-kvvdā la kiidā fāa bee Bugmē**», ti

mam yeele: Wënd Tën-tvumã, yãwã yē la nin-kvvdã, tōnd mii yēndã yellã, la kiidã yaa bōe yīng t'a kēed Bugmē? La a yeele: «ad yē me rag n yume n tar yã-beedo, n na n kv a tūud-d-ntaagã». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) kōta kibare, ti lslaamb a yiib sã n yek taaba, ne b svus a yiibã, ned fãa rat n na n halk a to, rēnd nin-kvvdã bee Bugmē, a sēn kv a tūud-n-taagã yīnga, la yellã gēdga ne sahaabsã kiidã yīnga: yaa bōe ti yē be Bugmē? Tı Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) kō kibare, ti ad yē me bee Bugmē, bala a rag tara nonglem n na n kv a tūud-n-taagã, la būmb ka gidg-a rēnda yãwã soabã svvgã sēn reng n kv yē wã bala.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiisã wilgdame ti ned ning sēn wa n loe ne Wënd kusk tvuma, a sōmba ne namsgo, t'a sã n rik Wënd kuskã sabab-rãmba.
2. Hadiisã bugsda ne kengre lslaambã wa ti zabd taaba, la a leb n maand puleng wēnga ned ning sēn wa n maana tvum-kãngã ne Bugum.

3. Luslaambã ne taab suka, zabrã sã n yaa sɪd zabre, yē ka kēed puleng beedã pugē ye, wala zab ne kusdbã la sãamdbã.
4. Hadiisã wilgdame ti ned sēn maan zunuub bedre, a ka kfēnde, ne a sēn maan tuumdã ye, bala Nabiyaamã (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) a puda zabd-n-taas a yiibã ti luslaamb a yiibu.
5. Luslaamb a yiib sã n yek taaba, sēn tū ne sor ning fãa ti kuvb tōe n zīndi, ti b yiibã yembr ku a to, rēnd kuvdã la kiidã fãa bee Bugmē, la a sēn yeel ti suvgã, a yaa bilgr bala, la baa sēn yaa bumb ning fãa, a kēeda puleng wēngã pugē.

(4304)

Ned ning sēn wa n zēka zab-teed tōnd zugu, a ka be tōnd pvgē ye

(169) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [صحيح] - [متفق عليه]

(169) – Yii a Abu Muusa Al-as'ary nengē, (Wēnd yard be a yīnga), ti yii Nabiyaamã nengē, (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) a yeelame: «**Ned ning sēn wa n zēka zab-teed tōnd zugu, a ka be tōnd pugē ye**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yĩnga) bugsda nebã ti b ra zëk zab-teed lıslaambã zug ye, n na n yees-ba, maa n na n fã b arzegse, ned ning sën maana rënda ti ka tũ ne hake, a maana yel-wëng sën yaa bedre, n le yaa zũnuub bedre sën yi zũnuub bedã pugë, a soabã leb n sõmba ne puleng wëng-kãngã sën yaa kegengã.

Sën be Hadiisã yood-rãmbë:

1. Yaa bugs kegenga ne lıslaam t'a ra wa zab ne a ma-bi taasã sën yaa lıslaambã ye.
2. Sën be Yel-kiti wã la sãang sën yaa bed têngã zugu, yaa tug n foogd zab-teedo lıslaambã zugu, la sãang maanego sën tũ ne kuvbo.
3. Yaa ti pulen-wëng ning sën togsã, a ka naag zabr ning sën wat n yaa ne hake wã ye, wala b sën na n wa ti zabd ne kedgdbã sën namsd-b lıslaambã la sãamdbã la zëng sën ka bãmba.
4. B gidga lıslaambã yeesg ne zab-teedo la zëng sën ka yu rë, -baa ti sã n mikame ti yaa reem-.

(2997)

(170) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(170) – Yii a Aaisa nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: tı Wēnd Tēn-tvmā yeelame (Wēnd pvsug la A tılgr be a yīnga): "Ra tv-y kiidbā ye, ad b loogame n kēng b sēn tvm ti reng taoorē wā".

[A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pvsug la A tılgr be a yīnga) vēnegdame n wilgd kiidbā tvvbā sēn yaa haraam, la b burkīndā kāsgre, tı ad woto yaa zvg wēnse, bala kiidbā taa zīig ninga b sēn tvm ti reng taorā, zem tı yaa sōma maa yaa wēnga, sēn paasde tv-kāensā ka tat-b ye, la a namsda vitbā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wilgda kiidbā tvvb sēn yaa haraam.
2. Bas kiidbā tvvbā yaa būmb sēn yaa gūusgu ne vitbā, n leb n gūud nimbuiidā laafı, n leb n gūud nimbuiidā tı b tılgr n yi zab taabā la gē-taagā.
3. Yōod ning sēn be b sēn gidg tı b ra tv-ba, yaa tı bāmbā, b taa b sēn tvm ti loogē wā, rēnd tvvbā

ka nafd-ba n yaool n namsd a rog-pētb nins
sēn yaa vtbā.

4. Yaa tu ka sōmb ne ninsaal t'a wa tug n yeel
būmb manegr sēn ka be a pugē.

(5364)

Ka sōmb ne neda t'a wāag a ma-bi taaga, tu yud rasem a tāab ye, tu b yekd taaba, tu yāwā killed kaanē, tu yāwā killed kaanē, la b yiibā sōma sēn yuda, yaa sēn sunga a to wā pwsgā

(171) – عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(171) – Yii a Abu Ayūb Al-ansaary nengē (Wēnd yard be a yīnga) tu ad Wēnd Tēn-tvumā (Wēnd pwsrg la A tulgr be a yīnga) yeelame: "Ka sōmb ne neda t'a wāag a ma-bi taaga, tu yud rasem a tāab ye, tu b yekd taaba, tu yāwā killed kaanē, tu yāwā killed kaanē, la b yiibā sōma sēn yuda, yaa sēn sunga a to wā pwsgā". [A manegr] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pwsrg la A tulgr be a yīnga)gidgame tu līslaam wa tug n wāag a ma-bi taag n yud rasem a tāabo, tu b yiibā yembr fāa segd a to , n ka pwsdē, n ka gomda.

La zabd-n-taas a yiibā sōmlem sēn yuda, yaa sēn modgda n rat n yāk wāagrā, n sung ne pwsrgo, la sēn yeel tu wāagrā kaanē wā, yaa wāagr ning sēn yaa fo mengā hake wā, la sā n mikame tu yaa wāagr ning sēn

yaa Wënd hake wã, wala Wënd kusdbã la bida wã rãmb, la tũud-n-ta wẽnsã wãagre, yẽnda ka bũmb sãn yãk toaag ye, yẽnda yaa bũmb sãn yag ne manegr ning sãn be wãagrẽ wã, rẽnd a setame ne wẽngã seẽbo.

Sãn be Hadiisã yõod-rãmbẽ:

1. Hadiisã wilgdame ti sakdame ti b wãag neda rasem a tãab pugẽ, maa sãn ka ta rẽnda, ti yaa sãn na n gũus nebã me rog-ne wã, rẽnd b yaaf n basa wãagr ning sãn yaa rasem a tãabã, bul yĩng ti sabab ning sãn maanã na looge.
2. Yudlem ning sãn be puvs taab pugẽ wã, la ad a yidgda bũmb ning sãn be a yõy wã sãn yaa kisgu, a leb n yaa tagmas ne nonglem.
3. Lslaangã maana yã-beed ne ma-bi taarã la mining ne taaba lslaambã ne taab suka.

(5365)

ned ning sãn kô a maam bas-m-yam ne bũmb ning sãn be a ye-peed a yilbã svka la a nao a yilbã svka, m kôt-a-la bas-m-yam ne arzẽnã

(172) – عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «مَنْ يَضْمَنَ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ».

[صحيح] - [رواه البخاري]

(172) – Yii a Sahl [bn Sa'ad nengẽ, (Wënd yard be a yĩnga) sãn yi Wënd Tẽn-tuuma - Wënd puvs la A tulgr

be a yĩnga- t'a yeelame: " ned ning sēn kō a maam bas-
m-yam ne būmb ning sēn be a ye-peed a yiibā svka la a
nao a yiibā svka, m kōt-a-la bas-m-yam ne arzēnā".
[A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pvsug la A tlg̃r be a yĩnga) kōta
kibar ne yel a yiibu, luslaam sã n tablg-ba a kēeda arzēna,
Rēenema: yaa zilemdã gūusgu n ra gom sēn gēed Wēnd
ye, A Naam zēkame, Yiib soabã: yaa Taoorã gūusgu n
da kē yoob pugē ye; bala yĩn-wil-kāensã b yiibã, wēnd
kugã noor wvsgo a tūuda ne b yiibã.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wilgdame ti zelemdã ne taoorã gūusgu,
a yaa sor sēn kēesd arzāna.
2. A welga zelemdã ne taoorã n togse; bala yaa
bāmb b yiibã la yel beedã sēn paamd ninsaalã
yēgre, dūni la Laahre.

(3475)

Mam ka bas m poorē wā fitna (zarb-n-gesg) sēn namsd raopā n leb yud pagbā ye
 (173) – عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النَّسَاءِ». [صحيح] - [متفق عليه]
 (173) – Yii a Usaamat [bn Zayd nengē, -Wënd yard be b
 yiybā yīnga-, tī Wënd Tēn-tvuma, (Wënd puvsg la A tulgr
 be a yīnga) yeelame: «**Mam ka bas m poorē wā fitna (zarb-
 n-gesg) sēn namsd raopā n leb yud pagbā ye**». [A manegame]
 [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) kōta
 kibare, tī ad yē ka bas a poorē, zarbgo t'a namsd raopā,
 n leb n yud pagbā ye, sā n mik tī yaa a zak rāmba, tōe n
 yu sabab tī yēnda yōsg sāri wā, sā n mikame tī yaa pug-
 zēnga, ad a sēn gēdgd ne-a wā la a lakd ne-a wā, la
 būmb ning sēn na n yī rē pugē, sēn yaa sāanga.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Sōmba ne lūslaam t'a gūus pagbā masuba la a
 yēd sor fāa gill sēn na n wa ne zarbg ne-a.
2. Sōmba ne sūd-kōta t'a gād Wēnde, la a maan
 yamleog n tug Wēndē, n na paam tulgr n yī zarbgā.

(5830)

(174) – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(174) – Yii a Abu Saud Al-hudriy nengē (Wënd yard be a yīnga) ti yii Nabiyaamā nengē, (Wënd puusg la A tigr be a yīnga) yeelame: «**Ad dūni wā yaa noogo n yaa bugsgo, la ad Wënd na n ledsa yāmb a pugē arzəgsē wā n ges būmb ning yāmb sēn na n tyme, bi y zoe dūni la pagbā, ti ad rēnem fitna (zarb-n-ges) sēn zīnd [sraeel koambē yu pagbē wā]**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puusg la A tigr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, ti dūni yaa noogo a lembgē, n yaa bugsgo, n yaa kōodre a gesgē, ti ninsaal belg a meng ne-a n nidgd pānga a pugē, n ruk a yugrā fāa gilli ti yaa yēnda. La ad Wēnde, (A Naam yulg n zēke), A maanan tōnd sānda ti d ledsd taaba dūni-kāngā vumā pugē, n na n ges d sēn na n tvm a soaba, d na n yals ne A tūudmā bi d na n kus-A lame? Rē poorē t'a yeele: gūus-y ti dūni wvm-noogā la a faas-teedā ra wa belg yāmb ye, n tall

yāmb ti y bas būmb ning Wënd sēn sagl yāmb ne wā ye, n wa ti lvi b sēn gıdg yāmb a soabā zug ye. La būmb ning bedrem sēn yud ti y sōmb n gūus y mens n yi dūni wā fitna wā, ad yaa pagbā fitna, bala yēnda la rēnem Fitna [sraeel koambā sēn lvi a zugu.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā pirsdame ti b tablg Wënd zoεega la b ra maan soagl ne dūni wā yelā la a faas-teedā ye.
2. A bugsdame ti b gūus b mens n yi pagbā fitnā wā pugē, sēn yaa gesgo, maa yaal-yaale maanego n gēdg ra-zēmse, la zēng sēn ka rēnda.
3. Pagbā zarb-n-gesgā, a naaga zarb-n-ges bēd nins sēn be dūni-kāngā pugē wā.
4. A wilgda waazu maanego la yam rıkre, zamā-rāmb nins sēn reng taorā nengē, rēnd būmb ning sēn paam [sraeel koambā, tōe n paama zēng sēn ka bāmba.
5. Pagbā fitnā wā (zarb-n-gesgā) sā n mikame ti yaa f paga, rēnd a tōeeme n roglg raoa rıtla raoā sēn ka tōe, ti rēnda maan-a soagla t'a bas dīinā yel baooob, n yi sabab n tall-a n kēes halkr pugē, dūni wā baooob wεengē, la sā n mikame ti yaa

pug zēnga, yēnda fitnā wā yaa a sēn na n belgd raopā la a kuld-b n yi sūdā zugu, ti pagbā sā n yi n tug n gēdg raopā, sēn tug n yuda sā n mikame ti yaa pagb sēn ka lud b zutu, n ka yeelg sōma, la woto tōeeme n yi sabab n tall-b n kēes yoob puga, yoobā dargε-rāmb kōbg toor-toore, rēnd sōmba ne muunim t'a gād Wēnd wīirā la a maan yamleog n tug Wēnd nengē t'A gū-a n pōsg-a n yi pagbā zarbgā.

(3053)

Fur loees ka manegde, rēndame ti tū ne biig ba-rāmbā minim

(175) – عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(175) – Yii a Abv Muusa nengē (Wēnd yard be a yīnga) ti Nabiyaamā (Wēnd pvsug la A tigr be a yīnga) a yeelame: «**Fur loees ka manegde, rēndame ti tū ne biig ba-rāmbā minim**». [A manegame] - [A Abv Daawvd la a At-turmiziy la a Ibn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wēnd pvsug la A tigr be a yīnga) vēnegrime n wilgdē, ti paga, a fur ka manegde, rēndame ti tū ne biig ba, sēn na n yik n yals ne fura loeese.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wali wã yaa sart furã manegr wængē, rënd b sã n loe fur ti ka tũ ne wali, maa pagã sã n loe a meng furi, ka manegd ye.
2. Yaa ti wali wã yēnda la raopã sën tug n yud rog-pētem ne pagã, rënd biig ba ning sën zārã wã ka tōe n fur pagã ti sën pē-a n yudã sã n be beenē.
3. Yaa sart ti wali wã yī baalika, n yaa raoa, n mi sōma n welge, n mi fur yōod-rāmb sën yaa soaba, la wali wã (biigã baaba) ne pagã dīin yī a yembre, rënd ned ning sën wa n ka suf ne yel-kāensã a ka sōmb n yī biig ba, fur loεgē ye.

(58066)

Sart-rāmb nins sën sōmb ne yāmb pidsgã, yaa yāmb sën rik sart-rāmb nins ti tao wã lebg halaal ne yāmba

(176) – عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشَّرْوَطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّكُمْ بِهِ الْفُرُوجُ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(176) – Yii a ‘Ukbat [bn ‘Aamir nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: Wënd Tën-tvuma, (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga), yeelame: «**Sart-rāmb nins sën sōmb ne yāmb pidsgã, yaa yāmb sën rik sart-rāmb nins ti tao wã lebg halaal ne yāmba**». [A manegame] [A Al-Buħariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, tu sart-rāmb nins sēn sōmb ne pidsgā, yaa sart-rāmb nins sēn yi sabab tu wum noog ne pagā lebg halaal ne-fo, bāmb me la sart-rāmb nins sēn sakd tu pag rıglg-a fur loeesē.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa tulae tu b pids yi-kāadb a yiibā yembr sēn na n ruk ne a to wā, sã n ka sart ning sēn wa n tug n haram halaale, maa a maaname tu halaal lebg haraam.
2. Pids furã sart-rāmbã, yēnda n keng n yud zēng sēn ka rē, bala a yaa būmb sēn maan ti tao wã lebg halaale.
3. A wilgda furã darge lıslaangã pugē, ne a sēn maane n keng ti b pids a sart-rāmbã.

(6021)

Dūni wā yaa wwm-noogo, la dūni wwm-noog sēn yuda, yaa pvg-sōngo

(177) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(177) – Yii a ‘Abduullaah [bn ‘Amr nengē, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd pvsug la A tlgrr be a yīnga) yeelame: «**Dūni wā yaa wwm-noogo, la dūni wwm-noog sēn yuda, yaa pvg-sōngo**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā -Wēnd pvsug la A tlgrr be a yīnga -kōta kibare, ti dūni wā la būmb ning sēn be a pugē wā fāa, a yaa būmb b sēn wmsd noog ne-a wakat bilf bala , rē poorē t'a wa gōbg n bas ninsaala, la ad dūni wwm-noogā sēn tvug n yuda, yaa pvg-sōngo, pag ning ti fo sã n ges-a a noogda f sūuri, la fo sã n sagl-a a tūud-f lame, la f sã n lill n bas-a a gūuda a sīdā, a mengē la a sīdā arzekē.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa b sēn kō sor ti b wms noog ne dūni te-ylma, teed nins Wēnd sēn maan ti yaa halaal n kō A yembsā, ti ka tū ne maan-n-zvuge, maa puglgu.
2. Yaa b sēn maan yamleog ti b tūus pvg-sōngo, bala a sōngda a sīda ne a Soabā tūudum.

3. Dūni wā wum-noog sōma sēn yud fāa, yaa Wēnd tūudum, maa a sōngd foom ne Wēnd tūudum.

(5794)

Tı Wēnd Tēn-tvumā (Wēnd pvvsg la A tıgr be a yīnga) a gıdga som pok pōngre

(178) – عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. [صحيح] - [متفق عليه]

(178) – Yii a ‘Umar biig nengē -Wēnd yard be b yiibā yīnga-: Tı Wēnd Tēn-tvumā (Wēnd pvvsg la A tıgr be a yīnga) a gıdga som pok pōngre. [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pvvsg la A tıgr be a yīnga) gıdgame tı b ra tvg n pōng zugā pedgo la b bas pedg ye.

La gıdgrā a gūbga raopā, kom-bāaneg la beda, la sā n yaa paga, ka sōmb ne yē t'a pōng a zugā meng ye.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa sāri wā sēn ning a toaag ne ninsaal mengā yīngā.

(8914)

Wōrs-y no-kōbdo la y bas toeemse

(179) – عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(179) – Yii a ‘Umar biig nengē (Wēnd yard be b yiibā yīnga) tı yii Nabiyaamā nengē (Wēnd pvvsg la

A tɩlgr be a yĩnga) a yeelame: «**Wõrs-y no-kõbdo la y bas toemse**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tɩlgr be a yĩnga) sagendame ti b wõrs no-kõbdã, ti b ra bas-a ye, wõrsdame, la b maan yel-kãngã sõma.

la neng a to wã sagendame ti b bas toεenga, la b bas-a t'a pidi.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbē:

1. Toεeng põngr gidgame.

(3279)

Ad sën be yãmb nin-tūusdsã pugē, yaa sën yud-b yãmb ne zvg-sõngo

(180) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ

أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». [صحيح] - [متفق عليه]

(180) – Yii a ‘Abduullaah [bn ‘Amr nengē -Wënd yard be b yiiibã yĩnga- t'a yeelame: Nabiyaamã (Wënd puusg la A tɩlgr be a yĩnga) rag n ka yɩ n yaa gom-be-ned ye, a rag n yume n yetē: «**Ad sën be yãmb nin-tūusdsã pugē, yaa sën yud-b yãmb ne zvg-sõngo**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Rag n ka be Nabiyaamã zugdē wã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga), gom-wēnse, maa tuum wēns ye. A rag n ka yi n teesd zug-wēnga, maa n maand pu-toog ne zug-wēng ye, bala yēndã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) a yaa zug zısg soaba.

La ad a yume, (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) n yetē: ad yãmb sēn yud sōmblem Wënd nengē, yaa sēn yuda yãmb ne zug-sōngo, ne manegr maanego, la neng yōgengo, la namsg yōk n bas ne nebã la maan sugr ne-a, la nebã gēdgr ne bōn-neere.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Sōmba ne Muumini t'a zãag yel-beedo, sēn yaa gom-wēns la tuum wēnse.
2. Wilgda Wënd Tēn-tuumã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) zugda sēn pidi, rēnd ka yit a nengē, rēnda tuum-sōngo, la koe-yulgemde.
3. Ad zug-sōngã, a yaa ween-n-vug tu yaa pōs-taab zĩiga, rēnd ned ning sēn pōsga, a bee muumin-rãmbã nin-tūusdsã pugē, la sēn leb n pid ne sıd-kūun n yuda.

(5803)

(181) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ». [صحيح بشواهده] - [رواه أبو داود وأحمد]

(181) – Yii a ‘Aaiša nengē - Wēnd yard be a yīnga: a yeelame: ad mam wuma Wēnd Tēn-tuumā, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) t'a yetē: «**Ad muumin paamdame sēn tū ne a zvg-sōngā, no-loet darge sēn yās ne Wēnd tūudmā**». [A manegame sā na n ges a taabā] - [A Abuv Daawuvd la a Ahmad n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga) vēnegame n wilgdē, ti ad zvg-sōngā, a taasda a soabā, ned ning sēn duumda ne wīntoog no-loeere la a yās ne yung Puvsgo darge, la zvg-sōngā yēgrā, yaa sōma maanego, la gom-sōmbse, la neng yōgengo, la yōk f nang ti ra ta neda, la f leb n maan sugr ne nebā nangā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa līslaamdā sēn ning a toaaga zugdā manegr la a pidsgu.
2. Yaa zvg-sōngā yudlem halı ti yamb tōe n paam sēn tū ne zvg-sōngā, no-loet ning sēn ka

kaoodã yel-sõmde, la yung puusd ning sën ka yetã yel-sõmde.

Wĩntoogã no-loeerã la yungã yals n puusã, yaa tuum a yuib sën yaa zısdı, musak n be b puğē ne yōyã, ne rē fãa tı zug-sõng soaba na n wa tug n paam b yuibã dargε, ne a sën tōog n zab ne a yōorã ne tums-n-ta sõngã.

(5799)

Sid-kõtbã sën yud lumaong pidbu, yaa sën yud ne zvg-sõngo, la yãmb sõmblem sën yuda, yaa ned ning sõmblem sën yuda a pagbē wã

(182) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». [حسن] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(182) – Yii a Abu Hurayrat nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tën-tuuma (Wënd puusg la A tilgr be a yīnga) yeelame: «**Sid-kõtbã sën yud lumaong pidbu, yaa sën yud ne zvg-sõngo, la yãmb sõmblem sën yuda, yaa ned ning sõmblem sën yuda a pagbē wã**». [A be neere] - [A Abvı Daawvıd la a At-turmiziy la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yīnga) kõta kibare, tı nebã lumaong sën yud pidbu, yaa ned ning zvgd sën manege, la rēnda yaa sën tũ ne neng yōgengo, la maan-neer maanego, la gom sõma, la wēng zēkr n bas nebã.

La muumin-rāmbā sēn yud sōmblem, yaa sēn yuda sōmblem ne a pagbā, la a koamba la a kom-pugli, la a tã-pogse la a pēt-n-ta pogse, bala bāmb bee neb nins sēn sōmb ne yēnda zug-sōng maanego.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wilgda zug-sōnga yudlem la a bee sid-kūunā pugē.
2. Tuumā bee lumaoongā pugē, la sid-kūunā me paasdame la a boogdē.
3. Lislaangā sēn waoog paga la a leb n maan yamleog tı b maneg n tug-a.

(5792)

B soka Wēnd Tēn-tvwm, (Wēnd pvsg la A tıgr be a yīnga) bũmb ning sēn waoog n kēesd nebā arzān n yuda, t'a yeele: "Yaa Wēnd zoεega la zug sōngo

(183) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وَسئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: «الْفُجْرُ وَالْفَرْجُ».

[حسن صحيح] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

(183) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: B soka Wēnd Tēn-tvwm, (Wēnd pvsg la A tıgr be a yīnga) bũmb ning sēn waoog n kēesd nebā arzān n yuda, t'a yeele: "Yaa Wēnd zoεega la zug sōngo" la b leb n sok-a yel nins sēn yaa wvsg n kēesd nebā Bugmē wā, t'a yeele: "yaa noorā la taorā". [Hasanun

Şahuhvn (A be neere, a manegame)] - [A At-turmiziy la a]bn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) vënegame ti ad sabab-rãmb nins sën tug n yud n këesd nebã arzãnã yaa a yiibu, bãmba:

Yaa Wënd zoεεga la zvg sōngo.

Rënd Wënd zoεεgã: yaa fo maan foom la Wënd namsgã svka gidre, ne fo sën na n tum Wënd sën saglã la f zãag A sën gidgã

La zvg sōngã yita ne fo sën na n yols f nengã la f maan sën be neere la f yōk f nangã n yi nebã.

La sabab-rãmb sën yud n këesd nebã Bugmã yaa a yiibu, bãmba:

Yaa zalemdã la taorã.

La zelemdã sën be a Wënd kusgã pugẽ yaa zĩri-beedã la widgã la munaafiglemã la zëng sën ka rënda.

La taorã, sën be a Wënd kusgã pugẽ yaa yoobo la a Lvvt nebã tvvma (raop ne taab këed-n-taare) la zëng sën ka rënda.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbẽ:

1. Arzãnã kōomã tara sabab-rãmba sën yag ne Wënde, A Naam yu wagell n zëke, sën be a

pugē: yaa Wënd zoεga, la sabab-rāmb sēn
yag ne nebā, ti sēn be a pugē: yaa zug sōngo.

2. Wilgda zelem wēngā sēn ta to-to a soabā zugu,
la a yaa sabab sēn kēesd ned Bugmē.
3. A wilgda yōyā yamleoodā la yel-beedā yellā
sēn ta to-to ninsaal zugu, la b yaa sabab nins
sēn nong n kēesd nebā Bugmē.

(5476)

Wënd Tēn-tvwmā, (Wënd pvvsg la A tulgr be a yīnga) rag n yume n yud nebā ne zug-sōngo

(184) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. [صحيح] - [متفق عليه]

(184) – Yii a Anas [bn Maalik nengē, (Wënd yard be
a yīnga) a yeelame: Wënd Tēn-tvwmā, (Wënd pvvsg
la A tulgr be a yīnga) rag n yume n yud nebā ne zug-
sōngo. [A manegame] [A Al-Bvḥariy ne a Muslim
zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd pvvsg la A tulgr be a yīnga) rag n
yume, n yud nebā ne zvgd pidbu, Nabiyaam tara pōsga,
zug-sōmbsā la yel-sōmā fāa pugē, sēn yaa gom-noodo la
yel-sōmā maanego, la neng yōgengo, la nong zēk n yi
nebā la maan sugr ne nongā nebā nengē.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) zugdã sën pidi.
2. Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) yēnda la tikr sën pidi, zug-sōng pugē.
3. Yaa b sën pirsd tı b tik Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) a zug-sōngã pugē.

(6180)

Ad Wënd Nabiyaamã zugdã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) ra yaa Alkurāana

(185) – قال سعد بن هشام بن عامر - عندما دخل على عائشة رضي الله عنها: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِي عَن خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ. [صحيح] - [رواه مسلم في جملة حديث طويل]

(185) – Yii a Sa'ad [bn Hišaam [bn 'Aamir nengē, -a sën wa n kē a 'Aaša nengē, (Wënd yard be a yīnga): Muumin-rāmbã ma wã, kō maam kibar ne Wënd Tën-tuvmã, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) zugdã: t'a yeele: fo ka karem Alkurāan laa? Tı mam yeele: n-yeec, t'a yeele: Ad Wënd Nabiyaamã zugdã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) ra yaa Alkurāana. [A manegame] - [A Muslim n togs-a hadiis wok pugē]

Hadiisã welsgo:

B soka muumin-rãmbã ma, d ma a 'Aaŕša (Wënd yard be a yĩnga) Nabiyaamã zvgd sën da yaa a soaba (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga), t'a lok ne gomd sën tigim, la a wëneg a soakdã n togl Alkurãanã sën tigim stf-rãmb sën pid zãnga, rënd a yeelame, ti Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga) rag n yume n zvgend a meng ne Alkurãanã zvgdo, Alkurãanã sën sagl bũmb ninga a yikd n yalsa ne rë, la a sën gidg bũmb ninga a zãagdame, rënd Nabiyaamã zvgd ra yume n yaa tum ne Alkurãane, la a yals Alkurãanã todsë, la a zvgl a meng ne Alkurãanã zvgdo, la a rik yam ne Alkurãanã yel-bũnã la a kudemdã togsgã.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Yaa b sën kengde ti b tik Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga) a sën rag zvgl a meng ne Alkurãanã.
2. Yaa Wënd Tën-tuumã, (Wënd puvsg la A tigr be a yĩnga) zvgdã pëgbo, ti ad a yume n yaa Wahi wã tukë la a yita.
3. Alkurãanã yaa yëgr ne zug waglã fãa gilli.
4. Zvgdã lıslaangã puga, a gũbga dıinã gilli, ti b maan saglsã la b zãag b sën gidgã.

(8265)

(186) – عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِئِجْدَ أَحَدِكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(186) – Yii a Sadaad [bn Aws nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tēn-tvuma (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) yeelame:- «Ad Wënd maaname ti yaa tilae ti b maneg n tvg būmb fāa gilli· rënd yāmb sā n na n kv, bi y maneg y kvvbā, y sā n na n kodge, bi y maneg y kodgrā, la ned fāa saas a svvga la a pems a rūn-koatga». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaama (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare ti Wēnde -A Naam zēkame- A maaname ti manegrā yaa tilae n rog tōnd zug yelā pvgē, la manegr me yaa: Wënd gūusgu wakat fāa, A tūudmā pvgē, la sōma maanegē, la yōk f nang n yi bōn-naandsā, la sēn be rē pvgē yaa manegre kvvbē wā la kodgrē wā.

Rënd manegrā kvvbē wā ti sā n wa yaa dīina maan-n-dolga: yaa tūus sor sēn yaa nana n yuda, la sēn tvvl n yuda.

La manegrã kodgrẽ wã: yaa b maan bug-bug ne rûngã ne b sãn na n saas svugã, la b ra saasd-a rûngã taor t'a getẽ ye, la b ra kodg-a ti rûms a taab be beenẽ n getẽ ye.

Sãn be Hadiisã yõod-rãmbẽ:

1. Wënd yolsgã- A naam yı wagell n zẽke- la A bugsmã ne bõn-naandsã.
2. Kvubã la kodgrã manegrã yaa yı wala sãri wã sãn dıglã.
3. Yaa sãri wã sãn pidã, la a sãn kumb sõma buud fãa wã, sãn be rẽ pugẽ yaa rûm-muk yolsgã la maan bug-bug ne-a wã.
4. Gıdgame ti b ra yaal ninsaala b sãn ku-a poorẽ ye.
5. Yaa b sãn harm n gıdg bũmb fãa sãn namsd rûm-mukã.

(4319)

Ad tẽeg turga rãmbã b bee zaos zutu ti yaa nuura, ti be Arrahmaan Naabã ritg weengẽ, la A Nus a yıibã fãa rag n yaa ritgo

(187) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُقْسَطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(187) – Yii a Abdullaah [bn Amr nengẽ -Wënd yard be b yıibã yĩnga- a yeelame: Wënd Tẽn-tvumã -Wënd pvvsg la A tilgr be a yĩng- yeelame-: "Ad tẽeg turga rãmbã b bee zaos zutu ti yaa nuura, ti be Arrahmaan

Naabã rtg wængẽ, la A Nus a yïibã fãa rag n yaa rtgo, neb nins sën tēegd turga b buvd wængẽ la b zags rãmbã la b taor ningã b sën lvus-ba". [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yïnga) kōta kibare, ti neb nins sën buvd ne tēeg turga la sïda nebã ne taab svkã, ti bãmbã b na n zïnda zaoos zut sën zēke, ti yaa sën naan ne nuura, ti yaa waor ne-ba dūni yïkr raarã. la zao-kãensã b bee Arrahmaan Naab rtg wængẽ, la Wënd Nus a yïibã fãa rag n yaa rtgo.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbẽ:

1. Wilgda tēeg turg yudlemã la b pirs dame ti b maan-a.
2. Tēeg turg yaa bũmb sën gũbgi, a kumba taorã reegr fãa gilli, la bu nebã ne taab svka, halı n tug n tãag pagbã ne taab tēeg turga, la kombã la zēng sën ka rē.
3. Hadiisã vënegdame n wilgd tēeg turg rãmbã darge-rãmbã sën ta zïg ninga, dūni wã yïkr raare.
4. A wilgda sid-kōtbã darge-rãmbã sën yōs taabã, ned fãa gill na n zemsa a tuumdã sën yi to-to.

5. Kēes nebã yamleoog ne bũmbã a yaa na-kënd sōng sēn be Da'awa wã (bool n tug Wëndã) na-këndr pugē, t'a yit sabab n kēesd yamleoog ned ning b sēn boond-a n tugd tũudmã pugē.

(4935)

Namsg ko be, nams taab me ka be. La ned ning sēn wa n bao n na n namse, Wënd namsd-a lame, la ned ning sēn wa n bao n na n kenge, Wënd kengd-a lame

(188) – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ». [صحيح بشواهده] - [رواه الدارقطني]

(188) – Yii a Abu Sa'ud Al-ḥudriy nengē (Wënd yard be a yīnga) ti Wënd Tēn-tuvmã, (Wënd puvsɣ la A tɪlgr be a yīnga) a yeelame: «**Namsg ka be, nams taab me ka be. La ned ning sēn wa n bao n na n namse, Wënd namsd-a lame, la ned ning sēn wa n bao n na n kenge, Wënd kengd-a lame**». [Ṣahuhvn bi Ṣawaahidhu (A manegame sã n na n ges a taabã) - [A Ad-daaruḱuṭniy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsɣ la A tɪlgr be a yīnga) vēnegame n wilgi ti yaa tilae ti b tus namsgo n yi nebã, a kōbgã buud too-toor fãa, f tus-a n yiis f mengã la f tus-a n yiis neb a taabã, ka sakd ne nedã t'a wa tug n nams a menga, maa a nams ned a to, fãa gill yaa a yembre.

La ka sōmb ne-a t'a wa tug n yek namsgã ne namsg ye, bala namsg b ka saasd-a ne namsg ye, sã n ka mikame ti yaa maan-n-rolga, ti maan-n-zvvg ka be ye.

Rẽ poorẽ ti Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tlgř be a yĩnga)vēneg n wilg namsg ning sēn paamd ned ning sēn namsda nebã, la a leb n maan pvleng wēng ti weoogr paam ned ning sēn weoogda nebã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã gıdgđame ti f wa maan n role, ti yud wala b sēn maan foomã.
2. Naab a Wënd ka sagl A yembsã ne bũmb ning sēn na n nams-b ye.
3. A wilgdame ti yaa haraam ti ned wa tug n kēes namsgo, maa nams taaba, zem ti yaa koεεga maa tvumde maa basgo.
4. A wilgdame ti tvumdã rolb yaa tvumdã buudu, ned ning sēn wa n baood n namsd nebã, Wënd namsd-a lame, la sēn wa n weooga nebã, Wënd weoogd-a lame.
5. Sēn be Sãri wã zeng-raad pugē: yaa ti "yel-namsdga saasdame" Rënd sãri wã ka sakd namsgo, sãri wã kusda nams taaba.

(4711)

Ra gē ye

(189) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: «لَا تَغْضَبْ».

[صحيح] - [رواه البخاري]

(189) – Yii a Abuu Hurayrat nengē (Wënd yard be a yīnga) : Tı raoa n yeel Nabiyaamā (Wënd puvsug la A tılgır be a yīnga) sagl-ma, t'a yeele:

«Ra gē ye» t'a yulem noor wusgo, tı Nabiyaamā yeele: «Ra gē ye». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Sahaabsā ned a yembre, -Wënd yard be b yīnga-, a kosa Nabiyaamā (Wënd puvsug la A tılgır be a yīnga) t'a wilg-a bumb ninga sēn na n naf-a, tı Nabiyaamā yeel t'a ra gē ye, la woto rat n na yeelame t'a zāag sabab nins sēn kut t'a gē wā la a yōk a menga, tı gēeg sā wa, rēnd a ka kelled bala n tūnug a sū-yikrā, n na n kv maa pābe, maa a tv, la sēn wōnd rēnd ye.

La nedā ylma saglgā kosg noor wusgo, la Nabiyaamā (Wënd puvsug la A tılgır be a yīnga) ka paas saglgā pugē, rēnda a sēn yeel-a «Ra gē ye».

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yōod-rāmb nins sēn be hadiisā pugē, yaa tı b bugsdame tı b zāag gēega la a sabab-rāmbā, tı

yaa yēndā la wēngā zānga, la gūus f meng n yi
gēega yēnda la sōmā wā zānga.

2. Gēeb Wēnd yīnga, wala b sēn wat n pārg Wēnd
lohorem-rāmbā, yēnda yaa gēeg b sēn pēgde.
3. Ylem gomde tu tulsem sā n be beenē, halı tu
kelgdā bāng a vōorā la a bāng a yōodā sēn ta
to-to, yaa būmb b sēn baoode.
4. A wilgdame tu kos sagell bāngd nengē, a yaa
būmb sēn yaa bedre

(4709)

Ad raood ka yōk-n-lub ye, la ad pāng soaba yaa ned ning sēn tōe n yōk a menga a gēeg sasa

(190) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ

الْعُضْبِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(190) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wēnd yard be a yīnga),
tu Wēnd Tēn-tuuma, (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga)
yeelame: "Ad raood ka yōk-n-lub ye, la ad pāng soaba yaa ned
ning sēn tōe n yōk a menga a gēeg sasa". [A manegame]

[A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare ti ad pāng sid-sida, ka yīnga pāngā ye, maa ned ning sēn yōkda a to n lubdē, la ad pāng soab sēn yaa kegenga, yaa sēn tōoge wōr a yōorā la a modg-a, a sūurā yikr sēn wat n kenge, bala rēnda wilgda a sēn tōe a mengā pāng keelem sēn ta to-to la a sēn wild svitāanā.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Wilgda sugr maaneg yel-sōmb sēn ta to-to ningā, la yōk-m-meng la gēeb sasa, la a lagema tuum sōmbs nins lslaangā sēn keng ti b maanā.
2. Zab ne yōorā gēeb sasa wā, a pāngā yuda zab ne be.
3. Lslaangā toemdā pāngā Zulemā sasa b sēb fasēmdā to-to ningā, n kēng zugd sēn yaa zug wagla, rēnd nebā sēn yud pānga yaa ned sēn tōe a menga.
4. Yaa zāag n yi sū-yikri, a sēn yut sabab n maand sāanga nebā la mimbuiidā pugē.

(5351)

(191) – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(191) – Yii a Abdullaah [bn Amr nengē - Wēnd yard be b yīibā yīnga- t'a yeelame: Nabiyaamā (Wēnd pvusg la A tigr be a yīnga) wuma raoa sēn sagend a ma-biig yān-zoεεg wεεngē, t'a yeele: "Yān-zoεεg bee liimaong pvḡē". [A manegame] [A Al-Bvḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd pvusg la A tigr be a yīnga) wuma raoa t'a sagend a ma-biiga t'a bas yān-zoεεgā wusgā, ti Nabiyaamā na n vēneg n wilg-a ti yān-zoεεgā a bee liimaong pvḡē, a ka wat ne rēnda sēn yaa sōma.

La yān-zoεεgā a yaa zvḡdo sēn yit sabab ti ninsaal maan tvum sōnga la a bas wēnga.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Būmb ning sēn ḡdg foom tvum sōng maaneg ka boond ti yān-zoεεg ye, yē soabā b boond-a lame ti sv-svure la kongre la rabeem.
2. Zoe yānd ne Wēnde, A Naam yḡ wagell n zēke, yitame ne A sēn sagl yel ninsā maanego la yel nins sēn ḡdgā basbo.

3. Yān-zoεεg ne nebã yita ne b waoogre la sik ned fãa a zīigē la f zāag būmb ning sēn yaa wēng mining pugē.

(5478)

Ned sã n nong a to, bi a togs-a t'a nong-a lame

(192) – عن المقدم بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخَيْرِهِ أَنَّهُ مُجِبُّهُ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وأحمد]

(192) – Yii a Almikdaad [bn Ma'adii-Karib nengē, -Wēnd yard be a yīnga- ti yii Nabiyaamã nengē (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) a yeelame: «**Ned sã n nong a to, bi a togs-a t'a nong-a lame**». [Şahuhvn (A manegame)] - [A Abuv Daawvud n togs-a la a At-turmiziy la a An-nasaa'iy As-sunan al-kvbraa wã pugē la a Ahmad]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaaamã (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) vēnegda sabab-rāmbã yembre sēn keng tōk-n-taarã std-kōbã ne taab svka la a sāeegd nonglem b ne taab svka.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgda nonglema yudlem t'a sã n yaa Wēnd yīnga A naam zēkame, pa sēn yaa dūni raab ye.

2. B buv nonglem tu f togs f sēn nong a soab Wēnd yīnga tu f nong-a lame, sēn na yul tu nonglemã la mi-taaba paase.
3. Nonglemã sēegr sud-kōtbã ne taab sukã a kengda sud-kūunã ma-biirã la gıdgd nin-buiidã n yi sēegre la welgre.

(3017)

Maan neer buudã fãa yaa doaaga

(193) – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [صحيح] - [رواه البخاري من حديث جابر، ورواه مسلم من حديث حذيفة]

(193) – Yii a Gæbr [bn Abdullaah nengĕ, -Wēnd yard be b yiibã yīnga-, tu Nabiyaamã, (Wēnd puvsug la A tilgr be a yīnga), yeelame: "Maan neer buudã fãa yaa doaaga". [Şahuhun (A manegame)] - [A Al-Bvhaariy n togs-a sēn yi a Gæbir hadiisã, t'a Muslim togs-a sēn yi a Huzayfa hadiisã]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wēnd puvsug la A tilgr be a yīnga) kōta kibare tu manegr fãa gilli, la neb a taabã nafgo, sēn yaa gomde, maa tvmde, a yita doaag ne a soaba la keore la yel-sōmb n be a pugĕ.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Ad sara maanego, a ka būmb sën tek ninsaal sën yiisda a arzek ye, ad a gūbga sōma fāa ned sën maand-a, maa a yeted-a la a taasd-a neb a taabã nengē.
2. Yamleog talleg n maan neere la būmb fāa sën nafd neb a taabã.
3. Wilgdame tū ra wa tug n paog manegre, baa t'a yaa bilfu.

(5346)

Yamb nao-kadem a yībā ka na n zēke, halī tū b wa tug n sok-a vumā a sën sees-a zīg ningā, la a bāngrā, a sën tum būmb ning ne-a, la a arzekā, yaa ye la a paam-a la a kēes-a-la yeenē, la a yīngā a sën kvudg-a zīg ningā

(194) – عَنْ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ». [صحيح] - [رواه الترمذي]

(194) – Yii a Abu Barzat Al-aslamiy nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tën-tvum (Wënd pvvsg la A tūlgr be a yīnga) a yeelame: «**Yamb nao-kadem a yībā ka na n zēke, halī tū b wa tug n sok-a a vumā a sën sees-a zīg ningā, la a bāngrā, a sën tum būmb ning ne-a, la a arzekā, yaa ye la a paam-a la a kēes-a-la yeenē, la a yīngā a sën kvudg-a zīg ningā**». [A manegame] - [A At-turmiziy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) kōta kibare, ti ad ned baa a yembr ka na n zēk a naorã n gāndag tumã geelg zīgē, dūni yikr raare, n tvg arzānã maa Bugmē, halı ti b wa tvg n sok-a yela:

Rēenemã: yaa a vumã a sēn sees-a la a sēn maan-a bumb ning pugē.

Yiib soabã: yaa a bāngrã, a bao-a-la Wënd ying bu? La a tuma ne bāngrã bu? La a taasa bāngrã neb nins b sēn sōmb n taasã bu?

Tāab soabã: yaa a arzekã, yaa ye la a paam-a, a yaa halaal bi yaa haraam? Yaa ye la a kēes-a? Yaa bumb ning sēn yard Wënd bi yaa sēn gēed-A?

Naas soabã: Yaa a yĩngã la a pāngã la a laafti wã la a rasāndlemã, a zar-b lame la a rik-b n tum bōe puga?

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa b kēes vumã bumb ning sēn yard Wēnde, (A Naam zēkame).
2. Wënd neemã wã yembsã zug yaa wusgo, la A na n sok-b lame neemã ning pugē bāmb sēn da beē wã, rēnd yaa tulae ne-b ti b rik Wënd neemã wã n ning zīg ning Wënd sēn yarde.

(4950)

(195) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَأَلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(195) – Yii a Abv Hurrayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Nabiyaamā (Wēnd pvsug la A tulgr be a yīnga) yeelame: «**Ned sēn yās ne pvg-kōor rulgre la nimbāan nedā, a yaa wala ned sēn zabd ghaadu Wēnd sorā pvgē, maa a yaa wala ned sēn yās yungo ne Pvsugo n loet noor wīntoogo**» [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wēnd pvsug la A tulgr be a yīnga) kōta kibare ti ned ning sēn wa n tvg n yās ne pag sid sēn ki n bas-a, ne a yelā manesgo, ti pagā ka tar ned sēn n yals ne a yelā ye, la nin-bāan-ned sēn tar tulsem, n rulgd-ba n tēed keoor Wēnd nengē, yē soabā keoor Wēnd nengē yaa wala sēn zabda Wēnd sorā pvgē, sā n ka rē, a yaa wala ned ning sēn yās ne yung Pvsugo, n ka yaadē, maa no-loet sēn ka kaoode.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa pirsgu ti d sōng taaba la d zā taaba, la d pids nin-valensā tulsem-rāmba.

2. Tūudmā gūbga tuum sōmā fāa gilli, la sēn be tūudmā pugē yaa kēne n zā pu-kōor la nin-bāan-nedā.
3. A [bn Hubayra yeelame: a raabā yaa tu Wēnd tigimdame n kō neda no-loet yel-sōmde la yun-suk puvsda la gūhaadı zabda, n lagem fāa n kō-a zīig pugē, bala yē ledga sūdā zīigē puk-kōorē wā..., la a leb n yals ne nin-bāan-ned sēn kong n ka tōe n yik ne a meng yellā, tu yāwā rik a pāngā n nafe, la a maan sāra ne a sugrā, rēnda nafā wā masā a geesda no-loerā la yung Puvsgā la gūhaadı wā.

(3135)

Ned nin sēn kōta sūd ne ēnde la Yaoolem raarā bī a yeel sēn be neere maa a sīndi

(196) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(196) – Yii a Abu Hūrayra nengē, (Wēnd yard be a yīnga), tu yii Wēnd Tēn-tuum nengē, (Wēnd puvsd la A tulgr be a yīnga) a yeelame: "Ned ning sēn kōta sūd ne Wēnde la Yaoolem raarā bī a yeel sēn be neere maa a sīndi, la ned ning sēn kōta sūd ne Wēnde la Yaoolem raarā bī a waog a yaka, la ned ning sēn kōta sūd ne Wēnde la

yaoolem raarã bi a waoog a sãana". [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) vēnegame ti yamb sēn yaa sid-kōta ne Wēnde la yaoolem raarã, sēn yaa a lebengã zīgē, b sēn na n rol- a a tuvmã zīg ningē wã, yē soabã liimaoongã pirsd-a lame t'a maan tuvm sōms-kāensã:

Rēnem: yaa gom sōng yeelgo, sēn yaa Wënd yūgre, la sagl ne manegre, la gūdg ne yel-kiti la nebã ne taab suk manegre, a sã n ka maan rē a sīndidame la a yōk a nangã la a zelemdã n yi nebã.

Yiib soaba: yaa yak waoogre, ne a sēn na n maneg n tug a nengē la a ra nams-a ye.

Tāab soaba: Sāan waoogre, sāan ning sēn wat n na n ges-a wã, n gom ne-a gom noodo la a rulg-a rubo la sēn wōnd rēnda.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa kō sid ne Wēnde la yaoolem raarã, yēnda yaa yēgre ne sōmã fāa, a leb n peegdame n kēngd tuvm sōng zīgē.
2. A bugsdame n yit zelemdã bāase.

3. A wilgdame ti lɪslaamdã dīinã yaa mining la waoogr dīini.
4. La yel-sōmd-kāensã a bee sɪd-kūunã kōbg pugē la zugd sōmbs nins b sēn pēgã.
5. Goamã wusgã a tōeeme n tall ned n kēng yel-kiti maa yell sēn gidge, la tɪlgre a bee sīndig pugē, sã n ka mikame ti yaa sōma pugē la f na n gome.

(5437)

baa ti fo na n sega f ma-bi taag ne neng sēn yōgemde

(197) – عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ ظَلَمٍ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(197) – Yii a Abu Zarr nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Nabiyaamã (Wënd pʊʊsg la A tɪlgr be a yīnga) yeela maam: "Ra wa tvg n paoog manegr ye, baa ti fo na n sega f ma-bi taag ne neng sēn yōgemde". [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd pʊʊsg la A tɪlgr be a yīnga) a kengame ti b maan neere, la b ra paoog-a baa t'a sã n yaa bilfu, sēn be rē pugē, yaa nengã yōgengo, ne laado, f sēn wat n segd-a yek-taaba, rēnd sōmba ne lɪslaam t'a maan

yā-beed ne rēnda, bala be a pugē, sēn yaa nen-yubsgu ne f ma-bi taaga la sū-noog kēesg a nengē.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wilgda nong-n-taarā yudlem muumin-rāmbā nengē, bāmb ne taab suka la sū-noogre, b sēn wat n yekd taab wakato.
2. A wilgda sari-kāngā sēn pidi la a sēn gūbgi, la a waa ne būmb fāa lūsłaambā sēn be a pugē, la b koεgā yı yembre.
3. A kengdame ti b maan neere, baa ti sā n paoodē.
4. Wilgdame ti b buv nonglem ti b kēes sū-noogo lūsłaambē wā; bala a maanda minim-taaba bāmb ne taab suka.

(5348)

Ned ning sēn ka yolsda nebā, Wēnde, A Naam yı wagell n zēka, A ka yolsd-a ye

(198) – عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(198) – Yii a Geriir [bn Abdullaah nengē, (Wēnd yard be a yīnga), a yeelame: Wēnd Tēn-tuumā, -Wēnd puvsug la A tılgı be a yīnga- yeelame: "Ned ning sēn ka yolsda nebā, Wēnde, A Naam yı wagell n zēka, A

ka yolsd-a ye". [A manegame] [A Al- Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsug la A tilgr be a yīnga) vēnegdame ti ned ning sēn ka yolsda nebã, Wënd ka yolsd-a ye, A Naam yɪ wagell n zēke, rēnd yamb yolsd bōn-naandsã a bee sabab bæd nins b sēn tōe n paam Wënd yolsgã pugē.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yolsgã b baodame ti b maan-a ne bōn-naandsã gilli, la sēn tug n welg nebã n yeelã, woto wilgda b yellã sēn be suk n yudã yīngã.
2. Wilgame ti Wēnde, Yē la yolsda, la A yolsda A yembs nins sēn yaa yolsdbã, rēnd rolbã a yaa wala tuumdã buudu.
3. Yolsgã ne nebã, a gūbga ne fo maan neere n tug-ba la f tus wēng n yi-ba la f tum ne-ba ne tumd-n-taar sēn yaa sōma.

(199) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّن فِي السَّمَاءِ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(199) – Yii a ‘Abduullaah [bn ‘Amr nengē (Wënd yard be b yiibā yīnga) tū Nabiyaamā, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) yeelame: «**Yolsdbā, Arrahmaan Naab na n yols-b lame, yols-y sēn be b tēngā, tū sēn be a saasē wā na n yolsa yāmba**». [Şahuhvn (A manegame)] - [A Abvv Daawvud la a At-turmiziy la a Ahmad n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) vēnegdame, tū neb nins sēn yolsd b taaba, Arrahmaan Naab na n yols-b-la ne A yolsg ning sēn gūbg būmbā fāa gillā; tū yaa yolsg sēn zems yē tuvm sōngā.

Rē poorē, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) saglame, tū b yols sēn be b tēngā fāa gilli, sēn yaa ninsaala la rūm-mugsi, la bōn-yıgdı, la sēn ka rēnda, sēn yaa bōn-naandsā kōbg toor-toore, la yē rolbo yaa tū Wënd na n yols-b lame sēn yi A saasā zugu.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa tu Lıslaangã dīinã, a yaa yolsg dīini, a fãa gillã me tii Wënd tūudum zugu, la manegr n tug bōn-naandsã.
2. Wēnde, (A Naam yı wagell n zēke), b sıfd-A lame ne Yolsgo, la Yē (A Naam yulgame), la A Arrahmaan Naaba la A yolsg Naaba, Yē n taasd yolsgã A yembsã nengē.
3. Wilgdame tu rolbã, a na n yu wala tuumdã buudu, rēnd yolsdbã Wënd yolsd-b lame.

(8289)

Lıslaam hake a lıslaam taag zugu

(200) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْيِيتُ الْعَاطِسِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(200) – Yii Abu Hurayrat nengē- Wënd yard be a yīng-a yeelame: mam wuma Wënd Tēn-tvuma (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) t'a yetē: «**Lıslaam hake a lıslaam taag zugu, yaa nu: yaa Sallem leokre, la bāad kaagre, la kũ-rāmb yāagre, la bool sakre; la tīsd leokre**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē līslaam hake-rāmb sānda a līslaam taag zugu, Hake-kāensã rēnem yaa puvsgā leokre, ne ned ning sēn ning foom sallem.

Hake yiib soaba: yaa bāad kaagre.

Hake tāab soaba: yaa kūum pvgbo, n yi a zakē wā n ti tāag puvsgā zīgē, n ti tāag yaadē wā, halı ti b wa mum-a.

Hake naas soaba: yaa bool sakre t'a sã n bool-a n tvg fur walim la zēng sēn pa rē.

Hake a nu soaba: yaa tīsd leokre, la rē yaa a yeel-a t'a sã n pēg Wēnde, n yeel ti Alhamdu lil-Laah: Yarhamukal-Laah (Wënd na yols-fo), rē poorē ti tīsdã yeele: Wënd na kāndag-yã, la A maneg y yellã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa līslaangã zislem, ne a sēn kengd hake-rāmbã līslaambã ne taab sukã, la ma-biirã ne nonglemã zīndigri bāmb ne taab suka.

(3706)

(201) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(201) – Yii Abu Hurayrat nengë (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: tı Wënd Tēn-tvuma (Wënd puvsg la A tılgı be a yīnga) a yeelame: «**Y ka kēed arzānā halı tı y wa kō sıda, la y ka na n kō sıda halı tı y wa noang taaba, rē yīnga, m ka na n wilg yāmb būmbu, tı y sā n maan-a, y bvuda taab nonglem?: Sēeg-y puvsgā y ne taab zugu**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tılgı be a yīnga) a vēnegdame n wilgdē tı ad arzānā ka na n kē-a rēndā sıd-kōtbā, la lumaoongā pa piti la lıslaambā zāmā me ka manegde, halı tı b wa nong taaba. Rē poorē tı Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tılgı be a yīnga) tees tōndo n tvg nonglemā sēn na n pid ne yel ninsā, yē me la sallemā sēegr lıslaambā ne taab suka, Wënd sēn maan salllem ning tı yaa A yembsā ne taab puvsgā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Arzānā ka kēede rēnda ne sıd-kūuni.

2. Sēn be lumaoongā (sūd-kūunā) pidb pugē, yaa ti lūslaam nong ne a ma-bi-taaga būmb ning a sēn nong ne a mengā.
3. B buu nonglem ti b sēeg puusgā la b maan-a lūslaambā ne taab suka, bala be a pugē sēn yaa nonglem la bas-m-yam sēegre lūslaambā ne taab suka.
4. Sallemā ka ningd ti sā n ka lūslaam ye, ne Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīngā) koεεg sēn yeele: "Yāmb ne taab suka".
5. Sallemā maanegā a zēkda nebā welg taabā la b wāag taabā la b beemā ne taab sukā.
6. Hadiisā wilgdā nong-taabā yell sēn ta zīig ningā lūslaambā ne taab suka, la a leb n yaa būmb sēn pidsd liimaoongo.
7. Waa hadiis a to pugē ti sallemā, a yeelgā sēn pid n yuda, yaa f sēn na n yeele: Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhuu" la sekdame ti b yeele: "Assalaamu alaykum".

(3361)

(202) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». [صحيح] - [متفق عليه]

(202) – Yii a ‘Abdullaah [bn ‘Amr nengē, (Wënd yard be b yiibā yīnga): Tɪ raosa n sok Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) lɪslaangā yelɪ budo sōmblem n yude? T'a yeele: «**ruɓ rubo la f ning sallem fo sēn bāng a soab la fo sēn ka bāng a soaba**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

B soka Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) lɪslaangā yelɪ bud sōmblem n yude? T'a togs yel-sōma a yiibu:

Rēnem: yaa fo wvsg talsā rɪlgre, la kēed a pvgē sāra maanego, la kūuni, la sāand reegre, la waliim maanego, la rubā rɪlgrā yel-sōmbdā kengdame kom la teedā ligd sēn wat n lebg toogā wakato.

La yiib soabā: yaa sallemā ningri, lɪslaam fāa gilli, zem ti fo bāng-a lame maa f ka bāng-a.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa sahaabsā sēn tall yā-beed ne b na bāng yel nins sēn nafd-ba dūni la laahre.

2. Sllemã ningri la rubã rulgre, b bee lıslaangã tuvm sōmsã pugē, ne b yudlemã sēn ta zīig ningē, nebã sēn tar tulsem ne-ba wakat fãa gilli.
3. Sēn tū ne yel-sōma tuvm a yیبã woto wã, manegrã tigimda taab zī-kāngã, sēn tū ne gomde la tuvmde, yē me la manegrã sēn tug n yuda.
4. Welg-kāensã yaa sēn tar tōkr ne lıslaambã tum-n-taarã bãmb ne taab suka, la welgr a to n be sēn kēed ne yambã tumd-n-taar ne a Soabã.
5. Sung ne sallemã ningrã, a welgame tu yaa lıslaambã ne taaba, rēnd ka sōmb tu b sung ne kifr sallem ningr ye.

(5808)

Muumin sēn tar pānga, yēnda sōmblem, n leb n nong Wēnd n yud muumin sēn yaa valenga, la b fãa yaa sōma,

(203) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، أَحْرَضَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(203) – Yii Abv Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tvuma (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga) a yeelame: «**Muumin sēn tar pānga, yēnda sōmblem, n leb n nong Wēnd n yud muumin**

sēn yaa valenga, la b fāa yaa sōma, maan yā-beed ne
 būmb ning sēn nafd foomā, la f kos sōngr ne Wēnde
 la f ra kong ye, la būmb sā n paam foom bi f ra
 yeele: m sā n da maan woto yitē la woto la woto. La
 yeele: Wēnd n korde, A sēn ratā me la A maan yā,
 bala (sā n da yi woto wā) a pakda svutāan tvvma».

[A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga)
 vēnegdame n wilgdē, tu muunim fāa gillā yaa sōma, la
 sid-kōt ning sēn yaa pāng soabā, a sid-kūunē wā la a
 loe-n-wāagē wā la a arzekē wā, la zēng sēn ka rē, sēn
 yaa pāngā nems fāa, yē sōmblem n leb n noom Wēnde
 (A Naam yi wagell n zēke) n yud sid-kōt ning sēn yaa
 valengā. Rē poorē Nabiyaamā (Wēnd puvsug la A tulgr
 be a yīnga) a sagla muunim t'a rik sabab-rāmbā yel nins
 sēn na n naf-a, sēn yaa dūni yela la yaoleem raar yela, n
 lagem ne sēn na n tik Wēnde, (A yulgame n zēke), n kos
 sōngr ne-A, la f bobl f meng ne-A. Rē poorē tu
 Nabiyaamā (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga) gidg
 kongre la kvungo, la yīn-kiiri, ne tvvum nins sēn nafd
 foomā maaneg dūni la laahre. Rēnd sid-kōt sā n nidg
 pāng tvvum pugē, n rik sabab-rāmbā n kos sōngr ne

Wēnde, n bao sōma Wēnd nengē, būmb ka leb n rog yēndā zugu rēndame t'a bobl a yelā gill ne Wēnde, la a bāng ti Wēnd sēn tūus būmb ningā (A Naam yı wagell n zēke) rē la sōma, rēnd masub sã n paam yēnda rē poorē, bı a ra yeele: "m sã n da maan woto yutē la woto la woto"; "Bala (sã n da yı woto wã) a pakda svutāan tuuma" ne fo sēn tōdg Pulengā, la f maan nimis ne sēn loogā. La a sōmb n yelame t'a yaa sēn bas a meng n tū Wēnde n yaa yarda: "Wēnd n korde, A sēn ratā me la A maan yā", Rēnd būmb ning sēn yı wã, a zemsa ne Wēnd sēn rat būmb ningā, bala A maanda A sēn rate, būmb ka be n tōe n tus A Pulengā, A sēn bu būmb ningā me pugd ka be n na n sok ye.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa nebā sēn pōs taab sid-kūunā pugē wã.
2. Yaa b sēn bu pāng nonglem tuumã pusē, bala yōod tōe n paama a pugē, sēn ka be valengē wã ye.
3. Ninsaal sōmbame n maan yā-beed ne būmb ning sēn nafd-a la a bas sēn ka nafd-a.
4. Roga ne sid-kōta t'a kos Wēnd t'a sōng-a a yelā fãa pugē, la a ra teeg a mengā ye.

5. Hadiisã tabenda Wënd Buudã la A Pulengã, la rēnda ka gudg ti b ruk sabab-rāmba la b kēne n bao yel-sōma ye.
6. A gudgdame ti b yeele: (sã n da yi woto wã), ti yaa wala gēeg la fo maand masub-rāmb sigb wakato, la a leb n wilgdame ti yaa haraam ne fo sēn na n tōdg Wënd Buudã la A Pulengã, (A Naam zēk yã).

(5493)

A Gibriil ka bak n sagend maam ne yaka, halt ti mam da tēed t'a na n lagem-a-la fa-rttbē wã

(204) – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْحَجْرِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(204) – Yii a [bn Umar nengē, -Wënd yard be n yiiibã yīnga-, a yeelame: Wënd Tēn-tvumã (Wënd pvvsg la A tlgrr be a yīnga) yeelame: "A Gibriil ka bak n sagend maam ne yaka, halt ti mam da tēed t'a na n lagem-a-la fa-rttbē wã". [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd pvvsg la A tlgrr be a yīnga) kōta kibare, t'a Gibriila ka bake, n yulemd yēndã zugu, la a sagend-a t'a nidg pāng ne a yaka, yak ning zak sēn pē wã, zem ti yaa līslaama maa yaa kufre, zem t'a yaa rog pēta maa a ka rog pēta, a sagendame ti b gūus a hake wã

la b ra nams-a ye, la b maneg-a la b maan sugr ne a namsgo, halı tu Nabiyaamã (Wënd puusg la A tıgr be a yĩnga) wa tēeda yakã hake zısem sēn ta to-to ningã la a Gibriil sēn yulemdã wã, ti waht n na n sigi, n kō-a puure a yakã sēn basd arzek ningã a kaalem poorē.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Yakã hake zısem la sēn yaa tıae ti b gũ rēndã wã.
2. Yakã hake sēn kenge ne a Gibriil sagellã, wilgdame ti sōmbame ti b waoog-a la b bao nonglem ne-a la b maan-a neere, la b tus sēn namsd fãa n yi-a la b kaag-a bãag wakato la b puus-a ne zu-noogo, noog sasa la b puus-a ne toogo, yell sasa.
3. La yakã ragnoor sēn pēneg n yud fãa la a hake wã sēn kengd n paasdē.
4. Wilgda sari sēn pidi a sēn wa ne yell ninsã, ti be beenē sēn manegd nimbuidã, sēn yaa manegr n tug yagse, la tus namsg n yi-ba.

Ned sã n zab n sōng a ma-bi taag burkīnd lillgri, Wënd na n tusa a nengã n yi Bigmã yikr raarã

(205) – عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَدَّ عَن عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَن وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]

(205) – Yii a Abu Addardaa' nengē -Wënd yard be a yīnga- yii Nabiyaamã nengē- Wënd puvsg la A tūlgr be a yīnga- a yeelame-: "Ned sã n zab n sōng a ma-bi taag burkīnd lillgri, Wënd na n tusa a nengã n yi Bigmã yikr raarã". [A manegame] [A At-turmiziy la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tūlgr be a yīnga) kōta kibare tū ned ning sēn wa n tvg n sōng n zab a ma-bi taag burkīnd kōn n kãsg yīnga, a sēn wat n ka be, n gudg tū b ra sãbs-a la b gom wēng a zugu, Wënd na n tusa nangã n yi yãwã soaba alkiyaoom raarã.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Hadiisã gudgdame tū b gom lūslaambã burkīndã kãsgr pugē.
2. Wilgdame tū tuumdã rolb yta wala tuumdã buudu, rēnd ned ning sēn wa n gudga tū b ka

kāsg a ma-bi taabg burkīndi, Wënd me tusda Bugmã n yi-a.

3. Wilgdame tı lıslaangã, a yaa ma-biir dīini la sōng-taaba, a nebã ne taab suka.

(5514)

Ad bvg-bvg ka zīndid būmb pvgē rēndame t'a nags-a, b ka kongd-a būmb pvgē me rēndame t'a zang-a

(206) – عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ،
وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانُهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(206) – Yii a ‘Aaıša nengē -Wënd yarde be a yīnga- sēn yaa Nabiyaamã pagã (Wënd puvsg la A tılgır be a yīnga), tı yii Wënd Tēn-tvum nengē, (Wënd puvsg la A tılgır be a yīnga) yeelame: «**Ad bvg-bvg ka zīndid būmb pvgē rēndame t'a nags-a, b ka kongd-a būmb pvgē me rēndame t'a zang-a**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tılgır be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, tı ad yol-yolã la bvg-bvgã la maag-m-mengã, gomd pvgē la tvumē, a paasda yelã rasāndlem la pidbu la neerem, rē n leb n pē n yud ne a soabã na paam a tvısmã.

La yol-yolã kongre, a zangda yelã, n wēngd-ba, n gıdgd a soabã t'a ka tõe n paam a tuls mã ye, a sã n na n paam-a me yta ne musaka.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Pirs dame ti b tall zugd ne yol-yole.
2. Yol-yolã a faasda ninsaala, a yaa sabab ne sōma fãa dīinã la dūni wã yelē.

(5796)

Yols-y la y ra keng ye, la y noog nebã sūy la y ra yees-b ye

(207) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا». [صحيح] - [متفق عليه]

(207) – Yii a Anas [bn Maalik nengē - Wēnd yard be a yīnga: ti yii Nabiyaamã nengē, (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) t'a yeelame: «**Yols-y la y ra keng ye, la y noog nebã sūy la y ra yees-b ye**». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) sagendame ti b maan bug-buge la yol-yol ne nebã, la b ra keng b zug ye, dīinã la dūni wã yelē, la rēnda yaa Wēnd sēn kō sorã pugē la A maan ti yaa sãri wã todsē.

La a pirsd ti b noog b sũy ne yel-sōma la b ra
yεεs-b ye.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Bũmb ning sēn yaa tlae n zao ne sid-kōta, yaa
a maan tu nebã yɪ a nonglem la a kēes-b
yamleoog yel-sōma pugē.
2. Sōmba ne daa'iy sēn boond n tugd Wēnde, t'a
ges ne yam bedre, yalē ning a sēn na n taas
lɪslaangã boollã nebã nengē.
3. Sũ-noogrã a kēesda sũ-noogo la sakre la yĩn-
yōgnego ne boaandã la bũmb ning a sēn wilgd nebã.
4. La kengrã, yēnda wata ne zãagr la zãn-kuidg
gōdbo la sik maaneg boaandã goamã pugē.
5. A wilgda Wēnd yolsgã sēn yaa yaleng ne A
yembsã, la A yara nebã ne dīin sēn tar bas-ti-
looge la sãri sēn yaa yol-yole.
6. Yol-yol ning sãri wã sēn saglgã, yēnda yaa
bũmb ning sãri wã sēn wa ne wã.

(5866)

Tõnd rag n bee d zu-soaba a ‘Umar nengē t'a yeele: «B gidga tõnd n yi maan-ti-looge

(208) – عن أنس رضي الله عنه قال: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: «نُهِينَا عَنِ

التَّكْلِيفِ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(208) – Yii a Anas nengē- Wënd yard be a yīnga- a yeelame: Tõnd rag n bee d zu-soaba a ‘Umar nengē t'a yeele: «**B gidga tõnd n yi maan-ti-looge**». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

A ‘Umar kōta kibare, (Wënd yard be a yīnga) ti Wënd Tën-tvumã (Wënd pvvsg la A tulgr be a yīnga) a gidga bamba ti b ra wa maan bumb ning musak sēn be a pvge, ti tvlsem yaool n ka be ne rē ye, zem ti yaa gomde, maa tvvmdē.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Sēn be maan-ti-loog b sēn gidgā: yaa sogsg wusgo, maa rogl-f meng ne bumb ninga f sēn ka mi, maa tug n kengd yell Wënd sēn maan t'a yaa yol-yole.
2. Sōmba ne lvslaam t'a minimis a mengā ne bas-ti-looge, la a ra maan n rogl a menga, zem ti yaa goamē, maa tvvmdē: a rubē la a yūubē la a gom-biisē, la a yelā fāa gilli.

3. Luslaangã yaa yol-yol dīini.

(8945)

Yāmb ned fāa sã n na n rı, bu a rı ne a ritgo, a sã n na n yū, bu a yū ne a ritgo, bala a svitāan rita ne a gobre, la a yūud ne a gobre

(209) – عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(209) – Yii a ‘Umar biig nengē (Wënd yard be b yiibã yīnga) ti Wënd Tën-tvumã, (Wënd puvsg la A tıgr be a yīnga) yeelame: «**Yāmb ned fāa sã n na n rı, bu a rı ne a ritgo, a sã n na n yū, bu a yū ne a ritgo, bala a svitāan rita ne a gobre, la a yūud ne a gobre**». [A manegame]-[A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tıgr be a yīnga) sagendame ti luslaam rı la a yū ne a ritg nuga, a leb n gudgdame ti b rı la b yū ne goabga; la rēnda yaa ti svitāana ritame la a yūud ne yēnda.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã gudgdame ti b wa wōneg a svitāan rubē wā maa yūubē wā, ne gobre.

(58122)

(210) – عن عُمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدَيَّ تَطْيِشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ، سَمَّ اللَّهُ، وَكُلَّ بِيَمِينِكَ، وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زِلْتُ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. [صحيح] - [متفق عليه]

(210) – Yii a ‘Umar [bn Abu Salama nengẽ (Wënd yard be a yĩnga) a yeelame: Mam da yaa biiga, n be Wënd Tën-tvumã, (Wënd puvsg la A tilgr be a yĩnga) naoẽ wã, la mam nugã rag n babenda laagã pugẽ, ti Wënd Tën-tvumã, (Wënd puvsg la A tilgr be a yĩnga) yeel maam: « **Biiga, f sã n na n ri bi f yeel bismillaah, la f ri ne f ritgo, la f ri f taorã**». Rënd mam rub ka bak n yaa woto bala, rë sën loogr teka. [A manegame] [A Al-Buḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

A ‘Umar [bn Abu salama kōta kibare, (Wënd yard be b yiibã yĩnga) sën yaa Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tilgr be a yĩnga) pagã a Ummu salama biigã, (Wënd yard be a yĩnga) la a rag n bee Nabiyaamã zãab la a wubr pugẽ, a yeelame ti yẽ rag n yume rub wakato, n rikd a nugã n ningd laagã kuremse, n yãkd rubã, n na n ri, ti Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tilgr

be a yīnga) na n wilg-a zvgd a tāabo sēn yi rubā zvgd-rāmbē: A rēnemā: yaa bismillaah yeelgo, rubā singrē.

Yiib soaba: yaa rī ne rtgo.

Tāab soaba: Yaa rī kureng ning sēn pē-a n yudā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Sēn be rub la koom yūub zvgd-rāmbē yaa bismillaah yeelgo, a singrē wā.
2. Wilgdame tī b karem koambā zvgdā, sēn tug n yuda, biig ning sēn wa n be ninsaal wubr pugē.
3. Wilgda Nabiyaamā, (Wēnd puusg la A tīlgr be a yīnga) a bug-bugā la a yāoogā yalem kom-bāanegā kareng la b zvglgā pugē.
4. Sēn be rubā zvgd pugē, yaa b rī taorā, sā n ka mikame tī rubā yaa kōbg toor-toore, wakat-kāngā sakdame tī b yāk kōbg ning b sēn rate.
5. Şahaabsā tabla ne būmb ning b Nabiyaamā, (Wēnd puusg la A tīlgr be a yīnga) sēn wub-b ne wā, la yel-kāngā, b bāngd-a lame a ‘Umar koεg sēn yeele: Rēnd mam rub ka bak n yaa woto bala, rē sēn loog tēka.

(211) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرِبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(211) – Yii a Anas [bn Maalik nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: Wënd Tēn-tuvm, (Wënd puvs g la A tīlgr be a yīnga) yeelame: «Ad Wënd yarda yamba, a sēn na n rī n pēg Wēnde rubā yīnga, maa a yū bōn-yūudga n pēg Wënd a yīnga». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvs g la A tīlgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, tī yamb sēn na n pēgd a Soabā, A kūunā la A neemā wā A sēn kō-a wā, a bee yel nins puvsē Wënd yardā sēn paamd ne wā; rēnd a rīta rubo n yeele: Alhamdu lillaah, m pēgd Wēnde, n yū bōn-yūudi n yeele: Alhamdu lillah, m pēgd Wēnde.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa Wënd kūunā -A Naam yī wagell n zēke- bala yaa Yēnd n kō rītlā, la A leb n yarē ne b pēg-A.
2. Wënd yardā paamda ne sabab-rāmb sēn yaa naana n yuda, wala pēg Wēnde rubo la yūub poorē.

3. Sēn be rubã la yūubã zugdē, yaa fo pēg Wēnde, rubã la yūubã poorē.

(5798)

Tı ned n rı Wēnd Tēn-tvumã nengē (Wēnd pvsg la A tıgr be a yīnga) ne a goabgã, tı Nabiyaamã yeel-a: «rı ne f ritgã», t'a yeele: m ka tōe ye, t'a yeele: «f kōn n tol n leb n tōog ye»

(212) – عَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ»، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ»، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

[صحيح] - [رواه مسلم]

(212) – Yii a Salamat [bn Al-akwa' nengē (Wēnd yard be a yīnga): Tı ned n rı Wēnd Tēn-tvumã nengē (Wēnd pvsg la A tıgr be a yīnga) ne a goabgã, tı Nabiyaamã yeel-a: «rı ne f ritgã», t'a yeele: m ka tōe ye, t'a yeele: «f kōn n tol n leb n tōog ye», bumb ka gıdg-a rēnda waoog-m-menga, la a Salamat [bn Al-akwa' yeele: t'a ka tōog n zēk sag-vōrã n kēng a noorē wã ye. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wēnd pvsg la A tıgr be a yīnga) yãa ned t'a rit ne a goabgã, t'a yeel-a t'a rı ne a ritgã, tı raoã leok-a ne waoog-m-meng la zīri-beedo tı yē ka tōe n rı ne a ritg ye! Tı Nabiyaamã (Wēnd pvsg la A tıgr be a yīnga) kos Wēnd t'A mong-a t'a ra tōog n le rı ne ritg ye, tı Wēnd reeg Nabiyaamã doaagã, tı nedã

ritg ki, t'a ka leb n tōog n zêk-a n kēng a noorē wā rē
poorē ye, zem ti yaa rubo maa yūubu.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wilgdame ti yaa tulae ti b ri ne ritgo, la a yaa haraam ti b ri ne goabga.
2. Waoog-m-meng n ka rat n na n maan Sāri wā, a soabā sōmba ne sibgre.
3. Wēnd sēn waoog A Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) ne A sēn reeg a kosgā.
4. Wilgdame ti sāri wā kōo sor ti b sagl ne manegre la b gidg yel-kiti, sēn yaa halhaal ning fāa, halı n tug n tāag rubo.

(3372)

ad Wēnd nongame n rat ti, nebā maan yolag nins A sēn kō-ba, wala A sēn nong ti b maan būmb ninga A sēn keng b zugā

(213) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رِخْصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ».

[صحيح] - [رواه ابن حبان]

(213) – Yii a [bn Abbaas nengē, -Wēnd yard be b yiibā yīnga-, a yeelame; Wēnd Tēn-tuuma, (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga), yeelame: «ad Wēnd nongame n rat ti nebā maan yolag nins A sēn kō-ba, wala A sēn nong ti b

maan būmb ninga A sēn keng b zugā». [A manegame]
[A]bn Hibbaan n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā kōta kibare, (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga), ti Wēnd nongame ti nebā maan yol-yol ninga A sēn kō-ba sari wā pugē wā, sēn yaa wala A sēn mi n rok b zugē, sari wā buvd-rāmbē la tūud-rāmbē wā, la A maan yol-yole, b pvsē ne lūslaam ti padang sā n wa tar-a, a bilgr taar yaa wala Puvsgā koeegre, la lagem Puvsrāmb a yiib n puvv vuka sor wakato-, Wala Wēnd sēn nonge, ti b maan A sēn keng yel ninsā, n yaa tlae wā, bala Wēnd sagellā A sēn boog zīg ningā wā la A sēn keng zīgā wā, b yaa yembre.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Bee hadiisā pugē, sēn wilgd Wēnd yolsgā sēn be A yembsā zugu, n leb n wilgd ti Wēnde, A Naam yulgame, A nongame ti b maan būmb ning Yē sēn kō sor sari wā pugē sēn yaa yolsgā.
2. Hadiisā wilgda sari wā sēn pidā, n leb n wilgd sari wā sēn zēk weoogre n bas lūslaama.

(65017)

(214) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(214) – Yii a Abuu Hurrayrat nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tën-tuum (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) yeelame-: «**Ned ning Wënd sên wa n rat-a ne sōma, A rogend-a-la yelle**». [A manegame] [A Al-buhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã kōta kibare (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) ti Wēnde, A sã n rat neda, A yembsã pugē ne sōma, A zarbd-b lame n gese, b mensē wã la b arzēgsē wã la b nebē wã, ne bumb ning sên be a pugē, ti muunim lebsd a meng Wënd nengē, ne Wënd kosgo, n leb n yaa zunuub yaafg n be a pugē, n leb n yaa bumb sên zēkd līslaam dargε-rāmba.

Sên be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Bee hadiisã pugē, sên wilgd ti muunim (sūd-kūta) zarbg kōbg toor-toor tōe n paam-a lame.
2. A wilgdame ti zarb-n-gesgã (yelã) paam ninsaalã wakat ninga, yaa Wënd nonglemã tagmas ne A

yamba, halı, n na n yul n zēk a darge-rāmbā la A yaaf a zunuubā.

3. Hadiisā kengdame tu b maan sugr masubā wakato la b ra maan sugr kongr ye.

(4204)

Būmb ka paamd İslaamā sēn yaa yaamse, la bāase, la yugre, la sū-sāanga, la nango, la pakre, halı n tvğ n tāag gōaag sēn kōsd-a, rēndame tu Wēnd yaaf a twm tuuti wā ne rē sababo

(215) – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(215) – Yii a Abu Sa’ud Al-Hvdry nengē la Abu Hurayrat nengē (Wēnd yard be b yiibā yīnga) ti yii Nabiyaamā nengē (Wēnd pvsug la A tilgr be a yīnga) a yeelame:- «**Būmb ka paamd İslaamā sēn yaa yaamse, la bāase, la yugre, la sū-sāanga, la nango, la pakre, halı n tvğ n tāag gōaag sēn kōsd-a, rēndame tu Wēnd yaaf a twm tuuti wā ne rē sababo**». [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd pvsug la A tilgr be a yīnga) vēnegdame n wilgdē, ti būmb ning sēn paamd sēn yaa bāase la yure, la sū-sāamse, la keelem, la masub-rāmba, la yel-kegemse, la pelen-yıka la kom - baa ti sã n yaa gōaag n kōs-a ti zabdē- rēnda yıta a zūnuubā yaafgo.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. A wilgda Wënd yudlemã A yembs nins sën yaa sūd-kōtbã la A sën yolsd-ba, ne A sën yaafd b zūnuubã, sën tūud ne nang bilf sën paamd-ba.
2. Sōmba ne lɪslaama t'a tē yel-sōmd Wënd nengē, ne būmb ning sën paam-a la a maan sugri ne būmb bilfu maa sën yaa bedre sën paam-a, buul yīng tɪ na yɪ dargε-rāmb zēkr ne-a, la a zūnuub-rāmb yaafgo.

(3701)

yamb sã n bē maa a toga sore; b gɪlsdame n kō-a a sën da tɔmdã t'a ra tar laafi n be yirã

(216) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ

مُقِيمًا صَحِيحًا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(216) – Yii a Abuu Muusa Al-as'ari nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Wënd Tēn-tɔɔma (Wënd pɔɔsg la A tɪlgr be a yīnga) yeelame: «**yamb sã n bē maa a toga sore; b gɪlsdame n kō-a a sën da tɔmdã t'a ra tar laafi n be yirã**». [A manegame] [A Al-bɔɔhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) kōta kibare sēn kēed Wënd yudlmã la A yolsgã, ti lslaam sã n minim n tumd tum sōngo a laafi wã wakat maa a sēn be yir wakato, ti padeng wa paam-a, t'a bē n pa tōe n le maan-a ye, maa a maana soagl ne so-toaka n bas-a, maa sēn yaa padeng ning fãa; rēnd b gulsda a keoorã poeem n kō-a, ti yaa wala a tum-a-la a sēn wa n tar laafi wã n be yirã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. A Wilgda Wënd yudlmã yalma A yembsã zugu.
2. A kengda ne b nidg pānga tūud-rāmbã puga, la b zaæg wakat-rāmbã laafi wã wakato, la sēkã wakato.

(3553)

Ned ning Wënd sēn twll a soab ne sōma, A fasemd-a-la dīnã

(217) – عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(217) – Yii a Mv' aawyya nengē- Wënd yard be a yĩnga- a yeelame: Mam wuma Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) t'a yetē: «**Ned ning**

Wënd sën tull a soab ne sōma, A fasemd-a-la dīinā, la ad mam yaa pūta, la ad Wënd n kōte, la ad zamā-kāngā ka na n bāk n yas ne Wënd sagellā, ti ned ning sën yōsg-ba ka namsd-b ye, halu ti Wënd yellā wa tvg n wa». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) kōta kibare, ti ned ning Wënd sën tull a soab ne sōma, A lokda a soab ne fasengo, A dīinā pugē -A Naam yulgame- ti ad Nabiyaamā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), a yaa pūta, n pūt la a kōtē, būmb ning Wënd sën kō yē wā, (A Naam zēk yā) sën yaa arzeka la bāngre, la zēng sën ka rē, ti ad kōt sūd-sūda, yaa Wēnde, la zēng sën ka Wēnde, bāmb yaa sabab-rāmba, b ka nafde rēndame ti tū ne Wënd tōogo, la a leb n kō kibar ti ad zamā-kāngā ka na n bāk n yās ne Wënd sagellā, ti ned ning sën yōsg bāmb ka namsd-b ye, halu ti dūni wā wa ti yiki.

Sën be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wilgda Sāri wā bāngr bedrem la a zūslem, la a karengā la b sën pīrsd ti b maan-a wā.

2. Yik n yals ne sda, yaa tlae t'a zīnd zamā-kāngā pugā, sā n mik t'a wa n yi sull ninā nengē, ad zēng sēn ka bāmb n na n yik ne-a.
3. Paam faseng dīnā pugē, a bee Wēnde -A Naam yı wagelle- sēn tull sōmā wā ne a yambā pugē.
4. Nabiyaamā (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga) a kōta ne Wēnd sagell la A raabo, la ad Nabiyaamā ka so baa fu.

(5518)

Ra karem-y bāngrā n rat n na n pug ne-a bāngdb ye, maa y wē no-koeemd ne yalms ye

(218) – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِيُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِيُتَمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَحْتَبِرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَالْتَأُرُ النَّارُ». [صحيح] - [رواه ابن ماجه]

(218) – Yii a Gæbr [bn Abdullah nengē, Wēnd yard be b yībā yīnga, ti Nabiyaamā, (Wēnd puvsug la A tulgr be a yīnga), yeelame: «**Ra karem-y bāngrā n rat n na n pug ne-a bāngdb ye, maa y wē no-koeemd ne yalms ye, la y ra tūus zīndg zīis bāngrā yīng ye, la ad ned ning sēn maana woto, Bugmā n sōmb ne-a** » [Şahuhvn (A manegame)] - [A [bn Maagē n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wënd puvsug la A tulgr be a yīnga), hadiis-kāngã pugē, a bugsa nebã n yi bāngr baoob ninga sēn yaa na maan nebã puglgu la waoog-m-meng ne bāngdbã, la f vēnegd ti fo yaa bāngdb wala bāmba, maa f ratame n na n gom ne-a, la f wēed no-koeemd ne yalemba la yam valensã rāmbã, maa f sēn na n wa karem bāngrã n rat n na n paam n zīnd zī-bedã zīisē, la b lvsud foom neb a taabã taoore. Rēnd ned ning sēn tuma rēnda, ad a soab sōmba ne Bugum, a maan-ti-b-yã-wã la pu-peelemã kaalem a bāngrã baoob pugē wã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã pugē, pulen-wēng be beenē, ne Bugum, ne ned ning sēn wa n karemda bāngre, n rat n na n pug ne-a, maa n rat n na n wē no-koeemd ne-a, maa a rat n na n lvi taoore zīisē wã, ti yaa rē yīng la a karemd-a, la sēn wōnd rēnda.
2. Wilgda pu-peelemã maanego a yellã sēn ta zīig ningē, ne ned ning sēn wa n baooda bāngre la a karemd-a nebã.
3. Bee hadiisã pugē, sēn wiligd ti Anniiy wã, yē la tuumã yēgre, leb n yaa Anniiy wã zug la rolbã yita.

(65047)

(219) – عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(219) – Yii a ‘Usmaan nengē -Wēnd yard be a yīnga-ti yii Nabiyaamā nengē -Wēnd puvsḡ la A tulgr be a yīnga- a yeelame : «**Yāmb sōma sēn yuda soaba, yaa ned ning sēn karem Alkvrāanā la a wilg-a**». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsḡ la A tulgr be a yīnga) kōta kibare, ti lɪslaambā sēn yud sōmblem, la b sēn yud dargε zēkr Wēnd nengē: yaa ned ning sēn karema Alkvrāanā, karengo, la rulsgu, la fasengo, la tafsure (welsgo), la a wilg a to būmb ning sēn be yē nengē, sēn yaa Alkvrāanā bāngre, n lagem ne yē sēn tum ne-a wā.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Wilgda Alkvrāanā zɪslem, la yēnda la goamā sēn yud sōmblem, bala a yaa Wēnd goama.
2. Karembdā sēn yud sōmblem, yaa ned ning sēn karemda a to, ka ned ning sēn kell n koeeg ne a menga bal ye.
3. Alkvrāanā kareng la a wilgrā, a gūbga a karengā la a maanā-rāmbā la a buvd-rāmbā.

(220) – عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. [حسن] - [رواه أحمد]

(220) – Yii a Abu Abdu-Rrahmaan Assulami nengē, Wënd na yols-a, a yeelame: Neb nins sēn da karemd tōnd Alkvrāanā, sēn yaa Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tılgı be a yīng) sahaabsā, b yēsa tōndo, tı bāmb rag n yume n reegd Wënd Tēn-tvuma (Wënd puvsg la A tılgı be a yīng) nengē Aayae-rāmb piiga, rënd bāmb ka rag n leb n reegd Aayae-rāmb piiga a taaba, halı tı bāmb wa tvğ n bāng piig ning bāmb sēn reegā, bumb ning sēn be a pugē, sēn yaa bāngre la b leb n tvum ne-ba, b yeelame: "rënd tōnd karema bāngırā la tvumā". [Hasanun (A be neere)] - [A Ahmad n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Sahaabsā ra yume, Wënd yard be b yīnga, n reegd Wënd Tēn-tvuma, (Wënd puvsg la A tılgı be a yīnga) nengē, Aayae-rāmb piiga Alkvrāanā pugē, b leb n ka yit beenē n kēng zīig a to, halı tı b wa karem bumb ning sēn be piigā pugē, sēn yaa bāngre la b tvum ne-ba, rënd b karema bāngırā la tvumā fāa n lagem taaba.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Hadiisã wilgda sahaabsã yudlemã, Wënd yard be b yĩnga, la b sën tar yã-beedo ne Alkurãanã karengã.
2. Hadiisã wilgdame tu Alkurãanã kareng yita ne bãngre la tum ne bũmb ning sën be a pugẽ wã, la a ka yit ne a karengã la a rulsg bal ye.
3. A wilgdame tu bãngrã yitame n reng goamã la tuumã.

(65058)

Ned ning sën karema guls-biig a yembr Wënd Gafë wã, ad a tara yel-sõmd ne-a, la yel-sõmdã me fãoogda piig bilgri

(221) – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ {الم} حَرْفٌ، وَلَكِنْ {أَلِفٌ} حَرْفٌ، وَ{لَامٌ} حَرْفٌ، وَ{مِيمٌ} حَرْفٌ». [حسن] - [رواه الترمذي]

(221) – Yii a ‘Abdullaah [bn Al-mas’‘uvd nengë, (Wënd yard be a yĩnga), a yeelame: Wënd Tën-tuumã, (Wënd puusg la A tilgr be a yĩnga) yeelame: «Ned ning sën karema guls-biig a yembr Wënd Gafë wã, ad a tara yel-sõmd ne-a, la yel-sõmdã me fãoogda piig bilgri, mam ka yeel tu {Aluf Laam Miim} yaa guls-bi yend ye, la ad {Aluf} yaa guls-bila, {Laam} Yaa buuls-bila, {Miim} yaa guls-bila». [Hasanun (A be neere)] - [A At-turmiziy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) kōo kibare, ti luslaam fāa sēn karem guls-bila Wënd Gafã pugē, a tara a yel-sōmde, la b fāooda yē yel-sōmdã halı n tvğ n tãag a taab biiga.

Rē poorē t'a vēnege ne a koεεga: (mam ka yeel ti {Alf Laam Miim} yaa guls-bi yend ye, la ad {Alf} yaa guls-bila, {Laam} Yaa buis-bila, {Miim} yaa guls-bila): Rēnd a tãabã yaa yel-sōma pis-tã la a tãab n be beenē.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa sēn pirsd ti b wusg Alkurāanã karengo.
2. Alkurāanã karemdã, a tara yel-sōmde, yē sēn karerm guls-bill fāa, ti b fāood a yel-sōmd a yembrã n kēng bāmb piig bilgri.
3. Yaa Wënd yolsgã yalengo la A kūunã ne A sēn fāood yel-sōmdã n kō Yembsã, ti yaa kūun sēn yi Wënd nengē.
4. A wilgda Alkurāanã yudlem, sēn yud a to, sēn yaa goam buud fāa, la b sēn tūud Wënd ne a karengã, la rēnda yaa a sēn yaa Wënd goama, - A Naam zēkame-.

(222) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتيق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها». [حسن] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد]

(222) – Yii a Abdvllaah [bn Amr nengē, Wēnd yard be b yibā yīnga, a yeelame: Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd pvvsg la A tvlgr be a yīnga), yeelame: «**B na n yeela Alkvrāan soab laahr raare : karem la f rv, la f karem wala f sēn da yī n tūnigd dūni kaanē wā, ad fo darge wā tēka yaa Aaya baasdg fo sēn na n karem-a zīgē**». [Hasanun (A be neere)] - [A Abvv Daawvvd la a At-turmiziy la a An-nasaa'iy n togs-a Al-kvbraa wā pugē la a Ahmad]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā, (Wēnd pvvsg la A tvlgr be a yīnga), kōta kibare, ti b na n yeela Alkvrāan karemnda, ned ning sēn tvmda ne būmb ning sēn be Alkvrāanā pugē wā, n tabend ne Alkvrāanā karengo la a rulsd-a, a sā n wa kē arzānā, ti b yeel-a, t'a karem Alkvrāanā la a zēk n rvvd arzānā darge-rāmbē, la a karemd n noosdē, wala a sēn da karemd dūni wā, ne yē sēn karemd ne maag-m-menga la yīn-yōgnego, t'a bāng ti ad yēnda darge tēk yaa a sēn na n se zīg ninga.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgdame tu rolbã zemsda ne tuvmã a waooglem la a yalε wã.
2. Hadiisã wilgda nebã, n kengd-ba tu b karem Alkurāanã la b maneg b karengã la b ruls-a, la b tags sōma ne sēn be Alkurāanã pugã la b tum ne-a.
3. A wilgdame tu arzãnã yaa sigb zīisi la darge-rāmb sēn yaa wusgo, tu Alkurāanã rāmb na n paam darge-rāmb nins sēn zēke arzãnã pugē wã.

(65054)

Rē yīnga yāmb yembr fāa nongame, t'a sã n wa kēng a zakē, bu a tvg n mik yvgem pus a tãabo, sēn nobe, ti be a zakē wã ti yaa yēnd n so ?

(223) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِبُّ أَحَدَكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِقَاتٍ عِظَامِ سِمَانٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «ثَلَاثَ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِقَاتٍ عِظَامِ سِمَانٍ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(223) – Yii a Abu Hurayra nengē, Wēnd yard be a yīnga, a yeelame: Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd puvsg la A tilgr be a yīnga), yeelame: «Rē yīnga yāmb yembr fāa nongame, t'a sã n wa kēng a zakē, bu a tvg n mik yvgem pus a tãabo, sēn nobe, ti be a zakē wã ti yaa yēnd n so ?» Ti tōnd yeele: n-ye. t'a yeele: «bu y bāng ti Aayae-rāmb a tãabo yāmb ned kum fāa sēn na n karem a Puvsg pugē,

a sōmblem n yuda yugem-pvs tāab sēn yaa bæd n nobe».

[A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tılgr be a yĩnga), vënegdame n wilgdë, ti Aayae-rãmb a tāab fo sēn na n karem-ba puvsgã pugë, a keoorã sōmblem yuda ninsaal sēn na n mik a zakë wã yugem pvs a tāab sēn yaa bæda n nobe.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbë:

1. Hadiisã vënegdame n wilgd Alkvrãanã kareng Puvsgë wã yudlem ning sēn be a pugë wã.
2. A vënegdame n wilgdë ti tuum sōmbsã, bãmb sōmblem la b sēn paade, yuda dūni wã wu-noogã sēn setã.
3. Ad yudlem ning sēn be a yell-kãngã pugë wã, a ka za ne Aayae-rãmb a tāab kareng bal ye , rënd puvsd sēn paas Aayae-rãmbã sōor fãa, b yel-sōmdã sōmblem n yud b sōorã sēn na n yaa yugma sēn tar puse.

(65053)

Tēgd-y Alkvrāan-kāngā, tt mam wēenda ne a Mḥammad yōorā sēn be Naab ning nugē wā, ad Alkvrāanā n yud fāagr ne yvgemd sēn be a baarē

(224) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(224) – Yii a Abu Muusa Al-aš‘ary nengē, (Wēnd yard be a yīnga), tt yii Nabiyaamā nengē, -Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga- a yeelame: «Tēgd-y Alkvrāan-kāngā, tt mam wēenda ne a Mḥammad yōorā sēn be Naab ning nugē wā, ad Alkvrāanā n yud fāagr ne yvgemd sēn be a baarē». [A manegame] [A Al-Bḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tigr be a yīnga) saglame tt b minimis Alkvrāanā la b tablag a karengo, sēn na yilē n ra wa yīm-a, fō sēn rag n ruls-a f yāoogē wā poorē, la a keng rēndā ne a sēn wēene, tt Alkvrāanā, yēnda fāagre la a loogr n bas a soaba, a keelmā yuda yvgemde b sēn sēb ne wīiri, a soabā sā n get a yelle, a paamd-a lame, la a sā n lok-a n base la a sēn loogd n meneme.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Alkvrāan rulsd sā n tablg a karengā wakat fāa gilli, a kelled n paa a sūurē wā, sā n ka rē, a loogd n bas-a lame, t'a yīm-a.

2. Yōod-rāmb nins sēn be Alkurāanā tablg pugē:
yaa keoore, la yel-sōmde la dargε-rāmb zēkr
dūni yikr raarā.

(5907)

Ra rik-y y zagsā n maan ti yaa yaad ye, ad svutāanā zoetame n basd zak ning b sēn karem Al-Bakara a pugē

(225) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي

تُفْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(225) – Yii a Abu Hurayrat nengē, (Wēnd yard be a
yīnga), ti Wēnd Tēn-tvuma, (Wēnd puvsg la A tulgr be a
yīnga) yeelame: «**Ra rik-y y zagsā n maan ti yaa yaad ye,
ad svutāanā zoetame n basd zak ning b sēn karem Al-
Bakara a pugē**» [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tulgr be a yīnga)
gɔgdame ti b ra wa bas Puvsgā zagsē wā ti b wa lebg
wala yaad nins Puvsg sēn ka be wā.

Rē poorē ti Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tulgr be
a yīnga)kō kibare, ti ad a svutāanā, a zoetame n yi zak
ning b sēn karem Naafā Svvrā a pugē.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Bee hadiisã pugē, b sën bu nonglem tu b wusg tūud-rāmbā la naafil-rāmbā maaneg zagsā pugē.
2. Ka sakd tu b puus yaadē wā ye, bala a yaa lagem-n-taarā radgo la maan-n-zuvka ne yaadā rāmbā, sã n ka kūum Puusg bala.
3. B sën gidg tu b ra puus yaadē wā, yaa būmb b sën mi Şahaabsã nengē, rē n kit tu Nabiyaamã gidge (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) tu b ra tug n maan zagsā ti yaa wala yaado n ka puusd beenē ye.

(6208)

Yaa a Abvv Munzire, rē yīnga fo mii Aayar sën be Wënd Gafā pugē, fo sën karemā, zislem sën tvg n yuda bu ?

(226) – عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا الْمُنْدِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْدِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: ٢٥٥]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ، أَبَا الْمُنْدِرِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(226) – Yii a Ubay [bn Ka’ab nengē, Wënd yard be a yīnga, a yeelame: Wënd Tën-tvuma, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga), yeelame: «Yaa a Abvv Munzire, rē yīnga fo mii Aayar sën be Wënd Gafā pugē, fo sën karemā, zislem sën tvg n yuda bu ? A yeelame : ti mam yelee : Wënd la A tēn-tvumā n yud minim

ne rē, t'a yeele : « a Abv Munziri, rē yīnga fo mii Aayar sēn be Wēnd Gafā pugē, fo sēn karemā, zislem sēn tvg n yuda bu ? » a yeele: ti mam yeele {Wēnde, soab sēn tūud n tilg ka be ti sã n pa Yē ye, A yaa Vita vum sēn pid Soaba, n yaa a Maan-m-toor Soaba} [Albakara : 255]. T'a yeele : ti Nabiyaamã wē mam sūurã n yeel-ma : « m wēen ne Wēnde, ad bāngr na pvs-f zu-noogo, a Abaa Munziri». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wēnd pvsug la A tilgr be a yīnga), sokame a Ubay [bn Ka'ab Aayar ning sēn yud zislem Wēnd Gafā pugē, t'a tar leokrē wã (n maan sika), rē poorē t'a lebg n yeele : ad yaa {Wēnde, soab sēn tūud n tilg ka be ti sã n pa Yē ye, A yaa Vita, sēn pid Soaba, n yaa a Maan-m-toor Soaba} [Albakara : 255]. Tı Nabiyaamã sidg-a la a wē a yāoogã, ti yaa sēn wilgd t'a yāoogã pida ne bāngr la yam-bedre, la a kos n kō-a n yeel-a : Wēnd na maan-a zu-noog ne bāng-kāngã la A yols ne-a.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã wilgda a Ubay [bn Ka'ab yudlemã, Wēnd yard be a yīnga.
2. Wilgdame ti Aayat Alkursy yaa yēnda la Aayar sēn yud bedrem, Wēnd Gafā pugē, A Naam

zêkame, rënd sōmbame ti b ruls-a la b tags a
maanã wã n gese la b tum ne-a.

(65059)

Ned ning sēn karema Aaya a yīib nins sēn be Naafã svvrã baasgē wã, yvng pugē, b na sek-a n yi wēng buud fãa

(227) – عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«مَنْ قَرَأَ بِالْأَيْتِينَ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(227) – Yii a [bn Mas'ʻud nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Nabiyaamã yeelame (Wënd puvsg la A tlg̃r be a yīnga): «**Ned ning sēn karema Aaya a yīib nins sēn be Naafã svvrã baasgē wã, yvng pugē, b na sek-a n yi wēng buud fãa**». [A manegame] [A Al-Bḥaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaaamã (Wënd puvsg la A tlg̃r be a yīnga) kōta kibare, ti ned ning sēn karema Aaya baasds a yīibã sēn be Naafã svvrã yvng pugē, Wënd na sek-a n yi wēng la yel-kiti, la b yeelame t'a sekda neda n yi yvng Puvsgo, la b le yeelame: b sekdame n yi yōkr-rāmb nins sēn kellã, la b le yeele: ti ad bāmb b yīibã n paood n yud bumb sēn sekd Alkurāan kareng pugē, sã n yaa yvng la f na n puvse, la goam sēn ka woto me n yeele, la tōeeme ti sēn togsã fãa yaa sīda, gomdã kell n gūbga fãa gilli.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. A wilgda Al-bakara baasgē wā yudlem ning sën be a pugē, la yē me yaa sën sung A koεeg sën yeel, (A Naam zēk yā) (Tēn-tuumā kōo suda...), n tug n tāag suura wā baasgē.
2. Naafā suura baasgē, a rigda wēng la suutāambā n yi a soabā, t'a sã n karem-a yungo.
3. Yungā sungda ne wīndgā luuse, a seta ne fagirā pukri.

(6274)

Ad kosgā yēnda la tūudmā

(228) – عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأَ: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» [غافر: ٦٠]. [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(228) – Yii a Annu'maan [bn Basur nengē -Wēnd yard be a yīnga- a yeelame: Mam wuma Nabiyaamā (Wēnd puvsug la A tūlgr be a yīnga) t'a yetē: "Ad kosgā yēnda la tūudmā", rē poorē t'a kareme: "{la yāmb Soaba yeelame: "kos-y-Ma ti M na reeg y yīnga, ad neb nins sën waogd b mens n yit Mam tūudmā, b na n kēe Gehannem ti b yaa yaalse} [Gaafirv: 60]".

[A manegame] - [A Abuv Daawvud la a At-turmiziy la a]bn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yĩnga) koo kibare, ti kosgã yẽnda la tũudmã, rënd sën yaa tlae a pugẽ, yaa t'a fãa gill yi, sën yulge, Wënd a yembr yĩnga, zem ti yaa kosg sën yaa bõn-raabo, ne a sën na n kos bũmb ning sën nafd yẽ la a tus bũmb ning sën namsd-a n yi-a dũni kaanẽ la laahre, maa mikame ti yaa tũudum doaaga yẽ me la bũmb fãa gill Wënd sën nonge la A yardẽ, sën yaa koeese la tũuma, sën vëneg la sën solge, zem ti yaa sũy tũuma maa yĩng tũuma maa arzek tũuma.

Rẽ poorẽ ti Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yĩnga) na n togs daliili n tees n wilg yel-kãngã, n yeele: Wënd yeelame: {Kos-y-Ma ti M na reeg y yĩnga, ad neb nins sën waogd b mens n yit Mam tũudmã, b na n kõe Gehannem ti b yaa yaalse}.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbẽ:

1. Doaagã (Kosgã) yẽnda la tũudumã yẽgre, ka sõmb ti b wëneg-a n koo zëng sën ka Wënd ye.

2. Doaagã a kumba tũudumã hakuka la reeg-m-zugẽ ne Soabã sek-m-mengã la A tõogã, A Naam yi wagelle, la yamb sãn tar tulsem wakat fãa n tug A nengẽ.
3. Puleng kegeng ne waoog-m-mens rãmba n yi Wënd tũudumã la A kosgã basbã, tı ad neb nins sãn waoogd b mens n yit Wënd tũudmã, b na n kõe Gẽhannem tı b yaa yaalse.

(5496)

Nabiyaamã (Wënd pwsq la A tıgr be a yĩnga) ra yume n tẽegd Wënd yvrã yelle, a wakat-rãmbã fãa pvgẽ

(229) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. [صحيح] - [رواه مسلم]

(229) – Yii a 'Aaiša nengẽ, (Wënd yard be a yĩnga (Wënd yard be a yĩnga)) a yeelame: Nabiyaamã (Wënd pwsq la A tıgr be a yĩnga) ra yume n tẽegd Wënd yvrã yelle, a wakat-rãmbã fãa pvgẽ.

[A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

A 'Aaiša, Muumin-rãmbã ma wã (Wënd yard be a yĩnga) kõta kibare, tı Nabiyaamã (Wënd pwsq la A tıgr be a yĩnga) a ra yume, n tar yã-beed wwsq ne Wënd yvrã tẽegre, (A Naam zẽk yã), la ad a ra yume n tẽegd Wënd yvrã wakat fãa, (A Naam zẽk yã) zıig fãa, la halhaal fãa pvgẽ.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Ka sart tu fo yulg n yi rēdg ye, b bāanego, maa b bēda, n yaool n tēed Wēnd yuurã yell ye, A Naam zēkame-.
2. Yaa Nabiyaamã (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) sën duumd ne Wēnd yuurã tēegrã, -A Naam zēkame-
3. Yaa b sën pirsdi tu b wusg Wēnd yuurē tēegre, (A Naam zēk yā) wakat-rāmbã fāa gill pugē, tu yaa Nabiyaamã tikri (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) sã n ka halhaal-rāmb nins b sën gidg a pugē tu b ra wa tug n tēeg Wēnd yuurã, wala we-kæeng maaneg wakato.

(8402)

Būmb ka be n tar waoor Wēnd nengē, A Naam yı wagell n zēke, n leb n yud kosg ye

(230) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **الْيَسَّ**

شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاؤِ. [حسن] - [رواه الترمذی وابن ماجه وأحمد]

(230) – Yii a Abu Hūrayrat nengē -Wēnd yard be a yīnga- a yeelame: Nabiyaamã (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) yeelame:- "Būmb ka be n tar waoor Wēnd nengē, A Naam yı wagell n zēke, n leb n yud kosg ye". [Hasanun (A be neere)] - [A At-turmiziy la a [bn Maage la a Ahmad n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tilgr be a yĩnga) vënegame tu ad bũmb ka be, tũud-rãmbã pugẽ, sõmblem Wënd nengẽ n yud kosg ye, bala kosgã pugẽ, reeg-m-zug n be a pugẽ ne Wënd sek-m-mengã, A Naam yulgame n zẽke, la f leb n reeg f zugẽ tu yamb yaa koangda, a leb n tara tvlsem ne Wẽnde.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbẽ:

1. Wënd kosgo yudlem ning sën be a pugẽ, la ned ning sën kosda Wẽnde, mikdame tu yaa ned sën zugsd Wẽnde, a leb n reega a zugẽ tu Wënd la sek-m-meng Naaba, yulgem be ne Wẽnde, rënd talga b ka kot-a ye, leb n wilgdame t'A yaa wumda bala wunga b ka kot-a ye, leb n wilgdame t'A yaa kõata, bala beed-soaba b ka kot-a, leb n wilgdame t'A yaa yolsda bala keelem soaba b ka kot-a ye, leb n wilgdame t'A yaa tõogda bala koangda b ka kot-a ye, wilgdame t'A pẽeme bala sën zãra a ka wumd ye, la zẽng sën ka yu ne rẽ, sën yaa waoor la ra-sãndlem suf-rãmba, n kõt Wẽnde, A Naam yu wagell n zẽke.

(5509)

(231) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الْقَوْبُ الْخَلْقُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ».

[صحيح] - [رواه الحاكم والطبراني]

(231) – Yii a Abdullaah [bn Amr [bn Al-ass nengē, - Wēnd yard be b yiybā yīnga-, a yeelame : Wēnd Tēntuma, (Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga), yeelame: «Ad sid-kūunā kvdgda yāmb yembr fāa nengē, wala fuug sēn kvdgd to-to ningā, bi y kos Wēnd t'A palms sid-kūunā y sūy wā». [Şahuhvn (A manegame)] - [A Al-haakum la a Aṭ-ṭabaraaniy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã, (Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga), kōta kibare, ti liimaongã, a kvdgda lslaam sūurē, n valemse, a bilg-n-taar yaa wala fu-paall sēn wat n kvdge, a yeelgrã sēn kaosã yīnga; La yēnda yaa kvung maaneg tūudmã pugē wã yīnga, maa Wēnd kusgã tuma la ninsaal bōr a meng yamleoodã pugē wã. Ti Nabiyaamã, (Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga), kãndag tōndo n wilg-do ti d kos Wēnde, -A Naam zēkame-, t'A palms d sid-kūunã, la rē yaa d sēn na n yik ne faril-rāmbã la d wusg ne Wēnd yuurã tēegre, la Wēnd yaafg kosg wusgo.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā pirsdame ti b kos Wēnd tablgo, dīinā pugē, la b leb n palms d sid-kūunā d sūy wā.
2. Hadiisā wilgdame ti sid-kūuni, yaa būmb sēn yaa gomde la tuuma la loe-n-wāake, a paasdame ne Wēnd tūudum la a boog ne Wēnd kusgo.

(65020)

Yamb sēn twg n yud pēnem ne a Soabā, yaa a sēn wat n be suguudē wā, sā n yaa woto bi y wvsg kosgā

(232) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(232) – Yii a Abu Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) ti ad Wēnd Tēn-tuvmā (Wēnd puvs la A tulgr be a yīnga) yeelame: "Yamb sēn twg n yud pēnem ne a Soabā, yaa a sēn wat n be suguudē wā, sā n yaa woto bi y wvsg kosgā". [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puvs la A tulgr be a yīnga) vēnegdame n wildgē, ti yamb sēn wat n pē n yud a Soabā, yaa a sēn wat n be suguud pugē, la rēnda yaa ti puvsda, a rikda būmb ning sēn twg n zēke la zis n yuda, yē yīngē wā, n rugl tēngā, ti yaa gāneg-m-menga la faag-m-menga la paoog-m-meng ne Wēnde, A Naam yi wagell n zēke, ti yēnda yaa sēn be suguudē wā.

La sida, Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yĩnga) saglame ti b wvsg kosgo suguudẽ wã, rënd sã n yI woto, gãneg-m-meng ne Wëndã, tigimdame ne goam la tvvma.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbẽ:

1. Tüudumã a paasda yamba pënegr ne Wënde, A Naam yIlg n zêke.
2. B buv nonglem ti b wvsg kosg suguudẽ wã; bala yaa be la kosgã reegr zĩigẽ.

(5382)

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yĩnga) a doaag sñh da yud rag n yaa! "Allaahumma rabbanaa aatnaa fiddunya hasanatan wa fil Aahirati hasanatan wakinaa 'azaabannaar, = d Soaba Wënde! Kõ-d Dũni pugẽ sñh be neere la Yaolem-raarã sñh be neere, la F gũ tõnd ne Bugmã namesgo".

(233) – عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(233) – Yii a Anas nengẽ, (Wënd yard be a yĩnga), a yeelame: Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yĩnga) a doaag sën da yud rag n yaa: "Allaahumma rabbanaa aatnaa fiddunya hasanatan wa fil Aahirati hasanatan wakinaa 'azaabannaar, = d Soaba Wënde! Kõ-d Dũni pugẽ sën be neere la Yaolem-raarã sën be neere, la F gũ tõnd ne Bugmã namesgo". [A manegame] [A Al-Bvhaariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) ra yume n wusgd kosgã la doosã sën gũbgã maanego, sën be b pugê: "Allaahumma rabbanaa aatnaa fiddunya hasanatan wa ful Aahiratu hasanatan wakunaa 'azaabannaar, = d Soaba Wënde! Kõ-d Dũni pugê sën be neere la Yaolem-raarã sën be neere, la F gũ tønd ne Bugmã namesgo". Bala a yaa doaag sën gũbgi dũni yel-sõmde, sën yaa rutla sën be neere, n yalme, n yaa halaale, la pug-sõngo, la biig sën maagd nifri, la vuusgo, la bãngr sën nafde, la tuum sõngo, la sën wõnd rënda, sën yaa yel nins b sën bu nonglem, ti sãri wã kō sore, la yaolem raarã yel-sõmdã yaa fo sën na n tulg n yi namsgã yaoogã pugê la Yalsgã zĩigê, la Bugmã, la paam Wënd yardo, la f paam pōsg ne neemã zakã sën duumdã, la f pēneg Wënde, sën yaa Yolsda.

Sën be Hadiisã yōod-rãmbê:

1. B buu nonglem ti b kos ne doos nins sën tigmã, ti yaa sën na n tik Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga).
2. Sën pid n yuda yaa ti ned sã n na n kos bi a tigim a kosgê wã dũni wã la laahrã yel-sõmã.

(234) – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [صحيح] - [رواه البخاري]

(234) – Yii a Acusa nengê, Wënd yard be a yînga: Tı Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tıgr be a yînga) yume t'a sã n kull a gãagê wã, n na n gãand yung fãa, a tigimda a nus a yuibã, rê poorê t'a fuvb b yuibã pugê, n karem b yuibã pugê {Kul huwallaah Ahadun} la {Kul A'uvzv birabbil Falaki} la {Kul A'uvzv biraabinnaas}, rê poorê t'a saag ne b yuibã, a yîngã, a sên tõe teka, a sungda saagrã a zugê wã la a nengã la yîngã sên kellã, a maanda rënda noor a tãabo. [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Wilgdame tı sên da be Nabiyaamã, (Wënd puvsg la A tıgr be a yînga) kãndgrã pugê, a sã n kull a gãagê wã, n na n gãande, a tigimda a nus a yuibã, n zêk-ba wala Wën-bôaasd sên zêkd a nugã to-to ninga, n fuvb b yuibã pugê fuvsg sên yaa faaga, n lagem kolkood bilfu, la a karem b yuibã pugê Suvr-rãmb a tãabã, {Kul huwallaahv Ahadun} la {Kul A'uvzv birabbil Falaki} la

{Kul A'vuzv biraabinnaas}, rē poorē t'a saag ne a tal a yibā a sēn tōe teka, a yīngē wā, n sung a zugē wā la a nengā la yīngrā, a maanda tvvm-kāngā noor a tāabo.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Bee hadiisā puga, b sēn bu nonglem tu b karem {Kul huwallaah Ahadun} la {Kul A'vuzv birabbil Falakı} la {Kul A'vuzv biraabinnaas} taoor tu f na n ka gāande, la f fvus ne-ba, la f saag f yīngā f pāng tōog teka.

(65060)

Yaafā wā kosg zu-soaba

(235) – عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبِئُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبِئُوءُ لَكَ بِدُنْيِي فَأَغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمِيسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(235) – Yii a Šadaad [bn Aws nengē (Wënd yard be a yīnga): tu yii Nabiyaamā nengē, (Wënd pvvsg la A tulgr be a yīnga): «Yaafā wā kosg zu-soaba, yaa fo sēn na n

yeele: Allaahumma anta Rabbu, laa ulaaha ulla anta, halaktanu wa anaa `Abduka, wa anaa `alaa `ahduka wa wa`duka mastafa`tu, A`uudu bika mun Šarru ma šana`tv, abuu`u Laka buni`matika `alaiya, wa abuu`u laka biđanbu, fağfir lu, fa unnahuu laa yağfiru addunuba ulla anta.= M Soab A Wēnde, Foom la mam Soaba, soab sēn na n tū n tulg ka be ye, ti sã n ka Foom, Foom n naan maam ti mam yaa Fo yamba, m bee Fo alkaoolã zugu la F pvlengã, m pãng tōog tekē, m kot-F la gūudum n yi mam sēn maanã fãa wēnga, m reega m zugē ne Fo neema sēn be mam nengē wã, la m reeg m zug ne m zūnuubã, sã n yaa woto bi F yaaf-ma, tu ad ka yaafd zūnuub-rãmba, rēnda Foom bala». A yeelame: «ned sã n yeel-a wīndga, n tar bāng-n-waak ne-a, n maan kaalem raarã pvgē, taoor tu zaabr ka ta, ad a yaa arzãn biiga, la ned sã n yeel-a yungo, n tar bāng-n-wãak ne-a, n maan kaalem taoor tu beoogã na n ka vēege, ad a yaa arzãn neda». [A manegame] [A Al-bvhaariy n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wēnd pvvsg la A tulgr be a yīngã) kōta kibare, tu astagfirullaahã maanego, a tara gom-biisi, la a sōmblem la a zislem sēn tvg n yuda yaa yamb sēn na n yeele: "Allaahumma anta Rabbu, laa ulaaha

ulla a anta, ḥalaktanu wa anaa `Abduka, wa anaa `alaa
 `ahdika wa wa`dika mastata`tu, A`uudu bika mun Šarru
 ma šana`tu, abuu`u Laka binu`matika `alatiya, wa abuu`u
 laka biḍanbu, fağfir lu, fa unnaahu laa yağfiru
 addunuuba ulla a anta.= M Soab A Wēnde, Foom la
 mam Soaba, soab sēn na n tū n tilg ka be ye, ti sã n ka
 Foom, Foom n naan maam ti mam yaa Fo yamba, m
 bee Fo alkaoolã zugu la F pvlengã, m pãng tōog tekē, m
 kot-F la gūudum n yi mam sēn maanã fãa wēnga, m
 reega m zugē ne Fo neema sēn be mam nengē wã, la m
 reeg m zug ne m zūnuubã, sã n yaa woto bi F yaaf-ma,
 ti ad ka yaafd zūnuub-rãmba, rēnda Foom bala" Rēnd
 yamba, a reegda a zugē ne Wēnde, ne Wēnd yembgo,
 la yaa Wēnd n naan yēnda la yaa Wēnd la a tūuda,
 lagem-n-taag ka be ne Wēnde, la yēnda bee a sēn rik
 alkaool ne Wēndã, (A Naam yulg yã), sēn yaa sid-kūuni
 la Wēnd tūudum, a pãng tōog teka, bala yamba a sēn
 yik ne A tūudmã sēn yaa a soab fãa, a ka tōe n wa ne
 Wēnd sēn saglã fãa gill ye, a ka tōe n yik ne sēn yaa
 tilae n zao ne yēndã wã neemã wã bark puvsq ye, la a
 lebsda a meng Wēnd nengē, n teeg a meng ne Wēnde,
 bala Wēnd la b kot gūudum n yi yambã sēn tumã
 wēnga, la yē sakdame n reeg a zugē, ti yaa sak-n-tū
 Wēnd neemã wã sēn be a zugu, yēnda reegda a zugē ne
 sak-n-tū Wēnd neemã wã sēn be yē zugã, la a leb n rōd

a menga, ne a sēn sak n reeg a zugē ne yē zūnuubā la a kugā, La sē-yōkr-kāngā ne Wēndā, a kota a Soabā t'A yaaf a zūnuubā, ne A sēn na n loe a bāngo, la A gū-a n yi a wēngā ne A yaafā la A kūunā la A yolsgā, bala ka yaafd zūnuub-rāmbā rēnda Wēnde, (A Naam yī wagell n zēke). Rē poorē, Nabiyaamā (Wēnd puvsg la A tigr be a yīngā) kōo kibare tī doa-kāngā bee yibeoog la yung doosā pugē, ned ning sēn wa n yeel-a ne bāng-n-waakā n tags a maanā wā, n kō sid ne-a, a raarā sungrē, n na n sung wīndgā pukri, n tī tāag a killegā, yē me la wīntoog wakatā, a sā n maan kaalem, a kēeda arzāna, la ned ning sēn yeel-a yungo, yē me la sēn singd wīndgā lvuse, n tvg n tāag fagir pukri, a sā n maan kaalem taoor tī fagir ka puki, a kēeda arzāna.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Kos Wēnd yaafā wā gom-biisā, b yaa torr-toore, b sānda sōmblem yuda sānda.
2. Yaa tī sōmba ne yamba t'a tall yā-beed ne a na kos Wēnd ne doa-kāngā, bala a yaa yaafa kosgā zu-soaba.

(5503)

(236) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: حَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ، نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يُصَلِّيَ لَنَا، قَالَ: فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي]

(236) – Yii a ‘Abdullaah [bn ḥubayb nengē, (Wēnd yard be a yīnga), t'a yeelame: Tōnd yii yungo, saag sēn ni la lik sēn yaa kēgenga, n baood Wēnd Tēntuvmā (Wēnd puvsig la A tilgr be a yīnga) t'a wa puvs nebā, a yeelame: ti mam ti paam-a, t'a yeele: «yeele» ti mam ka yeel baa fvi ye, rē poorē t'a yeele: «yeele», ti mam ka yeel baa fvi ye, t'a yeele: «yeele», ti maam yeele: bōe la mam yeta? T'a yeele: «{Yeele: "Yēnda la Wēnde, A yaa A Yembre} (kulhuwa Allah) la Ma'wuzatayne (kul awuz-rāmb a yībā): fo sēn wat n ta zaabr la fo sēn wat n vēeg beoogo, noor a tāabo, ti b sekda foom n yi būmb fāa gill wēnga».

[Şahuhvn (A manegame)] - [A Abvv Daawvud la a At-turmiziyy la a An-nasaa'iy n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Sahaab wagellā kōta kibare, a ‘Abdullaah [bn Ḥubayb (Wēnd yard be a yīnga) ti bāmb yii yungo,

saag sēn yaa wuṣgo, ti lika yaa keḡenga, n na n bao Wēnd Tēn-tuṣmā (Wēnd puṣg la A tulgr be a yīnga) t'a wa puṣ-ba, ti b ti mik-a, ti Nabiyaamā (Wēnd puṣg la A tulgr be a yīnga) yeel-a: "yeele" rat n yeel t'a kareme, t'a ka karem baa fuṣ ye, Tı Nabiyaamā (Wēnd puṣg la A tulgr be a yīnga) lebg n yulem gomdā a zugē n yeel-a, t'a 'Abduḡlaah yeel-a: yaa bōe la m na n kareme Wēnd Tēn-tuṣma? Tı Nabiyaamā (Wēnd puṣg la A tulgr be a yīnga) yeel-a: karem: Kul huṡwallaah {Yeele: "Yēnda la Wēnde, A yaa A Yembre} la Ma'ṡuzatayne {Yeele : "M kota gūudum ne yibeog Soabā.} la {Yeele: "M kota gūudum ne nebā Wubdā.} zaabr wakat la yibeog wakato, noor a tāabo, ti b gūuda foom n yi wēng fāa gilli.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. B buṡ nonglem ti b karem: Kul huṡwallaah {Yeele: "Yēnda la Wēnde, A yaa A Yembre} la Ma'uzatayne: {Yeele : "M kota gūudum ne yibeog Soabā.} la {Yeele: "M kota gūudum ne nebā Wubdā.}. Yibeog la zaabre, la b yaa gūudum n yi wēng buudā fāa.
2. Yaa Kul huṡwallaahā: la Ma'uzatayne: (Kulauṡz-rāmb a yiibā). B karengā yudlem ning sēn be beenē wā togsgo.

(6082)

(237) – عن سَمْرَةَ بن جندبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(237) – Yii a Samura [bn Gundub nengē, (Wënd yard be a yīnga), a yeelame: Wënd Tën-tvumã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) yeelame: "Goamã sên tvg n noom Wënd n yud yaa naase: Subhaanallaah, wa Alhamdu lillaah, wa laa'ulaaha ullaallaah, la Allaahu Akbaru, fo sên reng a soab n sung fãa, a ka sãam ye. [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) vënegdame n wilgdē ti goamã sên tvg n noom Wënd n yude, yaa naase: Subhaanallaah: a wilgda fo sên na n ylg Wënde, A Naam yī wagell n zēke, n yi boogr fãa. Alhamdu lillaah: yaa pēg Wënde ne pidb sên ta teka, n lagem ne A nonglem la A zisgre. Laa ulaaha ullaallaah: rat n na n yeel ti tūud sīda ka be rēnda Wënde. Allaahu akbaru: rat n yeel ti Yēnda bedrem la A zislem n yud būmbã fãa gillã. La a yudlemã la a yel-sōmdã paoongo ka tūud ne fo sên na n tūnug a taab yeelgē wã ye.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Sari wa yaa yol-yole, rënd sën mik tɪ gom-bi-kāensã, fo sën sing-a zīig ningã fāa, ka sām ye

(5475)

(238) – عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(238) – Yii a Abu Hurrayrat nengē (Wënd yard be a yīnga) a yeelame: Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tulgr be a yīnga) yeelame: «Ned ning sën wa n yeele: Laa ulaaha ulallaahv, wahdahv, laa šaruka lahv, lahvlmvlkv wa lahvlhamdv, wa hwa ‘alaa kullu šay-un kadur = soab sën na n tū n tulg ka be, rēnda Wēnde, A yaa Yembre, lagem-n-taag ka be ne-A ye, Yē n so Naamã la A sō Pēgbā, ad Yēnda yaa Tōogd ne būmbā fāa gilli, noor piiga a yel-sōmdā yita wala ned sën na n bas burkīndi yembs a naase, sën yi nabiyaam a [smaaʼul koambē wā». [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) kōo kibare, ti ned ning sēn yeela: «Laa ulaaha ulallaahu, wahdahuu, laa šaruka lahuu, lahulmulku wa lahulhamdu, wa huwa ‘alaa kulli šay-in kadur" a maanã wã: soab sēn na n tū sid-sid ka be, rēnda Wēnde, lagem-n-taag ka be ne-A ye, la yaa Yēnda, -yulgr be ne-A- n welg ne Naam sēn pidi, Yē n sōmb ne Pēgr sēn lagem ne nonglem, la zisgre, n yōsg ne zēng sēn ka Yēnda, A leb n yaa Tōogda, būmb ka kongd-A ye. Rēnd ned ning sēn ylma yōk zisg-kāngã, raar pugē noor piiga, a soab paamda yel-sōmd wala ned ning sēn na n yēes yembdo n bas yembs a naas sēn yi a [smaaʔul koambē wã, sēn yaa a [braahum biigã, -puusg la tulgr be b yiibã zugu- la welgame t'a [smaaʔul koamba, -tulgr be ne-a- bala bāmb zislemã n yud zēng sēn ka bāmba.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. A wilgda Wënd yuurã yōk-kāngã, sēn kumbd Wënd welgre, (A Naam zēk yã) ne tūudmã la naamã la pēgrã, la A tōog sēn pidi.
2. Paamda yōk-kāngã yel-sōmdã, ned ning sēn yeel-a n tūnug taaba maa a welg-b-la taaba.

Gom-biis a yiibu n be, n yaa faasg ne zelemdā, n yaool n yaa zisgo, tvvm peesg laok zugu

(239) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَيُحْمَدُهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(239) – Yii a Abu Hurayrat nengē -Wënd yard be a yīnga- a yeelame: Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) yeelame-: Gom-biis a yiibu n be, n yaa faasg ne zelemdā, n yaool n yaa zisgo, tvvm peesg laok zugu, ti b yiibā noom Arrahmaan Naaba: yaa (Subhaana-llaah Al-azum,) la (Subhaana-llaah wa bihamdihii). [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wënd puvsg la A tilgr be a yīnga) kōo kibare, gom-biis a yiib ninsaal sēn yet-b ti ka tū ne toogo, sēn yaa halhaal ningā fāa gilli, la ad b yiibā keoorā yaa bedr peesgā laok zugu, la tōnd Soabā sēn yaa Arrahmaan Naabā, A nonga b yiibā:

(Subhaana-llaah Al-azum,) la (Subhaana-llaah wa bihamdihii); bala yaa b yiibā sēn kvmb gom ningā sēn yaa Wënd sfō ne zislem la pidbu, n leb n yulgd Wēnde, n yi boogre, A Naam yī wagell n zēke.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Yaa ti Wënd yuur tēegr sën yuda, yaa fo sën na n tōog n tigim a pugē Wënd yuurã ylgr la A pēgbo.
2. Wilgda Wënd yolsgã yalmã sën gūbg a yembsã, bala A ronda tuum sën yaa kɪdga ne keoor sën yaa bedre.

(5507)

Ned ning sën yeela: (Subhaana-llaah wa bihamdihii, ylgr be ne Wënd, la pēgr be ne-A) raar pugē, noor koabga, b lubda a zūnuubã baa t'a sã n yaa wala mogr puudu

(240) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ

وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(240) – Yii a Abu Hvrayrat nengē, (Wënd yard be a yīnga), ti Wënd Tën-tuuma, (Wënd puusg la A tilgr be a yīnga) yeelame: «**Ned ning sën yeela: (Subhaana-llaah wa bihamdihii, ylgr be ne Wënd, la pēgr be ne-A) raar pugē, noor koabga, b lubda a zūnuubã baa t'a sã n yaa wala mogr puudu.** [A manegame] [A Al-Buḥariy ne a Muslim zemsa taab a zugu].

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tilgr be a yīnga) kōta kibare, ti ned ning sën yeela, raar pugē, noor koabga: «**Subhaana-llaah wa bihamdihii**»; b yēesda a tuum tuuti wã, n yaaf-a, baa t'a sã n yaa wusgo, n yaa wala mogr puud ning sën rukda a zugē wã, a sën wat n maan ko-wīigã n rāmbdē wã.

Sën be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Keoor-kāngã ned ning sën yeel-a raarã pugē, n tūnug taaba, maa a welgame, toor-toor n yeel-ba, tu sōorã ta, a paamda yel-sōmdã.
2. (Subhaana-llaahã) maanã: yaa Wënd yulgre, n yi boogr buudu, la pēg-A, la (Hamdã): yaa fo suf-A ne pidbu, n lagem ne nonglem la zisgre.
3. B sën rat hadiisã pugē wã, yaa zūnuub bāanegã yaafgo, la sã n yaa zūnuub bedã, yaa tulae tu b tuub n bas-ba.

(5516)

yilgrã a yaa lumaang pvsvka, la Alhamdu lillah, a pita tvvmã geelg laoko, la subhaanallaah la Alhamdu lillaah, b yilbã pitame, maa a pita bōmb ning sën be saasã la tēngã

(241) – عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ – أَوْ تَمْلَأُ – مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(241) – Yii a Abu Maalik Al-As-ariy nengē, Wënd yard be a yīnga, a yeelame: Wënd Tēn-tvuma, (Wënd pvsug la A tilgr be a yīnga) yeelame: « **yulgrã a yaa lumaang pvsvka, la Alhamdu lillah, a pita tvvmã geelg laoko, la subhaanallaah la Alhamdu lillaah, b**

yiibã pitame, maa a pita bũmb ning sën be saasã la têngã svka, la ad Puvsgã yaa vëenem, la sãra (doaag) maanego a yaa daliil sën wilgd lumaangã, la ad sugr yaa vëenem, la Alkvrãanã a yaa gom lubdga, sën na n sõng foom, maa sën na n nams foom, ad nebã fãa gilli, b sãta beoogo, n koosd a mengã, be beenë sën basd a yoor burkĩndi n yi Bugmã, be b pugë ned sën na n halk a yoorã n këes-a Bugmã pugë». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Hadiis-kãngã pugë, Nabiyaamã, Wënd puvsg la A tilgr be a yĩng kõta kibare, ti ad ylgr ningã sën yaa yung yulgrã, a yuta ne koom yõgbo la koom soobo, la yënda me yaa sart Puvsgã pugë. La a leb n wilgdë ti ned sën na n yeele: « **Alhamdu lillah, a yaa bũmb sën pit a tvvm geelg laoko** », yë me yaa fo sën na n pëgd Wënde, A Naam yulgame, la f leb n sifd-A ne sif-rãmb sën pidi, b na n rika rënda n pees dũni yikr raare, t'a pid tvvma laoko. La a leb n wilgdë ti : « **svbhaanallaah la Alhamdu lillaah** » yeelgo, yë me yaa fo sën na n yilg Naab A Wënde, n yi boogr fãa gilli, la f leb n sif-A ne sifg sën pidi, sën sõmb ne-A -A Naam yı waggelle- n lagem ne A nonglem, la A zisgre, yel-kãensã yaa bũmb sën piti, sën be saasã la têngã svka. A leb wilgdame ti ad : « **Puvsgã** » yaa vëenem, a yaa nuura ne yamba, a

sũurē wā, la a nengē wā, la a yaoogē wā, la Yikrā raare. N leb n wilgdē ti doaag maanego, a yaa daliil sēn wīnigd muumin lumaangā sıda, la a sēn weleg ne munaafikā, sēn gidgdb n ka rat n na n yāk Zakā, n ka sıdgd a pvlengā. A leb n wildgame ti « **sugr** » yaa vēenem, la yē me yaa Adam Biig tōog a meng n yi gēega, la zabre, yaa būmb sēn yaa nuura, ti tvvlem la yōogre, n be yel-kānga pvğē, t'a yaa wala wīndtoogā vēenem, a yaa būmb sēn yaa toog ne yōore, n leb n dat ti fo tōog n wōr yōorā, la f leb n gidg yōorā n yi a yamleogā, rēnd a soabā ka bakd n be kāndgr pvğē wakat fāa, n be sıd zugu, la yēndā me yaa f maan sugri ne Wēnd tūudmā, la f leb n maan sugri n bas A kusgā, la f maan sugri ne yel nins sēn paam foom, la yel tood gill sēn paam foom dūni wā pvğē, ti f maan sugri. Rēnd wilgdame ti Alkrāanā a yaa gom lubdga, ne foom ti f sā n karem-a, la f tum ne-a, n leb n yaa gom lubdga, n na n nams foom ti fo sā n bas-a n ka tum ne-a la f ka karemd-a. Rē poorē ti Wēnd pvvsg la A tıgr be a yīng kō kibare, ti ad nebā fāa gilli, b yıtame ned fāa yāgddē, la b sēegdē, n yıkd b gōeemē wā, n yıt b zagsē wā, n na n tug n maan b tvvmā kōbg toor-toore, Rēnd be b pvğē, ned ning sēn na n tēeg turga, a tūudmā zugu, ti bas a yōorā burkīndi n yi Bugmē wā, la be b pvğē ned ning sēn na n kille, n bas so-turgā n kē Wēnd kusg pvğē, n halk a yōorā, ne a sēn na n kēes-a Bugmā.

Sën be Hadiisã yõod-rãmbë:

1. Hadiisã wilgdame ti ylgrã, a yaa kõbg a yiibu, ylgr ning sën yaa yngã, yē yita ne koomã yõgbo la koomã soobo. La ylgr ning sën yaa pugē wã, yē yita ne Wën-yembgo, la sid-kũuni, la tuum sõmbse.
2. Hadiisã wilgda Puusgã gũusgu a yellã sën ta zīg ninga, bala a yaa nuura ne yamba dũni wã zugu, la alkiyaom raare.
3. Sarã wã maanego a yaa bũmb sën wildg lumaangã sidgre
4. A wildga tum ne Alkurãanã yellã sën ta zīg ninga, la Alkurãanã sidgre, bul yīnga t'a na yɪ daliil n sōng foom, n da wa yɪ dalill sën na nams foom ye.
5. Hadiisã wilgdame ti yõorã fo sã n ka maan-a soagl ne Wënd tũudum, a na n maana foom soagl ne Wën-kusgo.
6. Ninsaal fãa yaa tulae ne-a t'a tume, rënd yaa t'a maan tuum ning sën na n bas-f yõorã burkĩndi ne tũudum, maa f maan sën na n halk-a ne Wën-kusgo.
7. Sugrã tara tulsem ti fo tõog f menga la f leb n tē keoor a pugē, la f bãng ti keelem wusgo n be a pugē.

(65004)

(242) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(242) – Yii a Abu Hurayrat nengē (Wēnd yard be a yīnga) a yeelame: Wēnd Tēn-tv̄vma (Wēnd puv̄sg la A tlv̄gr be a yīnga) yeelame: «**Mam sēn na n yeel (Sv̄bhaana-llaah) la (Al-hamdu lillaah) la (Laa ulaaha ullallaah) la (Allaahv akbarv) yē n noom maam n yud būmb fāa wīndgā sēn puk n miki**». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puv̄sg la A tlv̄gr be a yīnga) kōta kibare tī ad Wēnd yuv̄rā tēegrā (A Naam zēk yā) ne gom-bi-kāensā sēn yaa zisdā, a sōmblemā n yud dūni wā la sēn be dūni wā pvgē, bāmb me la:

"Sv̄bhaana-llaah": sēn yaa ylv̄gr ne Wēnde n yi boogre.

"Al-hamdu lillaah": yaa Wēnd pēgre ne sfa sēn pidi, n lagem ne A nonglem la A zisgre.

"Laa ulaaha ullallaah": b sēn tūud a soab ne sūd ka be, sā n ka Wēnde.

"Allaahv akbarv": Yē n zise, la A zēk n yud būmbā fāa gilli.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Yaa kengr ti b tēeg Wēnd yuurā, la ad yēnda n noom-a n yud būmb fāa wīndgā sēn puk a zugu.
2. Yaa sēn pirsd ti b wusg Wēnd yuurā tēegre, keoorā la yudlemā sēn be beenē wā yīnga.
3. Dūni wā wum-noodā yaa bilfu, a yamleoodā me yaa būmb sēn loogde.

(6211)

tūud n tlg kae rēnda Wēnde), la kosg sēn yuda, yaa: Alhamdv lll-Laah, (Pēgr be ne Wēnde)

(243) – عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ».

[حسن] - [رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]

(243) – Yii a Gæbr nengē -Wēnd yard be a yīnga- a yeelame: mam wuma Wēnd Tēn-tvuma (Wēnd pvsug la A tlggr be a yīnga) t'a yetē: «**Wēnd yuurā tēegr sēn yuda, yaa: Laa llaaha illal-Laah (soab sēn tūud n tlg kae rēnda Wēnde), la kosg sēn yuda, yaa: Alhamdv lll-Laah, (Pēgr be ne Wēnde)**» [Hasanun (A be neere)] - [A At-turmiziy n togs-a, la a An-nasaa'iy As-sunan al-kvbraa wā pugē, la a lbn Maage]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tılgr be a yĩnga) kōta tōnd kibare ti Zıkr sōmblem sēn yude yaa "Laa llaaha ullal-Laah" la a vōorã: yaa soab sēn tūud n tılg kae rēnda Wēnde. La kosg sēn yude yaa "Alhamdu lil-Laah"; yē me vōore, yaa reeg-m-zugē ti neemã maandã Yē la Wēnde, A naam zēkame; sēn sōmba ne stıfg sēn pidã n be neerã.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Hadiisã pırsdame ti b nidg pānga ne Wēn yuurã tēegre sēn tū ne Wēn-yembgã koεεgã, la kosgo ne Wēnd pēkā.

(3567)

Ned ning sēn wa n tvg siga sigb zīigē, rē poormsd-a halt t'a wa tvg n yik zī-kāngã

(244) – عن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(244) – Yii a Hawla sēn yaa Hakiim As-sulamiyya bi-pugla, a yeelame: mam wuma Wēn Tēn-tuumã (Wënd puusg la A tılgr be a yĩnga) t'a yetē: «**Ned ning sēn wa n tvg siga sigb zīigē, rē poorē t'a yeele: m kota gūudum ne Wēnd goamã sēn pidã, n yi A sēn naan**

fāa wēnga, būmb ka namsd-a halū t'a wa tvg n yik zī-kāngā». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsg la A tigr be a yīnga) kāndga a poorē rāmbā gādbo la lebs-m-menga, lebs-m-meng sēn nafde, sēn tUSD yell fāa, b sēn gūusdi, ti ninsaal yēsdē, a sēn wat n sig zīg ning fāa, tēngā zugu, zem ti yaa sor zugu, maa a yiime n na n noog a yōore, maa zēng sēn ka rē, t'a loe a menga, la a lebs a meng ne Wënd goamã sēn pidā, a yudlemã pugē la a albarkā, la a nafā wā, sēn tigr n yi zang fāa la boogre, n yi bōn-naandg fāa wēnga, wēng sēn be a pugē, t'a paam bas-m-yam a sigbā zīgē, t'a sã n ket n bee beenē, n yi būmb fāa sēn namsd neda.

Sēn be Hadiisã yōod-rāmbē:

1. Kos gūudum ne Wëndā, a yaa tūudum, la yaa sēn na n yi ne Wēnde - A Naam zēk yā-, maa A yuyā, maa A sif-rāmbā.
2. Sakdame ti b kos gūudum ne Wënd goama, bala a yaa sifa, sēn yi A sif-rāmbā pugē, -A Naam yulgame-, la rē welgame ne fo sēn na n

kos gūudum ne bōn-naandga, a sēn yaa a soab fāa, yēnda yaa lagem-n-taare.

3. Wilgda doaag-kāngā yudlemā la a barkā
4. Bao kādeng (gūudum) ne yōkr-rāmbā, a yaa sabab n gūud yamba n yi wēnse.
5. A wilgdame ti ka sōmb ti b kos gūudum ne zēng sēn ka Wēnde ye, sēn yaa zin-rāmba, la tum rāmba (ti-soaadba) la zīri-be-neba la zēng sēn ka bāmba.
6. Wilgda sāri wā sēn kō sor ti b maan do-kāngā, ne ned ning sēn wa n tug n siga zīigē, zem ti yaa yiri maa yaa so-toaka.

(5932)

Yāmb yembr fāa sã n na n kē miisrē bi a yeele: Allahumma [ftahlu abwaaba Rahmatuka, (M Soab A Wēnde, pak F Yolsgā ragnoy n kō-ma), la a sã n na n yi, bi a yeele: Allahumma inni Ac'āhka min fadlaka, (M Soaba A Wēnde, m kot F la F yuwend)]

(245) – عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(245) – Yii a Abu Humayd nengē bi yaa a Abu Usayd nengē, a yeelame: Wēnd Tēn-tuvmā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) yeelame: «**Yāmb yembr fāa sã n na n kē miisrē bi a yeele: Allahumma [ftahlu abwaaba Rahmatuka, (M Soab A Wēnde, pak F Yolsgā ragnoy n kō-ma), la a sã n na n yi, bi**

a yeele: Allaahumma Innii As'aluka min faḍluka, (M Soaba A Wēnde, m kot-F la F yudlemā)».

[A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisā welsgo:

Nabiyaamā (Wēnd puusg la A tilgr be a yīnga) kānda a poorē rāmbā, n tees doaag sēn sōmb n yeel miisr kōom wakato: Allahumma [ftahlu abwaaba Rahmatika (M Soab A Wēnde, pak F Yolsgā ragnoy n kō-ma), tu yaa Wēnd kosgo t'A segl-α A yolsgā sabab-rāmbā, la a sā n rat n na n yi, bɪ a yeele: Allaahumma Innii As'aluka min faḍluka, (M Soaba A Wēnde, m kot-F-la F yudlemā), rēnd α kosda Wēnd A yudlemā, la A paas a zugu A neemā wā sēn yaa halaal rtla.

Sēn be Hadiisā yōod-rāmbē:

1. Hadiisā wilgda doa-kāngā, b sēn bu nonglem tu b yeel-a, b sā n wa rat n kē miisrē la b sā n wa rat n yi beenē.
2. Sēn welg tu b yeel yolsgā tu b sā n wa kēedē, la yudlemā tu b sā n wa yitā: yaa tu ned sā n wa kēedē a maanda soagl ne būmb ning sēn na n pēneg-a ne Wēnde la pēneg-a ne arzānā, rēnd woto zemsdame tu b yeel yolsgā, la f sā n wa

yita, f kēnda tēngā zugē n baood Wēnd yudlemā, sēn yaa rītlā, rēnd yē me zemsame tu b gom Wēnd yudlemā yelle.

3. Doos-kāensā yetame fo sēn wat n na n kē miisrē wā la fo sēn wat n rat n na n yī miisrē wā.

(65092)

Ned sā n kē a zakē, n tēeg Wēnd yvvre, a sēn wat n kēedē wā la a sēn wat n ritē wā, a svutāan yetame: mam gāag zīg ka be ne yāmb rūndā, mam ka tar rub me yāmb nengē

(246) – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْعَشَاءَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(246) – Yii a Gεεbr [bn ‘Abdullaah nengē, (Wēnd yard be b yīibā yīnga), t’a wvma Nabiyāamā, (Wēnd pvvsg la A tulgr be a yīnga) t’a yetē: «Ned sā n kē a zakē, n tēeg Wēnd yvvre, a sēn wat n kēedē wā la a sēn wat n ritē wā, a svutāan yetame: mam gāag zīg ka be ne yāmb rūndā, mam ka tar rub me yāmb nengē, la a sā n kē n ka tēeg Wēnd yvvr a sēn wat n kēedē wā, la a svutāan sēn yete: y paama gāag zīga, la a sā n leb n ka tēeg Wēnd yvvrā a rubē wā, la a sēn yete: y paama gāag zīga la rubo». [A manegame]- [A Muslim n togs-a]

Hadiisã welsgo:

Nabiyaamã (Wënd puvsig la A tulgr be a yĩnga) saglame ti b tēeg Wënd yuur yelle, f sēn wat n kēed zakē la f sēn wat n rat n na n ri, ti la ned sã n tēeg Wënd yuurã, n yeele (Bismillaah) a sēn wat n kēed a zakē wã la a sēn wat n sing a rubã, la a suutãan sēn yet a tumd-n-taasã: yãmb ka tar gãag zĩiga, y ka tar rub zak-kãngã pugē ye, zaka soab paama gũudum n yi yãmbã, ne a sēn tēeg Wënd yuurã, (A Naam zēkame). La ned sã n kē a zakē, n ka tēeg Wënd yuurã yelle, a sēn wat n kēedē wã, la a sēn wat n ritē wã, la a suutãan sēn yet a tumd-n-taasã, ti ad b paama gãag zĩiga la rub zĩigã, zak-kãngã pugē.

Sēn be Hadiisã yōod-rãmbē:

1. Yaa sēn bu nonglemã ti b tēeg Wënd yuurã b sēn wat n kēed zakē, la b sēn wat n na n ri, bala a suutãan gãee zagsē wã la a rit zakã-rãmb rubo, ti b sã n ka tēeg Wënd yuurã yelle, (A Naam zēkame).
2. A suutãan gũusda ninsaala a tumē wã la a na-kēndrē wã la a tumã fãa gill pugē, la a sã yim n bas Wënd yuurã tēegre, la a suutãan sēn paamd a tulsemã a nengē.
3. Wënd yuurã tēegr rigda a suutãana.
4. Suutãana yembr fãa tara pugdba la nong-n-taase, ti b noog b sũyã ne a koesã la b pugd a saglsã.

(3037)

Gafã buka

- Tuvsã** 2
- Ad tuumã yaa ne Anniy-rãmbã, la ninsaal fãa yaa a sãn maan Anniy ningã n be ne-a 4
- Lislaangã yaa f maan kaset ti soab sãn na n tũ n tulg ka be rëndã Wëndẽ, la a Muhammad yaa Wënd Tãn-tuuma 8
- B mee lislaangã zeng raad a nu zugu 14
- Yaa b tũ Wëndẽ la b ra maan lagem-n-taar ne-A ye, la yembã hake sãn zao Wëndẽ, yaa A ra wa tug n nams ned sãn ka maan lagem-n-taar ne-A baa fuı ye 16
- Ned ka be, n maan kaset ti (laa ulaaha llal-Allaah, wa a nna Muhammadan rasuullaah) = (M maanda kaset ti soab hakuk pa be rëndã Wëndẽ, la m maand kaset t'a Muhammad yaa Wënd Tãn-tuuma) n kõi sıda a sũurẽ wã, rëndame ti Wënd harm-a ne Bugmã 19
- Ned ning sãn yeele: Laa'ulaaha llallaah= soab sãn na n tũ n tulg ka be rëndã Wëndẽ, la a kılfg ne bũmb fãa sãn tũudi zẽng ti ka Wëndẽ, a arzekã la a zumã lebga haraam ne nebã, la a geelg zaoo ne Wëndẽ 22
- yaa ned ning sãn maan kaalem n ka maan lagem-n-taar ne Wënd baa fuı, yaa tulae t'a kẽ arzãñã, la ned ningã sãn maan kaalem t'a yaa sãn maan lagem-n-taar ne Wëndẽ, ne bũmbu, a kẽeda Bugumã 24
- Ned ning sãn maana kaalem ti yẽ kota gees-n-taag zẽng sãn ka yı Wëndẽ, a kẽeda Bugmẽ 26

Ad fo rabda neb sēn yaa Gafa..... 28

ad nebã sēn yud zu-noog ne mam sugsgã Dūni yikr raarã,
yaa ned ning sēn yeela tu laa ulaaha ullal-Allah, n yulg-a a
sūurē wã maa a mengē wã 31

Lumaoong yaa kōbg pis-yopoe la zaka, maa pis-yoob la
zaka, sēn tug n zēk n yude yaa Laa'ulaaha [llallaah»
yeelgo, la sēn tug n paood n yude, yaa fo sēn na n ruk
būmb sēn namsd nebã n yiis sorã 33

M soka Nabiyaamã, (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga)
yaa zūnuub pugo zislem n yud Wēnd nengē? T'a yeele:
«yaa fo sēn na n maan mak-n-taag ne Wēnde, tu Yē n
yaool n naan foom 35

Mam seka M menga n yi lagm-n-taara rāmb lagm-n-taa
rã, ned ning sēn tuma tuumde n lagm būmb zēng ne maa
m a tuumdã pugē, m basd-a lame ne a lagm-n-taarã ... 37

Mam poorē rāmbã fãa kēeda arzãna, sã n pa sēn tōdga 38
ra kils-y maam wala nasaar-rāmbã sēn kils a Maryam biig
a lisa wã ye, ad mam yaa A yamba, bu y yeel-y tu Wēnd
yamba la A Tēn-tuuma 40

Yāmb yembr fãa ka kōt sīda, halu tu mam wa tug n yu a
noanga n yud a roagdã, la a koambã la a nebã fãa gilli .. 42

Taas-y mam yīnga, baa tu sã n yaa Aayar a yembre, la y
yēs [sraaul koambã kibayã, tu taal ka be ye, la ned ning
sēn yaga n rogl maam pu-toogo bu a bao a zīndg zīig
Bugmē wã 43

Yaa sɪda, ad sã n wa beẽ, neb n na n zĩndi tu mam hadiis (gomd) wa tug n ta a nengẽ, t'a yaa sãn kull a zaoog zugu, n yetẽ : « ad tõnd ne yãmb suka yaa Wẽnd Gafã 45

Wẽnd kãab beed bee ne Yahuud-rãmb la Nasaar-rãmba, b rɪka b nabiyaam-rãmbã 47

M Soaba Wẽnde ra maan m Kabrã tu yaa rubg ye 49

a y ra rɪk mam yaogã tu yaa tigr bob n kẽng ye, la y puus-ma; tu yãmb puusgã tata maam y sãn beẽ fãa..... 51

Ad bãmbã yaa nebã tu yamb sõngo maa nin-sõng sã n ki b nengẽ la b sãn met miisr 53

Mam lebsda m meng Wẽnd nengẽ, n da wa tall noang yãmb pugẽ ye, bala Wẽnde -A naam zẽkame-, A yõka ma am n maan A zaoa, wala A sãn rɪk a [brahum n maan A za o wã 55

M ka na n tums foom bũmb ning yĩnga, Wẽnd Tẽn-tuumã (Wẽnd puusg la A tulgr be a yĩnga) sãn tums maam ne bũmb ningã? Tu f ra bas nin-naande rëndame tu f saram-a, la f ra bas yaog sãn zẽke, rëndame tu f zẽms a taaba ... 58

Beenẽ n kõ sɪd ne Maam, la kɪfl ne Maam 64

Ad Ruɪyya (walem n fuusã) la yoagã bobra la nonglemã tutã b yaa lagem-n-taare..... 67

Ruɪyya (karem-n-tubs-rãmb) nins sãn sakdã, bãmb la sãn kumd sart-rãmb a tãabã: 1- Yaa sãn na n loe t'a yaa sababo, ka tõe n naf tu sã n ka Wẽnd tõog ye. 2- Yaa a yu ne Alkurãanã la Wẽnd yuyã la A sɪf-rãmbã la Nabiyaamã

sĕn da tar n kotĕ wā la doos nins sari wā sĕn kō sorā. 3-
 Yaa t'a tū ne goam b sĕn fasĕmde a ka būmb sĕn lagem
 ne gom-biis b sĕn ka fasĕmde, la ttito. nengĕ, n sok-a
 būmbu, b ka reegd a Puusgo, rasem pis-naase 70

tu pa yu ne Wĕnde, a soab kuflame maa a maana lagm-n-
 taare 72

Ra n yeel-y tu: "Wĕnd sā n sak la a zagl me sak ye", la
 yeel-y tu: "Wĕnd sā n sak, rĕ poorĕ t'a zagl sake 73

Ad mam sĕn yĕesd yāmb zugĕ n tug n yuda, yaa lagm-n-
 ta-bila». Tu b yeele: yaa bōe la lagem-n-ta-bila Wĕnd Tĕn-
 tuumā? T'a yeele: «yaa maan-ti-b-yā 75

Ra zīnd-y yaadā zut ye, la y ra puus n togl-b ye..... 77

Suutāanā wata yāmb yembr fāa nengĕ, n yĕel-a « ānda n
 naan wānde ? Ānda n naan wānde ? » Halu n wa yeele: «
 la ānd n naan fo Soaba ? » Rĕnd a sā n wa ta woto, bi a
 kos gūudum n yi a suutāana la a base..... 78

M kengd-y-la ne Wĕnd zoεega la sak-n-tū, la yāmb na n
 yāa maSūnnm poorĕ, yōs taab wusgo, bi y gād mam
 Sūnnah la lĕdsdb nins sĕn yaa tĕeg turg-rāmbā, sĕn yaa
 kāndgdbā Sūnnah 80

Ned ning sĕn tōdg taoor soab pugbo, la a welg n bas
 zamā wā n maan kaalem, ad a kii zulem kūum 83

ned ka be Wĕnd sĕn na n kō-a būmb taoore, t'a wa tug n
 ki raar ning a sĕn kiidā, t'a yaa sĕn zambd a sĕn gūud
 būmb ningā, rĕndame tu W-a arzānā a zugu 86

Nanams n na n wa zīndi, tī yāmb pēgd b tuumā sānda la y kisg b tuumā sānda, la ned ning sēn maana neerā a soab fāag a menga, la ned ning sēn gidga b tuum wēnsā a soab tulgame, la yellā yaa ned ning sēn yara, n na n kell n puge	88
kō-y hake ning sēn zao yāmb zugā la y kos Wēnd ne hake ning sēn yaa yāmb rēndā	90
Yāmb yembr fāa gilli yaa gūuda, la yem kām fāa gill me, b na n sok-a-la a rūmsā yelle	93
m Soabā, ned ning sēn wa n luu mam poorē rāmbā yell taoore, n weoog-ba bī F weoog a zugu, la ned ning sēn wa n luu mam poorē rāmbā yell taoore, n zoe b nimbaanegā, bī F zoe a nimbaanega.....	95
Dīina yaa maan pu-peelem.....	96
f bāng tī yaa bāmb la Wēnd sēn pudā, bī f gūus-ba	99
a sā n ka tōe rēnda, bī a tedg-a ne a sūurā, la yēnda n tug n yud ne lumaang sēn yaa valanga.	104
Ned ning sēn yās Wēnd todsē wā n ka lut a pugē la sēn luu a pugē wā bilgri, yaa wala neb sēn na n kē koglg pugē, tī sānda paam yīngrā, tī sānda be tēngrā.....	106
Ned ning sēn boola n tug kāndgre, a soab tara keore wala neb nins sēn pug-a wā, tī rēndā me ka boogd bāmb keorā baa fu.....	109
Ned ning sēn wa n wilg sōma zīigā, a tara yel-sōmb wala sōmā wā maand bilgri.....	111

Ned ning sēn wa n tug n wōns a meng ne neba, yē me lebga bāmba	112
m wēena ne a Muhammad yōorā sēn be Naab ning Nugē wā, ned pa wumd mam kibare sēn be zamā-kāngā pugē, ti yaa Yahuuda ti yaa Nasaara, rē poorē t'a ki n ka kō sid ne b sēn tums maam ne būmb ningā, rēndame t'a yu Bugum biiga	114
yāmb a neba, m kengda yāmba ne maan-n-zuug dīinā puga, ad būmb ning sēn da halk sēn reng-b yāmb taorā yaa maan-n-zuug dīinā pugē.....	116
Kengdbā halkame.....	118
Yahuud-rāmbā yaa b sēn gē-b rāmba, la Nasaar-rāmbā yaa menemdba	119
Wēnd gulsa bōn-naandsā pulenga, taor t'A na n ka naan saasā la tēngā, yuum tus pis-nu.....	120
Wēnd Tēn-tuuma, -Wēnd Tēn-tuuma, Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga-, yēsa tōndo, yēnda me la sid soaba b sēn kōt a soab goam sidā, a yeelame: «ad yāmb yembr fāa, b tigimda a naanegā, a ma wā pugē rasem pis-naas la yund pis-naase,.....	122
Arzāna pēe ne yāmb ned fāa n yud a neodrā yulga, la Bugmā me yaa wala rē	125
B gūbga Bugmā ne yōor yamleedo, la b gūbg arzānā ne yōor sēn kisā	126

wakat ning Wēn d sēn wa n naan arzānā la Bugmā, A tumsa a Gibriila, tulgr be a yīnga	128
Yāmb dūni rāmb Bugmqa bek sēn puī zīis pīs-yopoe ne Gehannem Bugmā	132
Wēnd koonda tēngā n wēbg-a la A kool saagā ne A rutgo, rē poorē t'A yeele: Maam la Naabā, tēngā nanamsā bεε?	133
ad nebā sēn yud namsgo Wēnd nengē dūni yikr raare, yaa neb nins sēn maand n wōnesd Wēnd naanegā.....	134
M wēen ne Naab ning mam yōorā sēn be A Nugē wā, keta bilf t'a Maryam biig sig yāmb pugē, t'a Boudā yaa tēeg turga, n kao pikā, la a ku kurkuyā, la a bas yōor yaoob reegre, ti arzekā wusge, halu ti ned baa a yembr ka reegd-a ye	136
yeel ti soab sēn na n tū n tulg ka be rēnda Wēnde, ti m na maan kaset n fāag-fo gom-kāngā sabab yīnga, dūni yikr raarā	138
Mam bākā Wēnd sēn waoog maam ne-a wā laahr raarā, a woglemā yaa kiuug kēnd teka, a koomā peelem yuda bīisim, t'a yūugā noom yud misk parfē	140
B na n waa ne kūum t'a wōnd pesg sēn tēgse	142
Yāmb sā n dag n bobend-y mensā boblg tekē, A rag na rulg yāmb wala A sēn rulgd liuuli wā, b yikda tōd beoogo ti b pusā yaa tabla n ta zaabr ti b pusā pidi.....	144

Zoambd n ningd sēn kēnda sallem, tɪ sēn kēnda n ningd zīid sallem, tɪ neb kɪdg ning neb wusg sallem	146
Yaa Mam yembse, ad Mam gɪdga wēgd Mam zugu, n maan-a t'a yaa haraam yāmb ne taab suka, bɪ y ra wēg taab ye	148
Zoe-y wēgdo, tɪ ad wēgd yaa ligs dūni yikr raarā, la y zoe beedo, tɪ ad beed n halk sēn reng-b yāmb taoore,	153
Ad Wēnd tōe n yaoolga wēgdā, t'A sā n wa yōk-a a ka pōsgd-A ye	154
kobs-yopoe, n tug n tāag fāoob wusgo, la sēn saaga ne tuum wēnga la a Ka tum-a Wēnd gulsd-a-la A nengē yel-sōmd sēn pidi, la a sā n saag-a n maan-a, Wēnd gulsa me n kō-a yel-wēng a yembre.....	156
ned ning sēn manega lɪsloongā pugē, b ka yōkd-a ne būmb ninga a sēn tum Zulmā sasa ye, la ned ning sēn wēnga lɪsloongā pugē, b yōkd-a la ne a rēnem la a yaoolem tuum fāa.....	158
ad fo sēn yet būmb ninga la f boond n tugdē wā be neere, la fo sā n da kō tōnd kibare, tɪ tōnd sēn da maan tuum ningā tara yaafa	160
fo tuubame n lagem ne f tuum nins fo sēn da tum tɪ loog tɪ yaa sōmā wā	162
Ad Wēnd ka wēgd muunim baa yel-sōmd a yembr ye, A kōt-a-la dūni wā neemā sēn tū ne yel-sōmdā la A leb n rol-a rol sōngo laahr raare	163

Yamb maana zunuub tuumde, n yeele: " Soaba Wēnde yaaf m zunuubã	165
Ned ka be sēn na n tum zūnuuba, rē poorē n yik n yulge, rē poorē n puuse, rē poorē t'a kos Wēnd yaafa, rēndame tɪ Wēnd yaaf-a	168
Tōnd Soabã sigdame, -A Naam zēkame- yung fāa, n wa dūni saasē wā, yungā sēn puɪ tāab n yāk yembrā sā n wa ta a baasgā zīgē.....	170
Ad Halaalā yaa vēnega tɪ Haraamā me yaa vēnega.	172
Biiga, ad mam na n wilga foom gom-biisi, gūus Wēnd t'A na gūus-fo, gūus Wēnd tɪ fo na mik-A f togellē wā, f sā n n a n kos bɪ f kos Wēnde, la f sā n na n kos sōngre bɪ f kos Wēnde	174
wilgd maam gomde, lɪslaangā puga, m sēn kōn n le sok-a ned baa a yembr sā n ka foom, t'a yeele: «yeele: m kōo sɪd ne Wēnde, rē poorē, tēeg turga	176
Muumin-rāmbā bilgri, b nong-taabā la b yols-taabā la b nim-bāan-zoεεgā pugē, b yaa wala yīnga, yīn-will sā n zīnd beenē n zabdē, la yīngā fāa gill sēn boond taab n lagem-a ne gōeem basbo la yīn-zabre	178
Ned ning sēn yōka koom, n maneg a koomā yōkre, a tuum tuuti wā yitame n bas-a a yīngē wā, halɪ n wa tū a nug-yēesā tēngrā n yi.....	179
Wēnd pa reegd yāmb yem kusgo, t'a sā n rēgme, halɪ t'a wa yōk koom.....	181

Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) ra yume n yõkd koom Puusg fãa wakato.....	182
Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) yõga koom vugr-vugri	183
Ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) yõka koom noor a yiib-yiibu	184
Ned ning sën yõga mam koomã yõgb buudu, rë poorë, n puus rakaar a yiibu, n ka tags dũni yel a pugë, Wënd yaafda a zũnuub sën reng taoore.....	185
Yãmb yembr fãa sã n na n yõk koom, bi a ning koomã a yõorë wã, rë poorë bi a vëes n yiisi, la ned ning sën na n yëes a sɛeg bi a maan noor a tãabo	189
Ad b yiibã b namd-b lame, la ad b ka namd-ba yel bedr poorë ye, b yiibã yembrã, yënda rag ka yu n gũusd a ruudmã ti ra mat a mengã ye, la sã n yaa yembrã, yë rag n kënda ne têng-kãn-wëendo nebã ne taab suka	191
Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga), a sã n këng we-kɛnga, a yetame: «Allaahumma, inni Auuzu bika minal hubsi wal habaa'ls =M Soab A Wënde, m kota gũudem ne Foom n yi suutãan roapa la suutãan pogse	193
Ra-wãbdgã yaa yulgr ne noorã, n yaa yarda ne Soabã .	194
Yaa hake n zao lɪslaam fãa gilli t'a so rasem a yopoe pugë fãa raar a yembre, n pek a zugã la a yĩngã	195

Lislaangã rog-n-mikã yaa nu, yaa böng koom, la pend
põmbo, la no-kõbd wõrsgo, la na-yëes wõrsgo, la bãgd
võobo..... 197

Mam da yume n yaa raa sën yãt mazi wusgo, la mam ra
yume n zoet yãnde, n na n sok Nabiyaamã (Wënd puusg
la A tulgr be a yĩnga) a bi-puglã sën yaa mam pagã yĩnga,
tu mam tuma a Al-Mikdaad [bn Al-aswade t'a sok-a, t'a
yeele: «Ad a pekda a tãoorã la a yõk koom..... 199

Ra yume t'a sã n na n so genaabo, a pekda a nus a yuibã,
la a yõk koom wala a sën na n puuse, rë poorë t'a so.. 201

«ad ra seka foom tu fo maan ne f nus a yuibã woto» rë
poorë t'a ruk a nus a yuibã n wë Tëngã vugri, n saag a
goabgã ne ritgã la a nus tal a yuibã kudgu la a nengã ... 203

Bas-ba tu mam wid-b lame tu b yaa ylma..... 205

ad rënda yaa bãaga, la bas Puusgã sën zems rasem-rãmb
nins fo sën rag n yãt Pekrã teka, rë poorë bi f so la f puuse
..... 207

Yãmb yembr kãm fãa sã n wum bumb rãamd a pugë wã,
t'a pa mië, bumb n yi bi pa yi, bi a ra yi miisrë wã, halu t'a
wa wum burgo maa yũugu 209

Laandãan boaal sã n yeele; "Allaah akbaru, Allaahu
akbaru..... 210

Yãmb sã n wum laandãan boaandã sën boonde, bi y yeel
wala a sën yetã, rë poorë bi y puus maam 213

Fo wumda laandãanã bu?» T'a yeel ti n-ye. T'a yeel-a: «bu f sake 216

Yãmb yãame, lak kulg sã n be yãmb yembr fãa zak noore, t'a sood a pugẽ, raar fãa noor a nu, fo yetame ti rëgd na n paa a yĩngẽ wã baa kidg bu? 217

Yaa tuum budo n noom Wënd n yuda? T'a yeele: «yaa Puusgo, a wakatẽ wã». T'a yeele: rë poorẽ yaa bõe? T'a yeele: «rë poorẽ yaa roagd a yiibã manegre». T'a yeele: rë poorẽ yaa bõe? T'a yeele: « yaa zab Wënd Sorã poorẽ 219

Lislaam ka be sën na n wa faril Puusgo, n maneg a koomã yõgbo, la a maan yĩn-yõgnego a Rukuu wã, rëndame ti Puusgã yi n yaa zũnuub yaafgo, zũnuub-rãmb nins sën reng Puusgã taorã, t'a sã n ka tum zũnuub bedre, la rënda yaa a vumã gill pugẽ 220

Wakat a nu wã, la arzũm n ti tãag arzũma, la Ramadaan n ti tãag Ramadaane, b yaafda sën be b sukã ti ned sã n zãag zũub bedã 222

Sagl-y y koambã ti b puuse, ti b sã n wa tar yuum a yopoe, la y pãb-ba Puusgã yĩnga ti b sã n wa yaa yuum piig koamba, la y welg-b ne taab suka, gãasẽ wã 223

Wënd yeelame, (A Naam zëkame); Mam puu Puusgã Maam la M yambã suka, boag a yiibu, la Mam yambã, a sën kos bũmb ningã fãa, M na kõ-a..... 225

Ad alkaool ning sën be tõnd ne b suka, yaa Puusgã, rënd ned ning sën bas-a, a kiflame 229

Ad būmb ning sēn be ne ned la lagem-n-taarā la kfēndā suka, yaa Puusg basbo	230
A Bilaale, yals Puusgā, pems-d ne-a	231
Puusg pa be ne ned ning sēn pa karma Gafā pakdgā ye	232
m wēen ne mam yōorā sēn be A Soab Nugē wā, ad maam puusgā n yud wōneg ne Wēnd Tēn-tuumā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) Puusgā, ne yāmba, la ad a Puusg rag n da yaa woto bala, halu t'a wa bas dūni	233
B sagla maam tu m maan suguud kōb a yopoe zugu	236
Ad yāmb na n yāa y Soabā, wala yāmb sēn ne kiu-kāngā wā, la yāmb ka maand sik a yāabā pugē	238
Ned ning sēn wa n puusa fagirā, yē soab bee Wēnd gūudum pugē.....	240
Ned ning sēn basa Laasar Puusgo, a tuum luume.....	241
Ned ning sēn yīma Puusgo, bi a puus-a a sēn wa n tēege, a ka tar sēn na n maan n role, sã n ka woto ye	242
Ad Puusg sēn yud toog munaafugsā zutu, yaa Sāaf la Fagiri, la b sã n dag n mi sēn be b yiibā pugē, b rag n na wa n puus-ba, baa b na n vūnumame	244
Wēnd Tēn-tuumā (Wēnd puusg la A tulgr be a yīnga) ra yume t'a sã n roog a poorā n yi rukuē wā Puusgā pugē, a yetame: «(Sami' Allaah luman hamıdahuu	246

Ti Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga) ra yume n yet suguud-rãmb a yïbã suka: «Rabbu lgrfu lu, Rabbu lgrfu lu= (M soaba! Yaaf-ma. M Soaba! Yaaf-ma) 248

Nabiyaamã ra yume (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga) n yet Suguud a yïbã suka: «Allahumma lgrfu-lu, warham-nii, wa 'aafu-nii, wahdi-nii, warzuk-nii 249

Yãmb sã n na n puuse, bu y tēeg y saf-rãmbã turga, rē poorē bu y yãk y ned tu yu limaam, a sã n yeele: "Allaahu Akbaru 250

Wënd Tēn-tuomã (Wënd puusg la A tulgr be a yïnga) wilga maam -tu mam tallã be a tal a yïbã suka- Sahdã wala a sēn wilgd maam suurã Alkurãanē wã 257

Allaahumma innu a'ubuzu buka min 'azaabu l-kabru, wa min 'azaabu annaaru, wa min fitnatu l-mahyaa wa l-mamaatu, wa min fitnatu l-masuh d-daggeel 260

Puusg ka be ti rub sã n rıgl ye, pa we-keeng me sēn na sēk-a ye 263

Yãwã yaa suutãan b sēn boond tu Hinzib, fo sã n wa paam-a f Puusgã pugē, bu f kos gūudum ne Wënd n yi-a la f tubs f goabgã weengē noor a tãabo 264

Nebã sēn yud wēng ne wagem yaa ned ning sēn zuuda a Puusgã pugē». Ti b yeele: a na n zu a Puusgã wãn-wãnã? T'a yeele: «a ka pidsda a rukuu wã, ka a suguudã 266

Yãmb yembr fãa ka yæesd t'a sã n reng limaamã n roog a zugã, tı Wënd na n maan a zugã tı lebg böang zugu, maa A maan a yĩngã tı lebg böang yĩnga	267
Allaahumma Antas-salaam, wa minkas-salaam	269
ën-tuuma, (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) rag n yume n yet bãmbã Puusg fãa poorë	270
Tı Nabiyaamã (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) a yume n rag n yet faril fãa Puusg poorë	273
M gũusa Nabiyaamã nengë (Wënd puusg la A tulgr be a yĩngã) rakaar-rãmb piiga	275
Yãmb yembr fãa sã n kě miisri, bı a maan rakaar a yiibu taoor t'a na n ka zĩnd ye	277
Fo sã n yeel f yaka, arzũmã raare: "sĩndi", tı limaamã maand hutbã, sid la hakuka f reemame	278
Puus tı f yaa sën yãse, f sã n pa tõe, bı f zĩndi, f sã n pa tõe, bı f kulle	279
Puusgo mam miis-kãngã pugë, a yel-sõmdã yuda Puus-rãmb tusri zëng sën ka miis-kãngã pugë, sã n ka Lohorem miisrã bala	280
Ned ning sën me miisr Wënd yĩnga, Wënd meta a buudu arzãnã pugã n kõi-a	281
Sara ka boogd arzek ye, la Wënd ka paasd yamba ne a sën na n maan bas tı looge rëndame tı yı zıslam bala la ned ka yı n na n gãneg a meng Wënd yĩnga rëndame tı Wënd zëk-a	283

Wënd yeelame: Adam biiga, yäk n nafe, tı M na kö-fo.	284
Rao sã n rulg a zak rãmbã ne-a	285
raarã, raar ning maasem sën ka be tı sã n ka A maasmã	286
Wënd na yols neda, sën yaa bas-tı-loog t'a sã n na n koose, la a sã n na n da, la a sã n na n sok a samde	288
Ned n da be n pengd nebã, la a ra yeta a tuum biigã: fo sã n këng keelem soab nengë bı f bas-a, tı tõe tı Wënd ya af n bas-do.....	289
Ad neb n be beenë n fãood Wënd arzekã pugë, tı ka tũ ne hake ye, ad b rãmb tara Bugum dũni yıkr raare	290
Ned ning sën loe Ramadaanã, ne liimaoongo (sıd kũuni) la yel-sõmd tõebo, b yaafd-a lame, a zunuubã sën reng taoorã	292
Ned ning sën yalsa ne Puusgo Laylat Alkadrã (Pulengã) raar yungo, tı yaa sıd-kũun la yel-sõmd tõebo, b yaafda a zunuubq sën reng taoore	293
Ned ning sën wa n këng hagiimdu, n ka maan keed-n- taare, n ka maan dïin-yiib tuuma, a yita a zunuubã pugë, n lebg wala a ma wã sën rog-a raar ningã	294
Rasem-rãmb ka be tı tuum sõmbs noom Wënd n yud rasem-kãensã ye» rat n yeel tı rasem piigã	295
Ad Wënd ka get y naandã la y arzekã ye, la ad A geta yãmb sũyã la y tuumã	297

Ad Wënd zabda ra-taare, la muumim me zabda ra-taare, la Wënd ra-taarã zabre yaa muumim sën wat n maan Wënd sën gudgã	299
Zoe-y n zãag-y yel-halkds a yopoe wã	300
m pa na n kō-y kibar ne zūnuub bedã sën yud bedrem?"	302
Zūnuub beda: yaa lagem-n-taar ne Wēnde la roagdb a yībã namsgo la yōor kuubo la wēen bōrdga.....	304
Rēenem b sën na n bu nebã ne taab suka dūni yikr raarã yaa zumẽ wã	306
Ned ning sën wa n ku lslaambã sën rik Alkaool ne a soaba, a kōn n wum arzãñã yūug ye, la a yūugã wumda yta yuum pis-naas kēnd zīgẽ	307
Rog wãas ka kēed arzãn ye.....	309
Ned ning sën wa n tulla tu b yalg a rttlã la b yaool a vūunã, bu a tōk a rogmã.....	310
Ad rog tōkda pa sën maanda neere n rondẽ wã ye, la ad rog tōkda yaa b sën na n wãag a soab rogem, la a sën tōkd-a	311
Yãmb mii widg sën yaa a sab bu?" Tu b yeele: Wënd la A Tën-tuumã n yud minim, t'a yeele: " yaa fo sën na n tēeg f saam-biig yelle, būmb ninga a sën kisi.....	313
Wënd Tën-tuumã (Wënd puusg la A tigr be a yīngã) a kãaba zãmb soaba la sën reegd-a n na n maan zãmbã buud pugẽ	315

Gūus-y y mens ne sām̄bse, t̄i ad sām̄bsā la gom sēn tug n yud zīri-beedo	316
Gom r̄tgsd ka kēed arzān ye	318
Mam poorē rām̄bā fāa yaa sēn yaaf-b rām̄ba, sā n ka vēnegdbā	319
yāmb a neba! Ad Wēnd sēesa zulem sasa yelā n bas yām̄bā, la a wug-m-menga ne yaab-rām̄bā.....	321
Ad nebā sēn yud gēeg Wēnd nengē, yaa zab-to neda..	323
L̄islaamb a yiib sā n yek taab ne b s̄usā, nin-kuudā la kiidā fāa bee Bugmē	324
Ned ning sēn wa n zēka zab-teed tōnd zugu, a ka be tōnd pugē ye	326
Ra tu-y kiidbā ye, ad b loogame n kēng b sēn tum t̄i reng taoorē wā.....	328
Ka sōmb ne neda t'a wāag a ma-bi taaga, t̄i yud rasem a t̄āab ye, t̄i b yekd taaba, t̄i yāwā killed kaanē, t̄i yāwā killed kaanē, la b yiibā sōma sēn yuda, yaa sēn sunga a to wā puusgā.....	329
ned ning sēn kō a maam bas-m-yam ne būmb ning sēn be a ye-peed a yiibā suka la a nao a yiibā suka, m kōt-a-la bas-m-yam ne arzēnā	330
Mam ka bas m poorē wā fitna (zarb-n-gesg) sēn namsd raopā n leb yud pagbā ye.....	332

Ad dūni wā yaa noogo n yaa bugsgo, la ad Wënd na n ledsa yāmb a pugē arzeḡsē wā n ges būmb ning yāmb sēn na n tume, bɪ y zoe dūni la pagbā	333
Fur loees ka manegde, rëndame tɪ tū ne biig ba-rāmbā minim.....	335
Sart-rāmb nins sēn sōmb ne yāmb pidsgā, yaa yāmb sēn ruk sart-rāmb nins tɪ tao wā lebg halaal ne yāmba	336
Dūni wā yaa wum-noogo, la dūni wum-noog sēn yuda, yaa pug-sōngo	338
Tɪ Wënd Tēn-tuumā (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) a gidga som pok pōngre	339
Wōrs-y no-kōbdo la y bas toeemse	339
Ad sēn be yāmb nin-tūusdsā pugē, yaa sēn yud-b yāmb ne zug-sōngo	340
Ad muumin paamdame sēn tū ne a zug-sōngā, no-loet darge sēn yās ne Wënd tūudmā.....	342
Sɪd-kōtbā sēn yud lumaoong pidbu, yaa sēn yud ne zug-sōngo, la yāmb sōmblem sēn yuda, yaa ned ning sōmblem sēn yuda a pagbē wā.....	343
B soka Wënd Tēn-tuum, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) būmb ning sēn waoog n kēesd nebā arzān n yuda, t'a yeele: "Yaa Wënd zoεga la zug sōngo.....	344
Wënd Tēn-tuumā, (Wënd puusg la A tulgr be a yīnga) rag n yume n yud nebā ne zug-sōngo	346

Ad Wënd Nabiyaamã zugdã (Wënd puusg la A tigr be a yĩnga) ra yaa Alkurãana.....	347
Ad Wënd maaname ti yaa tilae ti b maneg n tug bũmb fãa gilli	349
Ad tēeg turga rãmbã b bee zaos zutu ti yaa nuura, ti be Arrahmaan Naabã ritg wεengē, la A Nus a yiibã fãa rag n yaa ritgo.....	350
Namsg ka be, nams taab me ka be. La ned ning sēn wa n bao n na n namse, Wënd namsd-a lame, la ned ning sēn wa n bao n na n kenge, Wënd kengd-a lame	352
Ra gē ye	354
Ad raood ka yōk-n-lub ye, la ad pãng soaba yaa ned ning sēn tōe n yōk a menga a gēeg sasa	355
Yãn-zoεeg bee liimaong pugē.....	357
Ned sã n nong a to, bi a togs-a t'a nong-a lame	358
Maan neer buudã fãa yaa doaaga.....	359
Yamb nao-kadem a yiibã ka na n zēke, halt ti b wa tug n sok-a a vumã a sēn sεεs-a zĩig ningã, la a bãngrã, a sēn tum bũmb ning ne-a, la a arzekã, yaa ye la a paam-a la a kēes-a-la yεenē, la a yĩngã a sēn kuldg-a zĩig ningã.....	360
Ned sēn yãs ne pug-kōor rulgre	362
Ned nin sēn kōta sid ne ěnde la Yaoolem raarã bi a yeel sēn be neere maa a sĩndi	363
baa ti fo na n sega f ma-bi taag ne neng sēn yōgemde	365

Ned ning sēn ka yolsda nebã, Wēnde, A Naam yī wagell n zēka, A ka yolsd-a ye	366
Yolsdbã, Arrahmaan Naab na n yols-b lame, yols-y sēn be b tēngã, tī sēn be a saasē wã na n yolsa yãmba	368
Islāam hake a Islāam taag zugu	369
Y ka kēed arzãnã halī tī y wa kō sīda	371
Tī raoa n sok Nabiyaamã (Wēnd puusg la A tulgr be a yīng a) Islāangã yell budo sōmblem n yude? T'a yeele: «rulg rubo la f ning sallem fo sēn bāng a soab la fo sēn ka bāng a soaba	373
Muumīn sēn tar pānga, yēnda sōmblem, n leb n nong Wēnd n yud muumīn sēn yaa valenga, la b fãa yaa sōma,	374
A Gibriil ka bak n sagend maam ne yaka, halī tī mam da tēed t'a na n lagem-a-la fa-ritbē wã	377
Ned sã n zab n sōng a ma-bi taag burkīnd lillgri, Wēnd na n tusa a nengã n yi Bigmã yīkr raarã	379
Ad bug-bug ka zīndid būmb pugē rēndame t'a nags-a, b ka kongd-a būmb pugē me rēndame t'a zang-a	380
Yols-y la y ra keng ye, la y noog nebã sūy la y ra yees-b ye	381
Tōnd rag n bee d zu-soaba a 'Umar nengē t'a yeele: «B gidga tōnd n yi maan-tī-looge	383

Yãmb ned fãa sã n na n rı, bı a rı ne a ritgo, a sã n na n yũ, bı a yũ ne a ritgo, bala a sutãan rita ne a gobre, la a yũud ne a gobre.....	384
Biiga, f sã n na n rı bı f yeel bismillaah, la f rı ne f ritgo, la f rı f taorã.....	385
Ad Wënd yarda yamba, a sën na n rı n pëg Wënd rubã yĩnga, maa a yũ bõn-yũudga n pëg Wënd a yĩnga.....	387
Tı ned n rı Wënd Tën-tuumã nengë (Wënd puusg la A tulgr be a yĩnga) ne a goabgã, tı Nabiyaaamã yeel-a: «rı ne f ritgã», t'a yeele: m ka tõe ye, t'a yeele: «f kõn n tol n leb n tõog ye.....	388
ad Wënd nongame n rat tı nebã maan yolsg nins A sën kõ-ba, wala A sën nong tı b maan bũmb ninga A sën keng b zugã.....	389
Ned ning Wënd sën wa n rat-a ne sõma, A rogend-a-la yelle.....	391
Bũmb ka paamd lıslaamã sën yaa yaamse, la bãase, la yugre, la sũ-sãanga, la nango, la pakre, halt n tug n tãag gõaag sën kõsd-a, rëndame tı Wënd yaaf a tuum tuuti wã ne rë sababo.....	392
yamb sã n bẽ maa a toga sore; b gulsdame n kõ-a a sën da tumdã t'a ra tar laaft n be yirã.....	393
Ned ning Wënd sën tull a soab ne sõma, A fasemd-a-la dĩinã.....	394

Ra karem-y bāngrā n rat n na n pug ne-a bāngdb ye, maa
y wē no-koeemd ne yalms ye..... 396

Yāmb sōma sēn yuda soaba, yaa ned ning sēn karem
Alkurāanā la a wilg-a..... 398

rēnd bāmb ka rag n leb n reegd Aayae-rāmb piiga a taaba,
halı tı bāmb wa tug n bāng piig ning bāmb sēn reegā . 399

Ned ning sēn karema guls-biig a yembr Wēnd Gafē wā, ad
a tara yel-sōmd ne-a, la yel-sōmdā me fāoogda piig bilgri
..... 400

B na n yeela Alkurāan soab laahr raare : karem la f ru, la f
karem wala f sēn da yı n tūnigd dūni kaanē wā, ad fo
darge wā teka yaa Aaya baasdg fo sēn na n karem-a zīigē
..... 402

Rē yīnga yāmb yembr fāa nongame, t'a sā n wa kēng a
zakē, bı a tug n mik yugem pus a tāabo, sēn nobe, tı be a
zakē wā tı yaa yēnd n so ?..... 403

Tēegd-y Alkurāan-kāngā, tı mam wēenda ne a
Muhammad yōorā sēn be Naab ning nugē wā, ad
Alkurāanā n yud fāagr ne yugemd sēn be a baarē 405

Ra rık-y y zagsā n maan tı yaa yaad ye, ad suutāanā
zoetame n basd zak ning b sēn karem Al-Bakara a pugē
..... 406

Yaa a Abuu Munzire, rē yīnga fo mii Aayar sēn be Wēnd
Gafā pugē, fo sēn karemā, zislem sēn tug n yuda bu ? 407

Ned ning sēn karema Aaya a yīb nins sēn be Naafā suurā
baasgē wā, yung pugē, b na sek-a n yi wēng buud fāa 409

Ad kosgā yēnda la tūudmā 410

Nabiyaamā (Wēnd puosg la A tulgr be a yīnga) ra yume n
tēegd Wēnd yuurā yelle, a wakat-rāmbā fāa pugē..... 412

Būmb ka be n tar waoor Wēnd nengē, A Naam yi wagell n
zēke, n leb n yud kosg ye..... 413

Ad sud-kūunā kudgda yāmb yembr fāa nengē, wala fuug
sēn kudgd to-to ningā, bī y kos Wēnd t'A palms sud-kūunā
y sūy wā 415

Yamb sēn tug n yud pēnem ne a Soabā, yaa a sēn wat n
be suguudē wā, sā n yaa woto bī y wusg kosgā 416

Nabiyaamā (Wēnd puosg la A tulgr be a yīnga) a doaag
sēn da yud rag n yaa! "Allaahumma rabbanaa aatūnaa
fiddunyaa hasanatan wa ful Aahirati hasanatan wakūnaa
‘azaabannaar, = d Soaba Wēnde! Kō-d Dūni pugē sēn be
neere la Yaolem-raarā sēn be neere, la F gū tōnd ne
Bugmā namesgo 417

yume t'a sā n kull a gāagē wā, n na n gāand yung fāa, a
tigimda a nus a yībā 419

Yaafā wā kosg zu-soaba..... 420

«{Yeele: " Yēnda la Wēnde, A yaa A Yembre} (kulhuwa
Allah) la Ma'uzatayne (kul auuz-rāmb a yībā): fo sēn
wat n ta zaabr la fo sēn wat n vēeg beoogo, noor a tāabo,
tī b sekda foom n yi būmb fāa gill wēnga..... 424

Goamã sën tug n noom Wënd n yud yaa naase:
Subhaanallaah, wa Alhamdu lillaah, wa laa'laaha
ullallaah, la Allaahu Akbaru, fo sën reng a soab n sung fãa,
a ka sãam ye 426

Ned ning sën wa n yeele: Laa laaha ullallaahu, wahdahuu,
laa šaruka lahuu, lahuľmulku wa lahuľhamdu, wa huwa
'alaa kullu šay-ın kadur = soab sën na n tũ n tulg ka be,
rënda Wënde, A yaa Yembre, lagem-n-taag ka be ne-A ye,
Yë n so Naamã la A sõ Pëgbã, ad Yënda yaa Töogd ne
bũmbã fãa gilli, noor piiga 427

Gom-biis a yiibu n be, n yaa faasg ne zelemdã, n yaool n
yaa zısgo, tuum peesg laok zugu..... 429

Ned ning sën yeela: (Subhaana-llaah wa bihamdihii, yulgr
be ne Wënd, la pëgr be ne-A) raar pugë, noor koabga, b
lubda a zũnuubã baa t'a sã n yaa wala mogr puudu 430

ylgrã a yaa lumaang pusuka, la Alhamdu lillah, a pita
tuumã geelg laoko, la subhaanallaah la Alhamdu lillaah, b
yiibã pitame, maa a pita bũmb ning sën be saasã la tëngã
..... 431

Mam sën na n yeel (Subhaana-llaah) la (Al-hamdu lillaah)
la (Laa laaha ullallaah) la (Allaahu akbaru) yë n noom
maam n yud bũmb fãa wĩndgã sën puk n miki..... 435

tũud n tulg kae rënda Wënde), la kosg sën yuda, yaa: Alha
mdu lull-Laah, (Pëgr be ne Wënde) 436

Ned ning sën wa n tug siga sigb zĩigë, rë poormsd-a halı
t'a wa tug n yik zĩ-kãngã..... 437

Yãmb yembr fãa sã n na n kě miisrě bı a yeele:
Allahumma [ftahlu abwaaba Rahmatıka, (M Soab A
Wěnde, pak F Yolsgã ragnoy n kő-ma). la a sã n na n yi, bı
a yeele: Allaahumma Innii As'aluka min fađluka, (M Soaba
A Wěnde, m kot-F la F yudlemã) 439

Ned sã n kě a zakě, n těeg Wěnd yuure, a sěn wat n kěedě
wã la a sěn wat n rıtě wã, a suutãan yetame: mam gãag
zııg ka be ne yãmb ründã, mam ka tar rub me yãmb
nengě..... 441



Nabiyaamā Hadiis-rāmbā yē la yēgr a yīib
soaba sēn be Sari wā yēgā pugē, Wēnd
yeelame, A naam zēk yā: {A pa gomd a
yōor yamleog ye (3) Ad yaa Wahı b sēn
tumd a nengē} [An-nagm: 3-4].

La tūus-kāngā sēn yi Hadiis-rāmbā
ānsuklopedi wā a tigma hadiis-rāmb sēn
yaa Hadiis gubgdsā, İtslaam sēn tar
tulsem ne-a, a dīina yelē la a dūni wā, n
lagem ne a vēnegre sēn yaa koεega, la a
maanā-rāmbā welsgo, la b raabā, la b
yōod-rāmbā sānda, n leb-g a n tug dūni
wā buud-rāmbā, goam nins sēn tar
gomdbā fāa, sēn na yil t'a nafā wā gubgi,
n leb n yaa Wēnd Tēn-tuum Sunnā taasgo
-Wēnd puusg la A tılgı be a yīnga- nebā
nengē, ne b buud-rāmbā goam.



مكتبة الأمانة الإلكترونية
HadeethEnc.com

